

جملہ حقوقِ دائمی سمجھتی پر بشر محفوظ ہیں !  
حکومتِ پاکستان سے باضابطہ حبڑ دشہ

# تذکیرہ لفظ

## حصہ اول

### مقرقر آن

از — مولانا امیر حاج سلسلہ مکاریہ

واحد تقسیم کار

کشمیر بکڈ پوچنیوٹ بازار فیصل آباد

فون نمبر:- 640320

ملک سر تاجران کتب کار خانہ بازار فیصل آباد

فون نمبر:- 644375 قیمت:- ۵ روپے

آفسٹ اپریل ۱۹۷۶ء

قیمت

—/- ۱۰۵ روپے

مطبع

المطبعة العربية

ستاد بولٹن فاؤنڈیشن، ناظمگار (اوسمی)

ناشر

کشمیر بکٹ پوچیوٹ بازار

فیصل آباد

## دیباچہ

- ۱۰ دین میں تذکیرہ نفس کی اہمیت اور اس کی عمومی ضرورت
- ۱۵ ۱۔ انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد  
۲۔ تذکیرہ علم نہ راز ہو سکتا ہے نہ نامکمل  
۳۔ بعض احادیث سے غلط استدلال
- ۲۰ تذکیرہ کا لغوی مفہوم، اس کا مقصد اور اس کی وسعت
- ۲۲ ۱۔ تذکیرہ کا اصطلاحی مفہوم  
۲۔ علم تذکیرہ کی وسعت  
۳۔ علم تذکیرہ کا اصل مفہوم  
۴۔ خوب سے خوب ترک جستجو
- ۲۴ ۱۔ تذکیرہ کا اصلی مفہوم  
۲۔ تذکیرہ علم و ادراک  
۳۔ تذکیرہ عمل
- ۲۶ ۱۔ تذکیرہ کا اصلی مفہوم  
۲۔ علم تذکیرہ کا اصل مفہوم  
۳۔ علم تذکیرہ کا اصل مفہوم  
۴۔ علم تذکیرہ کا اصل مفہوم  
۵۔ علم تذکیرہ کا اصل مفہوم  
۶۔ علم تذکیرہ کا اصل مفہوم  
۷۔ علم تذکیرہ کا اصل مفہوم  
۸۔ علم تذکیرہ کا اصل مفہوم  
۹۔ علم تذکیرہ کا اصل مفہوم  
۱۰۔ علم تذکیرہ کا اصل مفہوم

## ۸۔ تزکیہ تعلقات و معاملات

۳۲

۳۵

### جز کیہ علم

- ۱۔ علم خلائق کا سچپہ خدا کی معرفت ہے
- ۲۔ خدا کی معرفت کا صحیح مفہوم
- ۳۔ معرفت الہی حاصل کرنے کا طریقہ
- ۴۔ فلاسفہ کی رائے
- ۵۔ منشکین کی رائے
- ۶۔ صوفیہ کی رائے
- ۷۔ ہٹو فیرد کے زدیں علم اور معرفت کی حقیقت
- ۸۔ علم کی حقیقت
- ۹۔ معرفت کی حقیقت
- ۱۰۔ فلاسفہ اور منشکین کے نظریات پر تبصرہ
- ۱۱۔ شیخ الاسلام کے نظریات پر تبصرہ
- ۱۲۔ خدا کی معرفت کے بارے میں صحیح مسالک

۸۵

### تدبیر قرآن اور اُس کے آداب و شرائط

- ۱۔ نیت کی پاکیزگی
- ۲۔ قرآن کو برتر کلام مانا جائے
- ۳۔ قرآن کے تقاضوں کے مطابق بد لئے کاغذ
- ۴۔ تدبیر
- ۵۔ تفویض ال اللہ

۹۵

**اُسروہ سحسنہ**

۹۶

۱۔ منصبِ رسالت سے متعلق چار بیاناتی غلط فہمیاں

۱۰۰

۲۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت

۱۰۱

سو۔ ابیان

۱۰۳

۳۔ اطاعت

۱۰۴

۴۔ اتباع

۱۰۴

۵۔ محبت

۱۱۰

۶۔ اطاعت بلا محبت اور محبت بلا اتباع

۱۱۵

**جماعاتِ علم**

۱۱۶

۱۔ حدیث عاجله

۱۲۰

۲۔ نیکتر

۱۲۲

۳۔ عصیتیت جاہلیت

۱۲۳

۴۔ غفلت یا لا ابالی پن

۱۲۴

**آفاتِ علم**

"

۱۔ آفاتِ علم

۱۲۸

۲۔ غفلت اور بے پرواہی

۱۳۲

۳۔ خواہشات نفس کی پیرودی

۱۳۴

۴۔ عدم احتساب

۱۳۶

۵۔ بدعت

۱۳۷

۶۔ تحریک

۷۔ کتمان حن

۸۔ اشتغال بالادتے

۱۳۵

۱۳۸

۱۵۳

"

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۹

۱۶۱

۱۶۳

۱۶۹

۱۷۱

۱۷۲

۱۸۰

۱۸۶

۱۹۱

"

۱۹۲

۱۹۴

۲۰۰

## بیماریوں کا علاج

۱۔ اشتغال بالادتے کے اسباب اور اس کا علاج

۲۔ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادتنے کے اختیار کرنے کے اسباب

۳۔ وقت کی قدر و قیمت سے بے نہری

۴۔ اپنے مرتبہ سے بے نہری

۵۔ پست ہمیتی سے بے نہری

۶۔ ادتنے پرستوں کی کثرت

۷۔ علاج

## کشمکش علیم کے اشباب اور اس کا علاج

۱۔ معاشرہ کی ذمہ داریوں سے بے نہری

۲۔ خوف اور طمع

۳۔ بے جملتی

۴۔ مداہنست

## بدععت، اس کے اشباب، اور اس کا علاج

۱۔ بدوعت کی تعریف

۲۔ دین و دنیا کے حدود

۳۔ بدوعت کا دائرہ

۴۔ بدوعت کے درجے سے سلب

۲۰۰	۵۔ غلوپسندی
۲۰۹	ب۔ خواہشاتِ نفس کی پیروی
۲۱۳	ج۔ علاج

۲۱۶	تزنیکیہ عمل
"	۱۔ تزنیکیہ عمل
۲۲۰	۲۔ عمل کے حرکات
۲۲۲	۳۔ مذکورہ حرکات کی جیشیت
۲۲۴	۴۔ خامیوں کا علاج
۲۲۶	۵۔ حدودِ اللہ کی پابندی کے لیے دوچیزوں کی ضرورت
"	۶۔ ذکرِ اللہ
۲۳۸	۷۔ فکر آخوت
۲۳۹	۸۔ جمایاتِ ذکر و فکر

۲۳۱	نماز اور آفاتِ نماز
۲۳۲	۱۔ نماز کے شرائط
"	۲۔ نماز کے اوقات
۲۳۵	۳۔ نماز کی ہدیت
"	۴۔ نماز کی دعائیں
۲۳۹	۵۔ نماز کی آفات
"	۶۔ کسل
۲۴۲	۷۔ وسوسمہ
۲۴۷	۸۔ مدعا سے بے خبری

## النفاق اور آفاتِ النفاق

۲۴۹

۲۵۱

"

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

"

۲۶۰

۲۶۳

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۸

۲۷۱

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۹

"

۱۔ النفاق کی برکات

۲۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی رکاوٹ

۳۔ معاشرے کے ساتھ حقیقی ربط

۴۔ النفاق سے حکمت حاصل ہوتی ہے

۵۔ مال میں برکت

## آفات اور ان کا علاج

۱۔ چھپدا اُنار نے کی خواہش

۲۔ احسان بخانا اور بد لہ چاہنا

۳۔ سائلوں کے ساتھ بدسلوک

۴۔ اشقام و عناد کا جذبہ

۵۔ احساس برتری

۶۔ ریا اور نائش

## روزہ، اور آفاتِ روزہ

۱۔ روزے کی برکات

۲۔ سدیر الواب تقدیم

۳۔ جذبہ ایثار کی پروگرام

۴۔ قرآن مجید سے مناسبت

## روزے کی آفات اور ان کا علاج

۲۸۱

"

۱۔ لذتوں اور چیزوں کا شوق

۲۸۳

۲۔ اشتعالِ طبیعت

۲۸۴

۳۔ دل بدلانے والی چیزوں کی رغبت

۲۸۶

## حج اور آفاتِ حج

"

۱۔ حج جامعِ عبادات ہے

۲۹۱

۲۔ حج انسان پر ہر راہ سے اثر انداز ہوتا ہے۔

۲۹۳

## حج کی بکتنیں

"

۱۔ روحانی کایا کلب

۲۹۴

۲۔ بیت الحرام کی ضمانت

"

۳۔ تجدیدِ عهد

- ۲۹۴

۴۔ امت کی وحدت کا منظاہرہ

۲۹۶

## آفاتِ حج اور ان کا علاج

"

۱۔ شہوانی با تمیں

۳۰۰

۲۔ حدود دائرہ اور شعائرِ الہی کی بے حرمتی

۳۰۱

۳۔ بیانگ و بدل

۳۰۲

۴۔ فسادِ نیت

۳۰۴

۵۔ شعائر کی حقیقت سے بے خبری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## کلیبِ اجتہاد

میری اس کتاب کا حصہ اول ۱۹۵۴ء میں چھپا تھا لیکن وہ آتنی مدد و تعداد میں چھپا کہ کتاب کے قدر دو انوں کی طلب اس سے کس طرح پوری نہ ہو سکی۔ بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نہ تو اس کے درستے ایڈٹریش کی اشاعت کی کوئی خاطر خواہ شکل پیدا ہو سکی اور نہ میں اس کے یقینیہ دو حصوں کی جن کامیں نے وعدہ کی تھیں، تکمیل کے لیے وقت لکال رکلا۔ اب خدا خدا کے اس کے درستے حدت کی تکمیل کی نوبت آئی ہے تو ان دو نوں حصوں کی یک جا اشاعت کا اہتمام کیا اور کتاب کے اس کے قدر دا ان تک پہنچنے کی شکل پیدا ہوئی۔

یہ کتاب میرے ترمیتی لکھوں کا مجموعہ ہے لیکن یہ پھر ایک تصنیف کا خاکہ سامنے رکھ کر فیہ گئے اس وجہ سے ان میں پوری تصنیفی ترتیب موجود ہے۔ فکری اعتبار سے یہ کتاب میرے دینی فکر کا اٹ پر اب ہے۔ رسول کے فکر و مطالعہ سے وین و شریعت کی بحور دفع میری سمجھ میں الٰہ ہے اس کا ایک حصہ میں نے ان اور اراق میں الفاظ کے جامہ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے کا یقینیہ حصہ میرے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس کے پیش کرنے کی نوبت کبھی آتی ہے یا نہیں۔ اس کے پہلے حصہ میں میں نے تزکیہ علمنے سے بحث کی ہے اور دوسرے حصہ میں تزکیہ عمل سے۔ تزکیہ معاملات و تعلقات کے مباحث ابھی قلمبند نہیں ہو سکے۔ میں نے اس کتاب میں ان لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے جو اپنے نفس کی صلاح و تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے تزکیہ نفس کے وہ اصول و مبادی ان شاء اللہ سامنے آ جائیں گے

جو کتاب و مفت میں بیان ہوئے ہیں اور ساختہ ہی وہ بہت سی غلط فہیم اور فحیم گی جو غلط قسم کے تصور کی راہ سے ہمارے اندر پھیلی ہیں۔ چونکہ اس کتاب کا موضوع وہی ہے جو تصور کا موضوع ہے اس وجہ سے مجھے جگہ جگہ اس میں مردوجہ تصور پر تنقید بھی کرنی پڑی ہے۔ ممکن ہے یہ تنقید ان لوگوں کو کچھ نامگوار ہو جو اپنے اپنا نئے ہوئے کی طرف پر کسی تنقید پر داشت کرنے کے عادی نہیں ہیں لیکن ایک غیر جانبدار قادری ان شاء اللہ میری کسی تنقید کو بھی تحقیقِ حق اور حمایت کتاب و مفت کے جذبہ اور کوشش سے خال نہیں پائے گا۔ اگر تحقیقِ حق کی اس کوشش میں کہیں میرا قلمِ حق سے منفعت ہو گیا ہے تو مجھ سے زیادہ اس کی اصلاح کا خواہشمند کوئی اور نہیں ہو گا۔ جو صاحب علم بھی میری اس طرح کی کسی لغرض سے آگاہ فرمائیں گے میں ان کا دل سے منون ہوں گا اور کتاب کے آئینہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کروں گا۔ اس کتاب کے بعض مباحث پر اب تک بعض لوگوں نے جو اختراضاً کیے ہیں وہ میں نے توجہ سے پڑھ لیے ہیں ان میں کوئی باستحبے الیسی نہیں ملی جو قابلِ لحاظ ہو۔ بعض لوگ تصور کی حمایت میں توڑے سے سرگرم ہیں لیکن ان کو تصور کی خوبیوں کا پتہ ہے، نہ اس کی کمزوریوں کا۔ اس طرح کی بے خبرانہ تنقیدوں سے تحقیقِ حق کے مقصد میں کوئی مدد نہیں مل سکتی۔

اس کتاب کو پڑھتے وقت ہر شخص کو یہ بات پیش نظر کھنچی چاہیے کہ ایک کتاب زیادہ سے زیادہ یہ خدمت انجام دے سکتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے موضوع پر قادری کے لیے ذہنی و فکری غذا فراہم کر دے۔ یہ کتاب اگر کسی حد تک بھی یہ خدمت انجام دے سکے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت را لگاں نہیں گئی۔ رہا اس کے پیش کردہ نقشہ کے مطابق زندگی کو تبدیل کرنا تو یہ ادمی کے اپنے ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر مخصوص ہے۔ جو لوگ اس کتاب کو صرف پڑھ لینے ہی پر اکتفا نہ کرنا چاہیں بلکہ اپنی زندگیوں کو سنوارنا بھی چاہیں انہیں تین ہاتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز اصلاح اور تبدیل کا سچا اور پکا ارادہ ہے۔ اُدمی کا ارادہ اگر مضبوط نہ ہو اور وہ اس ارادہ سے کام نہ لے تو دنیا کی بہتر سے بہتر وہنمائی بھی اس کے لیے بالکل بے سود ہے۔ قرآن سے بہتر کتاب دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فرع بھی انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جو اس کی پڑائی پر عمل کر کے یہیے عزم بالجزم کے ساتھ اکھڑھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس سچوں کی نفع بھی نہ ہے۔

س فی نصاحت و ملاعنة لی و عرض میں پست رطب السان رہتے ہیں لیکن اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا رہا۔ ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ نقوف کی اصطلاح میں جس کو مرید کہا جاتا ہے، میرے زندگی اس سے بھی مراد درحقیقت دہی شخص ہے جو اپنے نفس کی اصلاح و تربیت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس راہ میں ہر صعوبت خوش دل کے ساتھ جھینئے، ہر قربانی پیش کرتے اور جان و مالی ہر روزی کھیل جانے کے لیے ہن منہ، ہے جس مرید میں اس طرح کا ارادہ نہ پایا جاتا ہو وہ فی الحقيقة مریدی نہیں ہے۔

بعض لوگ خواہش ہی کا نام ارادہ رکھ لیتے ہیں اور اس سے دہی کچھ امیدیں بازدھتے ہیں جو صرف ارادہ ہی سے بازدھی جانی چاہیں اور جبرا ارادہ ہی کی قوت سے پوری ہوتی ہیں۔ خواہش تناظر مہلوک پیغز کی کرتی ہے لیکن چورٹ کھانے کے لیے کسی پیغز کے واسطے بھی تیار نہیں ہوتی لیکن ارادہ جس پیغز کا طلب گار ہوتا ہے اس کی راہ میں ہر جو کھم برداشت کرنے اور ہر کادٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر اس کا طلب گار بتتا ہے۔

دوسری پیغز جو ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر آن استعانت ہے جو شخص خدا کی بندگی کے ارادہ کے ساتھ امتحنا ہے اس کی ہر قدم پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس ارادہ میں مغلظ ہے یا ریا کا رہ۔ ان آزمائشوں سے وہی شخص عمدہ برآ ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق حاصل ہو۔ اگر خدا کی راہ پر چلنے کے لیے نکلے وہ ہر قدم پر اس کی مدد کے لیے دعا کرتا رہے۔ سورۃ فاتحہ میں ایا کے بعد کے ساتھ ایا کو نستعین جو آیا ہے اس میں بھی یہی نکتہ ہے کہ خدا کی بندگی کا ارادہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندگ کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہ ہو۔

تیسرا پیغز جس کا اہتمام ضروری ہے وہ صحبت ہے۔ صحبت سے مراد یہ ہے کہ آدمی حب اس راہ پر چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو اسے اپنے ہم سفر تلاش کرنے چاہیں۔ ساتھیوں اور رفیقوں سے آدمی کی قوت و مہمت میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔

ہم سفر قوی بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی لیکن ان کی قوت اور کمزوری دونوں ہی آدمی کے لیے سہارا نبیتی ہے۔ جب کبھی وہ مہمت ہارنے لگتا ہے تو قوی کی عزیمت اس کی مہمت بندھاتی

ہے اور کبھی الیسا بھی ہوتا ہے کہ جب اپنی خشگی اور تو انائی کو دیکھ کر وہ مایوس ہوتے لگتا ہے تو درہ سختگانِ راہ کو دیکھ کر اسے تسلی ہر جاتی ہے کہ تناد ہی اس راہ کی صفوتوں سے درچار نہیں ہے بلکہ کچھ درمانگانِ راہ اور بھی ہیں اور اسی طرح وہ بھی کبھی کسی کی قوت اور کبھی کسی کی کمزوری سے سوارا لیتا ہے اور دُرودوں کو سوارا۔ دیتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے۔

یہ رفاقت استاذ اور مرشد سے بھی حاصل ہوتی ہے اور ہم مسلم و ہم مشرب سائیپیوں سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ حاضر بھی اس معاملہ میں دستیگیری کرتا ہے اور ماہنی بھی آدمی کو سوارا دیتا ہے۔ زندوں اور مردوں میں جن کو بھی وہ اپنا درد آشنا پائے، ان کی معیت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

جس کو عملًا ساختہ لینا یا جس کے ساختہ چنان ممکن ہو ان کو عملًا اپنے ساختہ لگائے یا ان کے ساختہ پلے اور جس کے ہرف کارناموں اور سرگزشتتوں سے روحانی غذا حاصل کرنا ممکن ہو ان سے ذہنی و روحانی ربط برداشتے، اس طرح وہ کبھی تھائی یا دل شکنگی نہیں محسوس کرے گا۔ یہ رفاقت و معیت اتنی ضروری چیز ہے کہ بسا اوقات اس کے لیے آدمی کو اپنوں سے گٹنا اور غیر دل سے بڑھنا بھی پڑتا ہے۔ یہ مرحلہ نفس پر بڑا شاق ہوتا ہے لیکن تذکیرہ نفس کے جہاد میں کسی تکسی درجہ میں یہ ہجرت بھی ناگزیر ہے۔ کتاب کے درسرے حضرت کے بحث جب سامنے آئیں گے تو یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گی کہ تعلقات کے تذکیرہ میں اس ہجرت کو کتنی اہمیت حاصل ہے اور کس طرح یہ ہجرت ہر طالب تذکیرہ کے لیے آج بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کبھی پہنچنے لختی۔

اس کتاب میں ایک خاص چیز جو ہر پڑھنے والا پہلی ہی نظر می محسوس کرے گا وہ یہ ہے کہ میں نے تذکیرہ کو زندگی کے نام اطراف پر حادی کر دیا ہے۔ تصور میں تذکیرہ زندگی کے ایک نہایت محدود گوشہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن کتاب و سنت میں جس تذکیرہ کا بیان ہے وہ ہماری زندگی کے ہر گوشے سے بخش کرتا ہے، اس سے میری مراد ہر الفرادی زندگی ہی کا ہر گوشہ نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی کے نفس کے تذکیرہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کے ساختہ اس کا تعلق چند معین اساسات پر فائز ہر

جب تک ان اساسات پر اس کا تعلق خدا کے ساتھ رہنے ہواں کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک شخص کے نفس کے تزکیہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرہ، حکومت اور بینی نوع انسان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات پر متعین اساسات پر قائم ہوں، بغیر اس کے اُس کے نفس کا تزکیہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کے صاحب تزکیہ ہونے کے لیے تنہا ہی بات کافی نہیں ہے کہ وہ ذاکر و شاغل اور زاہد و مرتاض ہو بلکہ اسلامی نعمت نظر سے بیرون سے زدیک یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معاشرہ کا ایک خدمتگزار فرد اور اپنی رسالت کا اسلامی معنوم میں ایک فرض شناس شہری بھی ہو۔

بعض لوگوں کو یہ باتیں ابتدائی کچھ الذکھی سی معلوم ہوں گی لیکن مجھے توقع ہے کہ اگر وہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں گے تو ان کا سارا تعجب رفع ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کے مژلفت کو بھی اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق حاصل ہو، اور دوسرے پڑھنے والوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے اور اگر اس میں کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے تو اس کے ضرر سے اس کے مژلفت کو بھی محفوظ رکھے اور اس کے ناظرین کو بھی۔

امین احسن اصلاحی

lahore - ۱۸ اگسٹ ۱۹۶۱

# دین میں ترکیبیہ نفس کی اہمیت

## اور اس کی عمومی ضرورت

اگر یہ سوال کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے؟ سے اللہ تعالیٰ کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ وہ کیا غرض ہے جس کے لیے اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کیا اور شریعت اور کتاب میں نازل فرمائیں؟ تو اس کا صحیح جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ — نفوس انسانی کا ترقیہ — حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو دعا فرمائی، اس میں آپ کی بعثت کی اصل غایت یہی بیان فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کا ترقیہ کریں۔

وَرَبِّنَا دَالْبَعْثَةِ فِيهِمُ حَرَسُوا لِأَقْنَهُمْ  
 يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ حَرَسًا يَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ  
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَشِّحُهُمْ  
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ۔

اور اے ہمارے رب! قران میں اُنہی میں سے ایک رسول بھیج، جوان کو تیری آئیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا ترقیہ کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ (بقرہ ۱۲۹)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے مطابق جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت اور اس کے مقاصد کا حوالہ ان الفاظ میں دیا:

لَمَّا أَرَى سُلَيْمَانَ فِي كِهْرَبَةِ رَسُولٍ مِنْكُمْ دَعَاهُ  
 عَلَيْكُمْ أَيَّاتِنَا وَيُرَكِّبُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ  
 اللَّهُ كَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ  
 مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَوْا تَعْلَمُونَ هـ  
 پناہ پھر ہم نے تم میں ایک رسول تھی میں  
 سے بھیجا ہے تم کو تمہاری آئینہ سنا تا ہے  
 اور تمہارا تذکیرہ کرتا ہے اور تم کو کتاب  
 و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کروہ  
 آئین سکھاتا ہے جو تم نہیں یاد نہیں تھے۔  
 (بقرہ ۱۵۱)

اسی طرح سورہ جمعہ میں آپ کی بعثت اور اس کے اغراض و مقاصد کا سوالہ دے کر  
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل پر ان الفاظ میں احسان بتایا ہے :  
 هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْمَاتِ رَسُولًا وَهُوَ خَدَّا ہے جس نے ایمول (بنی اسماعیل)  
 مِنْهُمْ رَبِّيْلُوا عَلَيْهِمْ دَائِرَةَ دَرَجَاتٍ  
 كَوَاسِكَيْمَهُ دَيْعَمَهُ حُوَالَ الْكِتَابَ  
 وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي  
 صَلَالَاتٍ مُبِينَ هـ  
 میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جوان  
 کو اس کی آئینہ پڑھ کر سنا تا ہے ، اور  
 ان کا تذکیرہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور  
 حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یہ شک اس  
 سے پہنچ دے کھلی ہوئی مگر اسی میں تھے ۔

ممکن ہے بیاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مذکورہ بالا آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جہاں تذکیرہ کا ذکر آیا ہے وہیں تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کا بھی ذکر آیا ہے تو ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد صرف تذکیرہ ہی کو کیسے قرار دے دیا ؟ آخر دوسری چیزیں بھی تو اسی اہمیت کے ساتھ مذکورہ مہمی ہیں وہ کیوں اصل مقصد قرار پانے کی مستحق نہیں ہیں ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے اسلوب بیان نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ مذکورہ آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد بعثت کی جیشیت سے جس چیز کا ذکر مہما ہے وہ تذکیرہ ہے ۔ باقی اس کے ساتھ دوسری چیزیں ۔ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت جو مذکورہ ہوئی ہیں تو وہ اصل مقصد کی جیشیت سے نہیں ، بلکہ اصل مقصد کے درائل دوڑائی کی جیشیت سے مذکورہ ہوئی ہیں ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا درائل

آئیوں میں سے ایک آیت (آیت ۱۵۹) میں ترکیب کا لفظ سب سے آخر میں آیا ہے اور دوسری آیت (آیت ۱۵۱) میں سب کے شروع میں آیا ہے۔ ایک غور کرنے والا شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہی بات کے بیان کرنے میں اسلوب کا یہ رد و بدل کم از کم قرآن مجید میں بلا وجہ نہیں ہو سکتا اب غور کیجیے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری سمجھ میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ اس تقسیم و تاخیر سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ نبیؐ کی تمام جدوجہد اور اس کی تمام سرگرمیوں کا محور و مقصد و راصل ترکیب ہی ہے۔ کیوں کہ اصل مقصد ہی کی یہ اہمیت ہوتی ہے کہ وہ شروع میں بھی ایک کام کرنے والے کے پیش نظر ہوتا ہے اور آخر میں بھی۔ درہی اس کی تمام سرگرمیوں کا نقطہ آغاز بھی ہوتا ہے اور وہی نقطہ اختتام بھی۔ وہیں سے وہ اپنا سفر شروع بھی کرتا ہے اور وہیں اس کو نعمت بھی کرتا ہے۔

کسی ایکیم کے اندر جو چیز مقصدی اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ عمل میں اگرچہ موخر ہوتی ہے لیکن ارادہ اور خیال میں مقدم ہوتی ہے۔ آپ ایک مکان کی تغیر سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سکونت کی راحت ہے اور یہ چیز عین اس وقت بھی آپ کے سامنے ہوتی ہے جب کہ آپ ایک مکان کا نقشہ ابھی کاغذ کے صفحہ پر بنارہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ عملاً یہ چیز عمل اس وقت ہوتی ہے جب مکان بن جکتا ہے اس پہلو سے دیکھیے تو مکان کی تغیر سے جو اصل مقصد ہے (لیعنی سکونت کی راحت) وہ شروع میں بھی آپ کے پیش نظر ہے اور آخر میں بھی پیش نظر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شروع میں آپ نے اس کو فکر کیا اور ارادتا سامنے رکھا ہے اور آخر میں نتیجہ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک مکان کی تغیر کے لیے پہل اینٹ زمین پر جاتے ہوئے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے سکونت کی لذت دراحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں جب کہ تمام مراحل تغیر سے گزر کر اس کے کونے کی آخری اینٹ بھی رکھی جا چکی ہو کیوں کہ درحقیقت یہی چیز ہے جو آپ کی تمام تغیری سرگرمیوں میں شروع سے آخر تک پیش نظر ہی ہے۔ ظاہر میں آپ نے چادر سے بھی چلائے، امیش بھی پکائیں اور سے بھی چلائے، پہنچنا اور گارا بھی فراہم کیا، دوباریں بھی چنیں اور حصیں بھی پائیں لیکن ان میں سے کوئی پیغام بھی قی نفسہ آپ کا مقصد نہیں رہی ہے۔ اس تمام کھیکھڑے سے اصل مقصد درحقیقت

اپ کا یہ تھا کہ آپ کو سکونت کی آسائش حاصل ہو۔

اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ اگر انہیار کی بعثت کے مقصد کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اصلی مقصد تو لوگوں کے لفوس کا تذکیرہ ہی ہوتا ہے اور اسی نقطہ نظر سے وہ اپنی تمام دوقت اور اصلاحی سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس مقصد کی خاطرا انہیں بہت سے اپسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو اس مقصد کے حصول کا وسیلہ و ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے لیے وہ حکمت کا درس دیتے ہیں۔

مگر مقصود ان سارے کاموں سے صرف تذکیرہ ہوتا ہے جو شروع میں بھی ان کے پیش نظر ہوتا ہے اور آخر میں بھی وہی ان کی تمام جدوجہم کی غایت بتتا ہے پچانچہ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے مذکورہ بالا آیات میں سے ایک آیت میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سرگرمیوں کے نقطہ آغاز کی بیانیت سے نمایاں کیا ہے اور درسری آیت میں اس کی غایت اور منتها کی بیانیت ہے۔

علاوہ انویں قرآن مجید میں اس بات کی بھی صاف تصریح موجود ہے کہ تذکیرہ ہی وہ اصل کام ہے جس کے لیے لوگوں کو نبی سے رجوع کرنا چاہیے اور نبی کا فرض ہے کہ جو لوگ اس غرض کے لیے اس سے رجوع کریں، ان کو وہ ہرگز بایوس نہ کرے، پچانچہ ایک موقع پر بعض اس بات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طالب تذکیرہ کے معاملے میں خود کی سی غفلت ہو گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مندرجہ ذیل الفاظ میں تنبیہ فرمائی گئی ہے:-

**جَسَّ وَتَوْلَى ، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى** اس نے یوری چڑھائی اور منہ پھر اکہ اس  
**وَمَا يُدْرِكَ لَعْلَهُ يَرَى** کے پاس نامینا آیا، اور تمہیں کب خبر  
شاید وہ تذکیرہ حاصل کرنے آیا ہو۔ (عبس)

اس آیت سے بالکل صاف واضح ہو رہا ہے کہ نبی، خلق خدا کی جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ ان کے لفوس کا تذکیرہ ہے، اس وجہ سے لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس غرض کے لیے اس سے رجوع کریں اور نبی کا یہ فرض منصوبی ہے کہ وہ لوگوں کی یہ ضرورت پوری کرے۔

بس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصلی مقصد لوگوں کا تذکیرہ قرار دیا

گیا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا بھی اصل مقصد اسی پیغمبر کو قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا ہے:

إِذْ هَبَطَ إِلَى فِرْعَوْنَ أَتَهُ طَغْيَانٌ قُلْ فَرْعَوْنَ كَمْ بَأْسٍ جَاءَ وَهُوَ سَرْكَشٌ ہو گیا  
هَلْ لَكَ إِلَى آنَّ تَزْكِيَّةً ۔ اور اس سے کہو کہ ہے تیرے  
(۱۸- نازعات) اندر کچھ رغبت کہ تو تزکیہ حاصل کرے

پھر یہ حقیقت بھی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ تزکیہ ہر شخص کی فلاح و نجات آخرت کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ تزکیہ کی یہ اہمیت بھی تقاضا کرتی ہے کہ یہی پیغمبر انبیاء کی بعثت کی غایت اور ان کی تمام مرگ یا یہیں کا محور و مقصد قرار پائے، چنانچہ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ آخرت میں انسان کی نجات و فلاح منحصر ہے تمام تر اس بات پر کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ فرمایا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ اس نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس  
كَمْ دَسَّاهَا۔ کا تزکیہ کرے اور وہ نامراود ہوا جس نے  
اس کی گندگیوں پر پردہ ڈالا۔ (شمس)

اسی طرح دوسری جگہ ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى۔ اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ حاصل  
کیا۔ (الاعلی)

ظاہر ہے کہ جب آخرت میں انسان کی نجات و فلاح تزکیہ حاصل کرنے پر منحصر ہوئی تو انبیاء علیهم السلام کا ہجو انسانیت کے نجات و ہندہ کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اصل کام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں اور ان کو تزکیہ حاصل کرنے کے طریقے بتائیں۔

اور پرکے مباحثت سے تین باتیں واضح ہوئیں:

ایک یہ کہ تزکیہ تمام دین و شریعت کی غایت اور تمام انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے، دین میں جو اہمیت اس کو حاصل ہے وہ اہمیت دوسری کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہے۔

دوسری ساری جنیزی وسائل و ذرائع کی حیثیت رکھنی ہیں اور یہ پھر غایت مقصد کی حیثیت رکھتی ہے۔ انبیاء و علیمین اسلام کی سرگرمیاں، خواہ ظاہر میں کتنے ہی مختلف پہلو رکھتی ہوں لیکن باطن میں ان کا ہدف انسان اور انسانی معاشرہ کے تذکیرہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔

دوسرا بات یہ واضح ہوئی کہ تذکیرہ کا سرچشمہ اور اس کا منبع و مصدر کتاب اللہ ہے، اسی کی تعلیم سے تذکیرہ کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اسی کے اسرار و حقائق ہیں جو ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہو کر اس تذکیرہ کی تکمیل کرتے ہیں۔ پھر پھر یہی نکتہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ کی جو آیتیں ہم نے اور پڑھنے کی ہیں، ان میں تذکیرہ کو تلاوت آیات کے ساتھ اس طرح والبستہ کیا ہے کہ یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ تذکیرہ درحقیقت تلاوت آیات ہی کے ثرات و نتائج میں سے ہے:

**يَتَّلَوُ عَلَيْكُمْ آياتِنَا دَيْرِ كِبِيرٍ** تم کو ہماری آیتیں سناتا اور ہمارا تذکیرہ کرتا ہے۔

**يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ آياتِنِهِ دَيْرِ كِبِيرٍ** ان کو ہماری آیتیں سناتا ہے اور ان کا تذکیرہ کرتا ہے۔

تمپری حقیقت یہ واضح ہوتی کہ تذکیرہ کا عمل انسانی معاشرہ کے کسی خاص گروہ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمام افراد اور تمام گروہوں بلکہ پورے معاشرہ سے بیان طور پر ہے، کوئی شخص بھی اس کے بغیر آخرت میں نجات اور فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی حیثیت دین میں صرف ایک فضیلت کی نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے بیے ایک ناگزیر الفزادی ضرورت کی ہے۔ یہ نجات اور فلاح آخرت کے بیے ایک ضروری شرط ہے جس کو پورا کیے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔

**تذکیرہ کا علم نہ رکز ہو سکتا ہے نہ نامکمل :**

اگر یہ تینوں باتیں اپنی جگہ پر ثابت ہیں تو اور کوئی شخص بھی ان کے ثابت ہونے سے انکار نہیں کر سکتا) تران سے وہ نتیجے لازمی طور پر لکھتے ہیں۔

ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیرہ کے علم کو نامکمل چھپوڑ کر دنیا سے تشریف نہیں لے جا سکتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ تذکیرہ کو آپ کے مقاصدِ بعثت میں مخفی ایک ضمنی جگہ حاصل نہیں ہے بلکہ جیسا کہ اوپر واضح ہوا، اصل مقصدِ بعثت یہی ہے۔ پھر جو چیز اصل مقصدِ بعثت ہو، اس کو پیغمبر ناتمام اور ناقص چھپوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ تذکیرہ کی اہمیت کا لائز می تقاضا یہ ہے کہ جس طرح شریعت کے تمام اصول کتاب و سنت کے اندر منضبط کر دیے گئے ہیں، اسی طرح تذکیرہ کے تمام اصول بھی کتاب و سنت کے اندر منضبط ہوں، جس طرح شریعت کے اندر کسی بے راہ روی کی گنجائش باقی نہ رہے، جس طرح شریعت کے اندر ایک خاص دائرہ میں اجتہاد کی آزادی کے باوجود کسی شخص کو اس بات کا موقع حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ذوق یا فاقی رحیمات یا اپنے شخصی تجربات کو اس کے اندر گھسائے، اسی طرح تذکیرہ کے اندر بھی ایک خاص دائرہ میں اجتہاد کی آزادی کے باوجود ایسی حد بندیاں ہوں چاہیئیں کہ اشخاص و افراد کے اپنے میلانات رحیماً کی در اندازیوں کے لیے کوئی منفذ باقی نہ رہے۔ جس طرح شریعت کے اندر ہر مجتہد اس بات کا ہابند ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کو کتاب و سنت ہی کے اشارات کی کسوٹی پر پکھتا اور پکھوتا ہے اور اس کے بغیر اس کا اجتہاد بھی لاکی قبول نہیں ٹھیک رہتا، اسی طرح تذکیرہ کے اندر بھی اگر کوئی شخص کوئی بات اپنے اجتہاد سے کہے تو اس کے لیے ناگزیر ہو کہ وہ کتاب و سنت کے اشارات اور نبی اور صاحب پیغمبر کے طرزِ عمل سے کوئی دلیل لائے۔ مخفی اپنے ذوق و وجدان کا حوالہ نہ دے سے ورنہ اس کے اجتہاد کا کوئی وزن نہیں۔

دوسری تجہیز نکلتی ہے کہ تذکیرہ کا علم کوئی راز نہیں ہو سکتا جو صرف خاص خاص اشخاص ہی کو معلوم ہو اور انہی سے سینہ بیسیہ وہ دوسرا دل کو منشق ہو۔ تذکیرہ ایک عامم ضرورت کی چیز ہے، ہر شخص آخرت کی نجات و فلاح کے لیے اس کا محتاج ہے۔ انبیاء اُستے ہی اس لیے ہیں کہ وہ افراد کا بھی تذکیرہ کریں اور معاشرہ کا بھی تذکیرہ کریں۔ پھر جو چیز اس قدر عالمی ضرورت کی ہو اس کو صرف چند خاص خاص افراد کے سینہ کا راز نباکے کہ کس طرح چھپوڑا جا سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص، ہر علم کا اپنے نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اگر ایک شخص اس علم کا

ذوق رکھنے والا تھوڑا تو وہ اس سے محدود رہے گا، علی ہذا القیاس اہل علم میں فرق مراتب بھی ہوتا ہے۔ اس درجہ سے اس کے سارے جانشی والے ایک درجہ کے نیچے ہو سکتے، لیکن یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ یہ کوئی "پراسرار" علم ہے جس کے جانشی والے صاحبوہ کے زمانہ میں بھی چند ہی افراد تھے اور بعد میں بھی خال خال افراد ہی ہوئے۔ جو پیز ہوا اور پانی کی طرح ہر شخص کے لیے ضروری ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس ایک دوآمدیوں کے کامیں میں چھوٹ کر چھوٹے جائیں، دوسروں کو اس کی خبر ہی نہ ہونے پائے اور یہ دو ایک آدمی بھی اس کو عام کرنے کی بجائے، اس کو راز پناک رکھو ڈیں اور صرف انہی اشخاص پر اس راز کو کھولیں جو ان کے حرم رانہ بن جائیں۔ علم کیسا کی تعلیم میں تو یہ رازداری چل سکتی ہے لیکن تذکیرہ اگر عام ضرورت کی چیز ہے را اور اس کی عام ضرورت کی پیز ہونے سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے) تو اس میں اس رازداری کا چلنائز ممکن ہے اور نہ قرین مصلحت۔

ہمارے حنفی علیؑ عام ضرورت کی پیزوں میں عموماً خبراً عاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ جس پیز کا تعلق عام ضرورت سے ہے اس کے بارہ میں ایک دو طریقوں سے روایت کے کیا معنی ہے لیکن یہی حضرات جب تصور کے کوچے میں آتے ہیں تو تذکیرہ کے علم کو ایک راز ثابت کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ "ان باتوں کو اہل ظاہر کیا جائیں یہ "اسرار دموا جید" ہیں۔ وہ اس فخر کے نشہ میں اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اگر تصور کا منشأ تذکیرہ نفس ہے تو تذکیرہ نفس تو ایک عام ضرورت کی چیز ہے، پھر ایک عام ضرورت کا تفاضاً ایک ایسے علم سے کیسے پورا ہو سکتا ہے جو صرف چند سینوں کا ایک راز ہو۔

### بعض احادیث سے غلط استدلال

بھائی تک قرآن مجید کا تعلق ہے اس سے وہ تائیج نہایت بدیہی طور پر نکلتے ہیں جو ہم نے نکالے ہیں اور عقل عام بھی انہی کی تائید کرتی ہے لیکن ہمارے اہل تصور حضرات اس علم کو ایک پُر اسرار علم ثابت کرنے پر نہایت مُصر ہیں، وہ اپنے اس دعویٰ سے پر

جهال بہت سے مشائخ تصور کے اقوال سے دلیل لاتے ہیں وہاں بعض احادیث اور بعض آثار بھی پیش کرتے ہیں۔ مشائخ تصور کے اقوال و اشارات سے تو یہاں بحث کرنے کی کنجماں نہیں ہے لیکن جن احادیث و آثار سے انہوں نے استدلال کیا ہے، ان کی حقیقت واضح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ورنہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں کھٹک باقی ہی رہے گی۔

ان حضرات کا سب سے بڑا استدلال حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت سے ہے جو بخاری شریف میں مندرجہ ذیل الفاظ میں وارد ہے۔

عن أبي هريرة قال حفظت  
من رسول الله صلى الله عليه وسلم و عائين فاما أخذها  
في مشته فيكه فاما الآخر فهو  
بمشته لقطع هذا البلوغ  
(بخاری)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو ظرف اکٹھے کیے تھے، ایک ظرف کا علم تو میں نے تمہارے اندر پھیلا دیا رہا دوسرا ظرف تو اگر اس کے علم کو میں تمہارے اندر پھیلاؤں تو میری یہ گردان کاٹ دی جائے گی۔

اس حدیث سے یہ حضرات ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کردہ ایک ایسا ذخیرہ علم بھی تھا جس کی حیثیت بالکل ایک سرخی کی تھی، جس کے حقوق اور باریکوں کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہ تھا بلکہ صرف خاص خاص لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے تھے۔ یہ علم ان حضرات کے خیال کے مطابق جموروں کے فہم اور ان کے مذاق و روحان سے اس قدر مختلف بلکہ اس کے مقابلہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہؓ درستے تھے کہ اگر اس علم سے وہ پردہ اٹھادیں تو لوگ ان کو جیتا نہ چھوڑ دیں۔

یہ نتائج نکال کر ان سے جو اثر یہ حضرات پیدا کرتے ہیں وہ ان نتائج سے بھی یاد اہم اور درس ہے جن کی آڑ کے کریے حضرات تصور اور آئندہ تصور کی ان ساری یادوں کو عین دین ثابت کرنا چاہتے ہیں جن کا کتاب و مصنف سے کوئی جوڑ نہیں لگتا اور

جن پر اہل حق ہمیشہ نگیر کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل تصرف کے اسرار و کشف کے لیے دین میں بڑی کنجائش نکل آتی ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ علم دین صرف اتنا ہی نہیں ہے جتنا قرآن و حدیث میں نظر آتا ہے بلکہ علم دین کا بہت بڑا حصہ خاص کے انڈسٹریوں سے خواص کے سینوں ہی میں محفوظ رہا اور اگر ان سے منتقل ہوا بھی تو صرف خواص ہی تک محدود رہا۔ عام اہل علم کو ان کی ہوا تک نہیں لگنے پائی، عام اہل علم جنہوں نے قرآن و حدیث کے الفاظ و کلمات کے فاسطہ سے دین کو سیکھا ہے وہ تو صرف علم بالاحکام کے وارث ہوئے ہیں۔ اصلی علم تو علم باللہ ہے اور اس کی دراثت صرف ان لوگوں کو منتقل ہوتی ہے جنہوں نے اس علم سینہ میں سے کوئی حصہ پایا ہے۔

بیان سے یہ حضرات ایک قدم اور آگے بڑھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ”اہل حقیقت اور اہل ظاہر کے معیارات بالکل الگ الگ ہیں، اس وجہ سے ایک کی باتوں کو دوسرے کی کسوٹیوں پر جانچنا اصولی طور پر غلط ہے، اہل ظاہر جو کچھ کہتے ہیں وہ الفاظ کو دریکھو کر کہتے ہیں اور اہل حقیقت کی نگاہیں معانی کی راز داں ہوتی ہیں۔“

قلدرہ ہرچہ گردیدہ گوید

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ اثرات جو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ خاصے سنگین ہیں اور ان کی زد ہماری پوری شریعت پر پڑتی ہے، اس وجہ سے نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کا صحیح مطلب واضح کرنے کی کوشش کریں۔

ہمارے زد ایک حضرت ابو ہریرہؓ کے اس قول کے تین ہلکو ہو سکتے ہیں:

ایک سپلوزو یہ ہو سکتا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو حبب یہ باتیں بتائی ہوں تو ساتھ ہی ان کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہو کہ یہ دوسروں کو بنانے کی نہیں ہیں بلکہ پوشیدہ رکھنے کی ہیں، اگر تم نے ان کو ظاہر کیا تو یہ انڈیشہ ہے کہ تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں۔

لہ اس کی ثابیں مناسب مواقع پر ہماری اس کتاب میں آئیں گی۔

دوسری پلوری ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بطور راز کے تو بتائی ہیں بلکہ تعلیم و تبلیغ ہی کے لیے بتائی ہیں لیکن حضرت ابو ہریرہؓ کی زندگی ہی میں باحوال اس قدر بدل چکا ہو کہ وہ باتیں لوگوں کے لیے بالکل اور پری بن کے رہ گئی ہیں اور ان کو پیش کرنا پیش کرنے والے کے لیے خطرے سے خالی نہ رہ گیا ہو۔

تمیسلاً پلوری ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں الیبی ہیں جن کے بیان و اظہار میں وقت کے ارباب اقتدار اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہؓ کو اندر بیٹھہ ہو کر اگر وہ باتیں وہ بیان کرنی شروع کر دیں تو وقت کے ارباب اقتدار کے ہاتھوں ان کی جان کی خیر نہ رہے۔

اب عقل و نقل اور روایت و درایت سے ان تینوں پلوروں کو جانچئے اور پرکھیئے کہ ان میں سے کون سا پیدا واضح نظر آتا ہے۔

۱۔ ان میں سے پہلی صورت تو بد اہتنہ غلط معلوم ہوتی ہے، اس کی وجہہ اول تھی ہے کہ اس طرح کی پُرسار باتوں کا کوئی ذیغیرہ اک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محظوظ کرنا ہی مہتنا تو اس امانت کے لیے موزوں توصیۃ اُن فقہاء صحابہؓ میں سے کسی کا ہو سکتا تھا جو فهم و فقا ہست اور رازدار دین ہونے کے لحاظ سے تمام صحابہؓ میں ممتاز تھے۔ اس کے لیے موزوں شخص حضرت ابو بکرؓ ہو سکتے ہیں، حضرت عمرؓ ہو سکتے تھے، حضرت عثمانؓ ہو سکتے تھے، حضرت علیؓ ہو سکتے تھے، حضرت زیدؓ بن ثابتؓ ہو سکتے تھے، حضرت معاذ بن جبلؓ ہو سکتے تھے، حضرت ابو الدرداءؓ ہو سکتے تھے اور حضرت عائشہؓ صدیقہؓ ہو سکتی تھیں یہ لوگ صحابہؓ میں گل سربد کی حیثیت رکھتے تھے اور دین و شریعت کی باریکیوں کے سمجھنے اور مختلف چیزوں کے مدرج و مراتب کے امتیاز میں نمایاں درجہ رکھتے تھے اس وجہ سے بجا طور پر اس علم کے حامل اور امین ہونے کے زیادہ اہل تھے جس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ

بردار تو ان گفت  
بہ منیر نتوان گفت

حضرت ابو ہریرہؓ کا ایک محدث اور کثیر ارجوایتہ صحابی ہونے کے لحاظ سے موجود ہے اس سے کسی کو مجال انکار نہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ دین کی باریکیاں سمجھنے میں ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو طبقہ اول کے صحابہؓ کا ہے اور اس حقیقت کو نبی صلعم سے زیادہ جانتے پہچاننے والا اور کون ہو سکتا ہے ؟

دوسرا وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو جو تعلیم و تلقین بھی فرمائی وہ پہچانے اور راز رکھنے کے لیے ہے میں بلکہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے ہی فرمائی ہے میں قرآن یا حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے آنحضرت صلعم کی زندگی میں یا دوسرے انبیاء کی زندگی میں اس قسم کی صوفیانۃ راز داری کا پتہ چلتا ہو سکھنا بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار صحابہؓ کو اس بات کی تائید فرمائی کہ وہ جو کچھ اپ کی محبت میں سنیں اور دیکھیں، اُس کو دوسروں کو بتائیں، آپ نے فرمایا، "میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو" آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "میرے منہ سے جو کچھ س്നاہ کو محفوظ کرو کیوں کہ میرے منہ سے کوئی بات غلط نہیں نکلا کرتی" آپ نے جنتہ الوداع کے موقع پر سامعین کو یہ ہدایت فرمائی کہ جو لوگ موجود ہیں، وہ ان لوگوں کو یہ ساری باتیں بتائیں جو موجود نہیں ہیں کیوں کہ بہت سے لوگ دوسروں سے سُن کر بڑاہ راست سننے والوں سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ حق بات جانتے ہوئے دوسروں کو اس کے بتانے سے گریز کریں گے قیامت کے دن ان کے مُمنہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔

اس طرح کی متعدد تائیدات مختلف پسلوؤں سے ہمیں احادیث میں آپ کی طرف سے ملتی ہیں لیکن کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے کسی ایک صحابیؓ سے بھی کوئی بات فرمائی ہو اور بھرپور تائید کی ہو کہ اس کو اپنے ہی تک راز رکھنا، دوسروں پر اس کو نہ کھونا، اور نہ لوگ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس کے برخلاف بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے کوئی بات بتائی ہے۔

اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرمائی ہے کہ اس کو بتانا اور کہنا اگرچہ اس کے سبب سے لوگ تمہارے دشمن ہی بن جائیں اور تمہیں نقصان ہی پہنچائیں۔ حرف آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے صحابہؓ کی زندگیوں ہی میں نہیں بلکہ دوسرے آنیباًع اور آن کے صحابہؓ کی زندگیوں میں بھی ہمیں اس طرح کی ہدایات و تاکیدات کم و بیش انہی الفاظ میں ملتی ہیں۔ حضرت مسیحؓ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو کچھ ہدایات دیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ”لوگ ان باتوں کے سبب سے تمہیں بازاروں میں کوڑے لگائیں گے اور عدالتوں میں مجرم ٹھیکرائیں گے مگر تم ان باتوں کی پردازہ کرنا، تمہارا اسماں باپ تمہارے ساتھ ہے“ ۴

۴۔ اب دوسری صورت کو بھیجئی، یعنی اس بات کو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں حضرت ابو ہریرہؓ کو سکھائی اور بتائی تو ہوں تبلیغ و تعلیم کے عام مقصد ہی کے تحفظ لیکن حضرت ابو ہریرہؓ کی زندگی ہی میں لوگوں کے حالات اس قدر منغیر ہو چکے ہیں کہ ان باتوں کو بتانا اور سکھانا جان جو کھوں کا کام بن گیا ہو۔

اس میں مشتمل نہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی زندگی ہی میں زمانہ کے حالات بہت کچھ بدل چکے تھے، ان کی وفات خلافتِ راشدہ کے خاتمہ کے بعد بیوی اُمیمہ کی حکومت کے زمانہ میں ہوتی ہے جب کہ مسلمانوں کے اندر طلبِ دین کا جوش سر در پڑ رہا تھا اور طلبِ فریاد کی سرگرمیاں اس کی جگہ پر غالب آن شروع ہو گئی تھیں لیکن اس انقلابِ حال کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیوی امیمہ کے درمیں (کم از کم شروع میں) عوام کا مزاج اس قدر نہیں بگطا تھا کہ لوگ دین کی باتوں سے اس درجہ نامالغہ اور اوریگانہ ہو جائیں کہ ان کو سعیہ کی حد تھیں مانا بھی ایک پیغاط کام بن جائے اس دور میں جلیل القدر صحابہؓ کا ایک گروہ موجود تھا، ان کے شاگرد لوگ ہر چیز موجود تھے، ان کا اعزاز و احترام بھی اچھا خاصالوگوں میں پایا جاتا تھا، احادیث کے نقل و روایت کی گرامگری بھی ہر چیز موجود تھی، بہت سی خرابیوں کے پیدا ہونے کے باوجود، فضلاً بھی اتنی خراب نہیں ہوئی تھی کہ دین کی باتوں کو

بنانا اور سیکھنا دشوار ہو جائے اس دور میں بھی تین اور بھی علوم کا گھن بھی طبائع کو  
نہیں لگا سکتا کہ لوگ اس فطری سادگی اور دل کشی سے بالکل ہی نامانوس ہو جائیں  
جو شی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اقوال میں پائی جاتی تھی، ذہنی اغذیا سے  
کچھ لوگ متغیر ضرور ہو گئے تھے لیکن اتنے پست نہیں ہو کئے تھے کہ ان میں اسلامی  
باتوں کے سمجھنے یا اسلامی اقدار کے اخترام کی صلاحیت ہی مرے سے باقی نہ  
رہ گئی ہو۔ مسلمانوں کے ہر طبقہ میں دین کی سادہ اور عام تعلیمات کے سکھنے  
و ہونے موجود تھے اور دین کی گمراہی باقی سمجھنے والے بھی ہر جگہ پائے جاتے تھے۔  
یہ اور بات ہے کہ دین کی گمراہی بالتوں کو سمجھنے کے اہل جس طرح ہر دور میں تھوڑے  
ہی پائے گئے ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی ان کی تعداد تھوڑی تھی پس یہ بات  
کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے محض عوام کے فسادِ نماق کے  
سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دبیے ہوئے علم کو ظاہر کرنے سے اپنے آپ  
کو بے لبس اور مجبور محسوس کیا ہو۔

۳۔ اب رہ گئی تیسرا صورت، یعنی حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ ذخیرہ علم ایسی حدیثوں پر مشتمل  
ہو جن کے نقل و روایت اور جن کے پھیلنے میں وقت کے ارتباً اقدار اپنے اقدار  
کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوں۔

ہم کو سیوی بات قرین قیاس اور عقل و نقل کے مطابق معلوم ہوتی ہے کہ کبھی لوگ کہ  
حضرت ابو ہریرہؓ نے بنو ایمہ کا دور اور مروان اور امراء کے مروان کا جو دریکجا سکھا  
اُن کی وفات ۷۵ھ یا ۶۵ھ میں ہوئی ہے جب کہ مسلمان بنو ایمہ کے بھیرد  
استبداد کے سکنے میں اچھی طرح کسے جا چکے تھے اور بنو ایمہ تلوار کے زور سے  
ان تمام اہل حق کے دبایتے کے درپے تھے جو ان کے استبداد اور ان کی سیاسی  
و اجتماعی بدعنوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے ذخیرہ  
علم میں ایسی بہت سی حدیثیں تھیں جن میں اسلامی امراء و حکام کی ذمہ داریاں  
بیان کی گئی ہیں یا جن میں بنو ایمہ کے دور کے فتنوں ان کے «مک خضرص»

(استبداد) اور ان کے "چھوکروں" کی ستم رائیوں اور ان کے ہاتھوں دین اور اہل دین کی برپا دی کی بابت حضور نے پیش گوئیا فرمان تھیں، حضرت ابو ہریرہؓ نے اس قسم کی روایات کے ذخیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں روزہ و نماز اور حج و زکوٰۃ کی حدیثوں کی طرح اجتماعی و سیاسی معاملات سے متعلق حدیثیں بھی کھلم کھلا بیان کرنا شروع کر دوں تو مستبدین وقت مجھے جتنا نہ چھوڑ دیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے قول کا یہ مطلب عقل و نفل اور روایت و درایت کے بالکل مطابق معلوم ہوتا ہے اور صرف میں نے ہی اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا ہے بلکہ وہ مر شارحین حدیث بھی اس مطلب کی طرف گئے ہیں، اچنچہ معاویت میں اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے :

و قبیل ارادبہ اخبار الفتن	اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے حضرت
و مفاد الدین علی یید اغیلہ	ابو ہریرہؓ کا اشارہ ان احادیث کی طرف
من قریش دکان ابو ہریرۃ	ہے جو فتویں سے متعلق ہیں اور جن میں
یکنی عن بعض ولا یصرح به	قریش (بنو امیر) کے چھوکروں کے ہاتھوں

**۱۵** حضرت ابو ہریرہؓ کے اس قول کا مطلب تو بلاشبہ یہی ہے لیکن اس سے کسی کو یہ غلط فہم نہ ہو کہ اس طرح جان کے اندیشہ سے صحابہؓ نے رسولؐ کے دریے ہرئے علم کے ایک طریقے کو خالع کر دیا اور وہ امت کی طرف منتقل ہونے ہی سے رہ گیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ کا مطلب نہیں تھا کہ وہ ان روایات کو سرے سے بیان ہی نہیں کرتے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ان چیزوں کے بیان کرنے میں مناطق ہو گئے ہیں، ان کی ازادی کے ساتھ اپنے اہل اور لائق شاگردوں ہی سے بیان کرتے تھے، ان ہی کے ذریعہ سے ان کا علم بعد والوں کو منتقل ہوا، یہی وجہ ہے کہ بہت سی حدیثوں کی شریعت پہنچے دریں ہوئی بلکہ درسرے پا تیسرے در دریں ہوئی لیکن برعکس علم رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم، خالع نہیں ہوا بلکہ اسلام سے اخلاق تک منتقل ہو گیا اور یہی ہمارے سنت صالحین کی ذمہ داری تھی۔

خوناً علی نفسہ کلقولہ اعوذ  
بالله من امارة الصبيان یشیر  
انی امارة یزید بن معاویہ -

دین کی بر بادی کی پیشین گوئیاں ہیں -  
حضرت ابو ہریرہؓ ان میں سے بعض کی  
طریقہ اپنے اقوال اور دعاؤں میں اشارہ  
بھی کرتے تھے لیکن اندیشہ جان کے سبب  
سے نام لے کر ان کا ذکر نہیں کرتے تھے مثلاً  
وہ کہا کرتے تھے یہ میں چھو کر دل کی امارت سے  
خلد کی پناہ مانگتا ہوں ؟ اور اس سے ان  
کا اشارہ نہیں یہ میں معاویہ کی امارت کی طرف  
ہوتا تھا۔

دوسری حدیث جس سے یہ حضرات اپنے باطنی علم کی تائید میں استدلال کرتے ہیں وہ  
عبداللہ بن مسعود سے ان الفاظ میں مردی ہے:

عن ابی مسعود قال قال لى  
عبداللہ بن مسعود سے ردایت ہے کہ  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
فرمایا کہ قرآن سات قرأتون پر نازل ہوا  
ہے اور ان میں سے ہر گفتہ کا ایک ظہر و بطن -  
(الحدیث)

اسی حدیث کے ہم معنی حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا ایک قول بھی ہے جس میں ہوش  
نے قرآن کے ایک دریائے معانی ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ قرآن ایک دریائے معانی ہے، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں  
ہوں گے، قرآن میں تمام علم اوقیان اور تمام علم آخرین ہے، قرآن کی نازگی پر کبھی باسی پی  
نہیں آئے گا، قرآن سے اہل علم کبھی آسودہ نہیں ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ  
پڑھیقت ہیں اور ان لوگوں سے منقول ہیں جو قرآن کے رازدار رہے ہیں، بلکن  
اس مصادر کی احادیث و آثار اور اس کے ہم معنی اقوال و اشارات سے یہ استدلال

گرناکہ قرآن نے ایک ایسا علم باطن بھی دیا ہے جس کے حامل ہر دور میں صرف چند لفوسِ قدسیہ ہی رہے ہیں اور انہی کے ذریعہ سے یہ علم ہر دور کے مخصوص حامیں کو سینہ پہنیہ منسلق ہوا ہے، ہمارے زدیک بالکل غلط ہے، اس میں شہنشہ کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک باطن بھی ہے لیکن اس کا کوئی باطن نہیں ہے جس کی راہنمائی خود اس کا ظاہر نہ کرنا ہو، قرآن کے اندر اسرارِ حکمت کا لاریب ایک خزانہ ہے لیکن اس خزانہ کی کلید خود قرآن کے ہی الفاظ و اشارات ہیں، قرآن سے باہر ان کی کلید نہیں ہے، قرآن کے علوم کا ایک حصہ اس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، ایک حصہ اس کے اشارات سے کھلتا ہے، ایک بہت بڑا حصہ اس کے سیاق و سبق سے بے نقاب ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑا خزانہ اس کے نظام کی معرفت سے سامنے آتا ہے۔ جو لوگ قرآن پر تدبیر کرتے ہیں وہ بقدر استعداد اس سے فیض پاتے ہیں اور وہ اپنی ہربات پر قرآن ہی کے الفاظ و اشارات اور سیاق و نظام سے دلیل لاتے ہیں، اس معاملہ میں مجرد فدق یا کشف یا مشاہدہ کو دلیل را نہیں بناتے۔ ایک فقیہ جس طرح قرآن حکیم سے ایک فقیہ حکم متنبسط کرتا ہے، اور اس پر قرآن کے الفاظ یا اشارے کوئی دلیل پیش کرتا ہے اور اگر وہ اس طرح کی دلیل نہ پیش کرے تو اس کی بات بالکل پے وزن ہو کے رہ جاتی ہے، اسی طرح ایک "صاحب اسرار" کافرن ہے کہ وہ اپنے ہر تر کوئی متعلق اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے قرآن سے سمجھا ہے، قرآن سے دلیل لائے اور اگر وہ قرآن سے دلیل نہ لاسکے تو اس کے اس نکتہ کی کوئی وقعت نہیں اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے یہ نکتہ خانہ بکھر کے اندر قرآن کی روحاںیت کی طرف توجہ کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ لہ پس جہاں تک قرآن کے اندر اسرار و حکم کے موجود ہونے کا تعلق ہے اس سے کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے لیکن اسرار و حکم کے اس خزانہ پر کسی خاص گروہ کا احصار نہیں ہے اس خزانہ میں سے بقدر صلاحیت و استعداد وہ لوگ حصہ پاتے ہیں جو کتاب اللہ پر تدبیر کرتے ہیں اور ان شرائط کے ماتحت تدبیر کرتے ہیں جو قرآن پر تدبیر کے لیے مقرر ہیں بحفرات صرفیا کے کرام نے جو اسرار و معارف دریافت کیے ہیں ان کا وہ حصہ بے شک صحیح ہے جو

لہ اس قسم کے اسرار کی دلچسپی میں ہم اگے مناسب موقع سے پیش کریں گے۔

انہوں نے قرآن کے تدبیر کے ذریعے سے حاصل کیا ہے اور جس پر وہ قرآن سے کوئی ولیل رکھتے ہیں مگر مجرّد اس بنا پر کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک باطن بھی ہے، علم باطن کا ایک پورا نظام کھڑا کر دینا اور اس کی حمایت میں مذکورہ بالا حدیثوں سے دلیل لانا اصریح زیادتی ہے۔ باطن نماز کا بھی ہے، باطن روزہ کا بھی ہے، باطن حج کا بھی ہے، باطن زکوٰۃ کا بھی ہے اور قرآن نے صاف صاف اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان میں سے ہر چیز کا ایک باطن ہے اور وہی باطن مقصودِ حقیقی ہے لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ کوئی شخص اٹھ کر ان عبادات کی ساری صورت و بیعت بالکل بدلتے اور جب کوئی شخص اس پر اختراض کرے تو وہ جواب دے کہ ”یہ باقیں باطن سے تعلق رکھنے والی ہیں، ان کو اہل ظاہر کی جانبیں“ قرآن نے جماں یہ بتایا ہے کہ ان میں سے ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔ وہیں یہی اشارہ کر دیا ہے کہ فلاں ظاہر کا باطن یہ ہے تاکہ کسی بے راہ دردی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔



# تذکیرہ کا لغوی مفہوم، اُس کا مقصد اور اُس کی وسعت

عرب زبان میں تذکیرہ کا مفہوم کسی چیز کو صاف سترہ بناانا، اس کو نشوونما دینا، اور اُس کو پروان چڑھانے ہے۔

تذکیرہ کا عمل مختلف چیزوں پر ظاہر میں تو مختلف شکلوں میں نایاں ہوگا، مادی چیزوں پر یہ عمل کسی اور شکل میں نایاں ہوگا اور معنوی چیزوں پر کسی اور صورت میں۔ لیکن یہ فرق محض ایک ظاہری فرق ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے یہ کوئی فرق نہیں ہوگا، لفظ کے اندر صاف سترہ بنانے، نشوونما دینے اور پروان چڑھانے کی جو روح ہے وہ اس کے عمل میں ہر جگہ نایاں رہے گی۔

اس بات کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تذکیرہ کا عمل زمین کے ایک بکارے پرچی کیا جا سکتا ہے اور ایک انسان کے نفس پرچی کیا جا سکتا ہے اگر چہ ان دونوں چیزوں پر اس عمل کی صورت ظاہر میں مختلف ہوگی اس لیے کہ میدانِ عمل الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت اور مقصد کے لحاظ سے دونوں عملوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا، زمین کا تذکیرہ یہ ہوگا کہ اس کو پہلے جھاٹر جھنکار سے صاف کیا جائے، اس کی ناہمواریوں کو سہار کیا جائے پھر اس پر مل چلا کر اس کو نرم بنایا جائے۔ پھر کھاد اور پانی دے کر اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق کسی صالح بیج کو نشوونما دے سکے اور اس سے پھل اور بچوں حاصل ہو سکیں۔

نفس کا تازگی یہ ہو گا کہ اس کے اندر جو غلط افکار و نظریات جڑ پکڑنے گئے ہیں، ان کی جڑیں اکھاڑی جائیں، جاہلی عادات و اخلاق نے اس کے اندر جو کھیاں اور ناہمواریاں پیدا کر رکھی ہیں، ان کو درست اور ہموار کیا جائے، تقید دل اور رسموں کی پرستش نے اس کو بے حصی اور جمود کے جو روگ لگا رکھے ہیں ان کو در کیا جائے۔ فان اور لنسان اللہ توں کی چاٹ نے اس پر جو پست ہمتی اور بزبدلی طاری کر رکھی ہے اس کا علاج کیا جائے تاکہ اس کی آنکھیں کھل سیکیں، اس کا دماغ سر پنج سکے، اس کی بہت ابھر سکے، اس کی عاتیں سنوں سیکیں اور وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق اپنی ذہنی، اخلاقی اور روحانی ترقی کے اس بلند مرتبہ تک پہنچ سکے جس مرتبتہ تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قابلیت رکھی ہے۔

تازگی کا اصطلاحی مفہوم: اسی مفہوم سے متعارف تازگیہ کا اصطلاحی مفہوم بھی کسی ہیز کو صاف سخرا بنانا اور اس کو پروان چھڑھانا ہے اور اس کا اصطلاحی مفہوم نفس کو غلط رہنمائی و میلانات سے مورکر بیکی اور خدا ترسی کے راستہ پر ڈال دنیا اور اس کو درجہ کمال پر پہنچنے کے لائن بنانا ہے۔

تازگیہ کا یہ اصطلاحی مفہوم خود قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہوتا ہے:

وَهُنَّاْ سَوَاهَا فَالْيَوْمَ	اُور شاہد ہے نفس اور حسیا اس کو بنایا
فُجُورَهُ وَنَعْرَاهَا قَدْ أَفْلَحَ	پس اس کو بھروسی بیکی اور بدھی کی،
مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ	کامیاب ہوا جس نے اس کا تازگیہ کیا اور
مَنْ دَسَهَا	ناکام ہوا جس نے اس سے آلووہ کیا۔

اس آیت سے یہ بات صاف لکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر نیکی اور بدھی دونوں کے رحمائیات و دعیت کر دیتے ہیں۔ اور اس کریم صلاحیت بخشی ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان امتیاز کر سکے، پھر انسان کے یہے فلاں دکامرانی کا راستہ یہ بھرا باہے کہ وہ نیکی اور بدھی کی اس کشمکش میں نیکی کھا سکتے ہو۔

اور اس کو بدی پر غالب کرنے کی کوشش کرے۔

صحیح شور کے ساتھ نیک کو غالب کرنے اور بدی کو مغلوب کرنے کا یہ چناد فرآن مجید کا اصطلاح میں تذکیرہ ہے۔

**علم تذکیرہ کی وسعت** [ آپ کو معلوم ہو گا کہ جو علوم ہمارے نفس سے براہ راست بحث کرنے والے ہیں ان میں علم طب ہی ایک ایسا علم ہے جو تذکیرہ کے علم سے کسی حد تک مشابہت رکھتا ہے۔ علم طب ہمارے جسم کی بیماریوں اور ان کے علاج سے بحث کرتا ہے اور علم تذکیرہ ہماری روح کے امراض اور ان کے علاج سے بحث کرتا ہے لیکن اس مشابہت کے باوجود دونوں میں بہت بڑا فرق بھی ہے، علم طب کا دائرہ بحث نہایت محدود ہے وہ صرف ہمارے نفس کے ایک پہلو عین جسم اور اس کے امراض سے بحث کرتا ہے، اس کے بر عکس علم تذکیرہ ہمارے نفس کے تمام ظاہری و باطنی گونشوں سے بحث کرتا ہے، ہمارا نفس جن قوتیں اور قابلیتوں سے بھی مرکب ہے، یہ ان سب پر تعمیقی نگاہ ڈالتا ہے اور ان سب کی تربیت کرتا ہے۔ ہمارے اندرہ میں احساسات و جذبات پائی جائے جائیں ایسے سب کو زیر بحث لاتا ہے اور ان سب کی اصلاح کرتا ہے۔ ہمارا نفس جو کوئی بھی اور مختلف النوع روابط و تعلقات کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے ہے اُن سب کا جائزہ لیتا ہے اور سب کو ایک خاص اصول و ضابطہ کے تحت منظم کرتا ہے، ہمارے دل کے خیالات، ہمارے ذہن کے دروس سے، ہماری طبیعت کے میلانات اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا کھانا پینا، ہمارے مٹانے اور ہماری دلچسپیاں، ہمارے روز و شب کے معمولات غرض ہماری زندگی کا کوئی شعیر ایسا نہیں جس سے یہ بحث نہ کرتا ہو۔

**علم تذکیرہ کا اصل کام** [ بحث کرتا ہے، یا ان کی خرابیوں کو دور کر کے ان کی چگر پر جو کچھ صلح ہے اس کو پیش کرتا ہے، بلکہ اس کا اصل کام اس بحث و تعمیق اور اس تغییر و تلقین سے آگے ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نفس کی ہر پہلو سے ایسی تربیت

بھی کرتا ہے جس سے ہمارا نفس "نفس مطمئنة" بن جائے۔

نفس مطمئنة کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم کی بیاد ایسے مخصوص طبقتیں پر قائم ہو جائے کہ رنج دراحت اور دکھ کی کوئی حالت بھی خدا کے بارے میں ہمارے اختیار اور ہمارے حسن ظن کو بدیل نہ سکے بلکہ ہر حالت میں ہم خدا سے راضی اور مطمئن رہیں، اسی طرح ہمارے عمل کی بیاد ایک ایسی مستحکم سپہرت پر قائم ہو جائے کہ تنگی و فراخی اور خوف و طمع کی کوئی آزار ایش بھی ہم کو اس مقام سے نہ ہٹا سکے جہاں اللہ کی شریعت نے ہمیں کھڑا کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کچھ چاہا ہے، ہم اس کو پورا کر کے اس کے پسندیدہ بندے بن سکیں، یہی نفس مطمئنة تذکیرہ کا اصل مقصد ہے، قرآن میں اس نفس مطمئنة کا بیان ان الفاظ میں ہوا ہے :

لَيَايَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمِئْنَةُ أُرْجُعُ  
إِلَى سَرِيرِكَ رَاضِيَةً هَرَبِيَّةً -

اے ٹھکانے کے نفس، تراوٹ اپنے خلوت  
پک طرف، تراس سے راضی اور رہ بھر  
سے راضی۔

**خوب سے خوب تر کی تجویز** | اس تفصیل سے یہ تحقیقت بھی واضح ہوئی کہ تذکیرہ خوب سے خوب تر کی تجویز میں ایک ارت کی شان بھی پائی جاتی ہے کیونکہ

تذکیرہ کا مطبع نظر صرف اسی قدر نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا نفس کسی نہ کسی شکل میں راہ پر لگ جائے بلکہ تذکیرہ اس سے آگے بڑھ کر نفس کو خوب سے خوب تر بنانے کی جدوجہمہ کرتا ہے۔ تذکیرہ صرف اتنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں خدا اور اس کی شریعت کا کچھ علم حاصل ہو جائے بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں خدا اور اس کی صفات کی سچی اور پکی معرفت حاصل ہو جائے۔ تذکیرہ صرف یہی نہیں پیش نظر نہیں رکھتا ہے کہ ہماری عادات میں کسی حد تک ستر جائیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام مکار م اخلاق کے پیکر مجسم بن جائیں تذکیرہ صرف اتنے پر ہی قواعد نہیں کرتا کہ ہمارے جذبات میں ایک ہم آہنگ اور ریط پیدا ہو جائے بلکہ وہ اس پر فرید ہمارے جذبات کے اندر رفت و لفاٹ اور سوز و گداز کی گھلاؤٹ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ تذکیرہ کا مطالیہ صرف اسی قدر نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی نہ کسی طرح ہمارا نفس، احکام، امور

کے تخت آجائے بلکہ اس کا اصل مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا نفس خدا در اس کے رسول کے بر حکم کو اس طرح بجا لائے جس طرح اس کے بجالانے کا حق ہے۔ اس کا مطالبہ ہم سے صرف خدا کی بندگی ہی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس بات کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا کی اس طرح بندگی کریں گویا ہم اسے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مختصر الفاظ میں اس کے معنی یہ ہونے کہ تزکیہ ایمان، اسلام اور احسان تینوں کے تقاضے بیک وقت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کو اس کی تمام صفتیں کے ساتھ نہیں پچھرو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے تمام احکام کی زندگی کے سرگوششہ میں اطاعت کریں اور پھر اس کا مطالبہ ہم سے یہ بھی ہے کہ یہ ماننا اور اطاعت کرنا بعض رسماں اور ظاہری طریقہ پر نہ ہو بلکہ پورے شعور اور گھری للہیت کے ساتھ ہو جس میں ہمارے اخفاء و ہمارے کے ساتھ ہمارا دل بھی پورا پورا شریک ہو۔

اس پیغمبر نے تزکیہ کو ایک مستمر جدوجہد اور ایک مسلسل تگ و در د کی چیز بنا دیا ہے اس میں کوئی وقفہ یا ٹھیکانہ نہیں ہے، اس سفر میں کوئی موڑ یا مقام ایسا نہیں آتا ہے جہاں پہنچ کر آدمی یہ سمجھ سکے کہ اب یہ آخری منزل آگئی ہے، یہاں پہنچ کے ذرا سستا لینا چاہیے یا یہیں کر کھوں دینی چاہیے۔ یہ ایک خوب سے خوب تر کی جستجو ہے، اس خوب سے خوب تر کی جستجو میں لگاہ کو کہیں ٹھہر نے کی جگہ نہیں ملتی جس رفتار سے اعمال و اخلاق اور ظاہر و باطن میں جلا پیدا ہوتا جاتا ہے، اسی رفتار سے مذاق کی لطافت، ہس کی فرکاریت اور آنکھوں کی بھارت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ لکھتا ہے کہ دامن کے پچھلے درجے و حصول کے ابھی فارغ نہیں ہونے کے لگاہ کچھ اور دھونڈ کے سامنے رکھ دیتی رہے کہ اب انہیں دھرمی ہے ۲

ہے جستجو کا خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ اب دیکھیے ٹھیکانے ہے جا کر نظر کھاں؟ عمل تزکیہ کی اس نظر نے اس کو نہایت مشکل اور دشوار کام بنادیا ہے۔ اگر ایک شخص اس کی دستیوں کو دیکھ کر بالفرض تر بھی گھبرائے تو بھی ڈر رہتا ہے کہ مبادا یہ تسلسل اس کی کر مہت توڑ کے رکھ دے، لیکن اگر یہ عمل قدری طریقہ پر اس تدریج و ترتیب کے ساتھ

کیا جاتا ہے جو اس کے لیے انبیاء علیهم السلام کی تعلیم میں بتایا گیا ہے تو اس وسعت اور اس لامتناہیت کے باوجود ایک طالبِ حق کے لیے اس سے زیادہ لذیذ اور پرکشش کام کرنی دوسرانیں ہے اس کی وسعتوں کو دیکھ کر دل پر ہر اس ضرور طاری ہوتا ہے لیکن اس راہ میں ہر قدم پر غیب سے جو راہنمائی حاصل ہوتی ہے وہ راہنمائی اس قدر تسلی بخش ہوتی ہے کہ ہمت برابر بندھی رہتی ہے اور دل کبھی بے حوصلہ نہیں ہونے پاتا۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَعْمَلٍ يُكْفَحُونَ  
جو ہماری طلب میں جدوجہد کرتے ہیں، ہم  
سُبْلِسْتَا۔

اس طرح اس راہ کے تسلی سفر سے جو زیکان لاحق ہوتی ہے اس کا ازالہ ان نئے نئے حقائقِ دلطاں کے انکشافت سے ہوتا رہتا ہے جو برابر تازہ زندگی بخشنے رہتے ہیں۔

### ہر زماں از غیبِ جانے دریگراست

جدوجہد کے تسلی کے ساتھ اگر تازہ تباہہ فتوحات برابر حاصل ہوئیں اور ہر نئی کامیابی پھیل تکام کامیابیوں سے کیں جاؤ چڑھ کر ہوتے مخت کی کیاں اور اس کے تسلی کے باوجود طبیعتِ کندہ نہیں ہونے پائی بلکہ ہر زیارہ حد تھے ذوقِ وشق کے ساتھ شروع کرنا کا حوصلہ برابر از خود پیدا ہوتا رہتا ہے۔

**از کیہ کا اصلِ موضوع** اور مشکلوں کا اندازہ ایک حد تک کیا جاسکتا ہے لیکن اس کے سارے پلروؤں کو نگاہ کے سامنے لانے کے لیے مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ تزکیہ کے صل مرضوع کو سامنے رکھ کر اس کے سارے اطراف کو احاطہ میں لینے کی کوشش کی جائے کیوں کہ حقیقت پلرو اس مرضوع کے ہوں گے، لازماً اتنے ہی پلرو اس تزکیہ کے بھی ہوں گے لباسِ ہمیشہ قامت کو سامنے رکھ کر تراشا جانا ہے، اس وجہ سے اگر قامت کا اندازہ ہو جائے تو اس کے طول و عرض کا اندازہ آپ سے آپ ہو جائے گا۔

تزکیہ کا موضع ظاہر ہے کہ فضیرِ نسوان ہے لیکن خود نفس کیا ہے؟ یہ ایک بڑا

اہم سوال ہے اس سوال کہ اسلام کے فلسفہ میں بھی اہمیت دی گئی ہے اور جاہلیت کے فلسفہ میں بھی اس کو خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ ایختنر کے میదار کے دردناکہ پر سقط اٹ کا یہ مقولہ کندہ تھا کہ: ”اے انسان تو اپنے آپ کو پہچان!“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یونانی حکمت میں معروضہ نفس کو حصولِ تزکیہ کی راہ میں بنیادی پیشہ خیال کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ مقولہ مشورہ ہے:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ  
جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو اس نے اپنے خدا کو پہچانا۔

اس وجہ سے غرر دی ہے کہ خود نفس کا تجزیہ کو کے دیکھا جائے کہ یہ کن صفات اور کن تقاضوں سے مرکب ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا تزکیہ کن کن باتوں کا متفقہ ہو گا۔ نفس کے تجزیہ سے ہمارا مطلب بیان اس طرح کا تجزیہ ہتھیں ہے جس طرح کا تجزیہ فلسفی لوگ کسی پیغمبر کی مہمیت و حقیقت معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہمارے نزدیک نہ تو نفس کی حقیقت و مہمیت معلوم ہو سکتی ہے اور نہ ہمارے مقصد کے لیے اس کی مہمیت و حقیقت کا معلوم ہونا کچھ ضروری ہے۔ ہم صرف نفس کے صفات اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے صرف ان عقلی و اخلاقی پہلوؤں کو سامنے لائیں گے جو علم تزکیہ میں زیر بحث آتے ہیں یا آنے چاہیں۔

نفس انسانی کے مختلف پہلو | اب آئیے غور کیجیے کہ ہمارے نفس کے ”میں“ سے تعبیر کرتے ہیں (کیا کیا پہلو ہیں جن پر تزکیہ کا عمل واقع ہو سکتا ہے اور جن کے تزکیہ کے بغیر اس کا اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق پروان چڑھانا ممکن ہے۔ ہم اپنے نفس پر جب غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اور جو بدیہی طور پر عمل تزکیہ کے تحت آتے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا نفس اور اک کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ ہمارا نفس عمل کرتا ہے۔

ادرأک ہمارے نفس کا اصل جو ہر ہے ہے ابیر نہ ہوتا انسان ایسٹ پھر سے زیادہ فحخت دیئے جانے کے لائیں نہیں ہے پھر یہ ادرأک جیسا کہ ظاہر ہے صرف بجز نیات ہی کا ادرأک نہیں ہے بلکہ کلیات اور حقائق کا ادرأک بھی ہے اور ہمارے نفس کی بھی وہ صفت ہے جو درحقیقت اس کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے ورنہ وہ ایک جائز سے زیادہ اہمیت دیئے جانے کا مستحق نظر پایا، یہ کلیات کا ادرأک اس کے لیے تعلق و فکر کی وسیع را ہیں کھولتا ہے، اسی سے اس کے تمام علوم و افکار اور تمام عقائد و نظریات وجد میں آتے ہیں، اسی کی مدد سے وہ ظاہر سے باطن اور مجاز سے بخوبی تک پہنچتا ہے، اسی کی رائہ میں وہ مخلوق سے خالق اور مصنوع سے صانع تک رسائی حاصل کرتا ہے، اسی کی روشنی میں وہ مصنوع کو دیکھو کر صانع کی صفتیں اور اس کی پسند اور ناپسند کا اندازہ کرتا ہے اور پھر اسی کی مدد سے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے لیے زندگی کی صحیح روشنی کیا ہے؟ اور اس پر بحثیت ایک انسان کے کیا فرائض اور کیا ذریعہ داریاں عاید ہوتی ہیں اور ان ذریعہ داریوں کو اسے کس احساس مبتلا کرے اور کس مستعدی اور سرگرمی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔

اندازہ کیجیے کہ ہمارے نفس کا یہ پلوکس قدر اہم ہے۔ بدین طور پر نظر آتا ہے کہ نفس کے درستے تمام پہلو اسی کے تابع ہیں، اگر اس کی اصلاح ہو تو پورے نفس کی اصلاح ہو سکتی۔ ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ادنیٰ خرابی بھی موجود ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کی فکر ہی ہے جو اس کو گراہ یا راہ بیاب بناتی ہے اگر فکر کا ایک قدم بھی غلط ہو جائے تو سارا فلسفہ ہی غلط ہو کے رہ جائے اور نتائج نکالتے ہیں کوئی معمول فردوگذاشت بھی ہو جائے تو علم کی ساری عمارت ہی دھڑام سے زین پر اڑ ہے اور پھر اس خرابی کے نتیجہ کے طور پر لازماً زندگی کے ہر گوشہ میں فساد پھیل جائے۔

### تذکرہ علم و ادرأک

ادرأک کے تذکرہ کو ٹوپی اہمیت حاصل ہے، اس میں مقدم شے ہے کہ پہلے وہ بنیادی سوالات طے کر دیے جائیں جو فکر و نظر کو صراطِ مستقیم پر فارغ رکھنے کے لیے ضروری ہیں خلاصہ کہ ہم کیا ہیں چکاں سے آئے ہیں چکاں جائیں گے؟

ہم خالق ہیں یا مخلوق ہیں یا مجبور ہو غیر مستول ہیں یا کسی کے آگے جواب دہ ہیں تو اس کی صفات کیا ہیں ہماری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے؟ اگر کسی روشن کرنا پسند کرتا ہے تو اس کے اختیار کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ ان سارے سوالوں کا نہایت قطعی اور حقیقی جواب نفس کو علمی کھجروں اور گمراہیوں سے بچانے کے لیے ناگزیر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان سوالوں کے جو صحیح اور قطعی جوابات مہیا کیے جائیں ان پر تلقین و جمود اور غفلت نیاں کا گرد وغیرہ نہ چھوٹے پائے اور اگر خدا نخواستہ کسی گرش میں زنگ لگتا ہو انظر آئے تو اس کو مانجد کر برادر صاف کیا جاتا رہے۔

**تذکرہ عمل** | اسی طرح دوسرے پولیعنی عمل کر لیجیے، یہ پولیعنی علم ہی کی طرح وسیع ہے، انسان کا کوئی بھروسی ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں وہ کوئی نہ کوئی عمل نہ کرتا ہو، اور اس کا یہ عمل اس کے نفس پر کوئی برا یا بھلا چاپ نہ چھوڑتا ہو۔

ان اعمال کے تعلق صرف جائز اور ناجائز کا ہی سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جائز و ناجائز سے زیادہ اہمیت رکھتے والا سوال ان کے حرکات سے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کی محکم کوئی ایک ہی شے نہیں ہوتی، بلکہ مختلف حرکات ہیں جو اس کو عمل کے لیے اساتھی ہیں اور ان سے ہر محکم کا عمل کے مزاج پر پراہ راست اثر پڑتا ہے، ایک ہی عمل ایک محکم کے تحت نیکی کا عمل بنتا ہے اور وہی عمل دوسرے محکم کے تحت بدی کا عمل بن جاتا ہے۔

پھر ہمارے اندر جتنے بھی حرکات ہیں، ان کے متعلق یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون پر اعتماد کیا جائے؟ کون ہیں جن کی زریغہ و تحریک قبول کی جائے اور کون ہیں جن کی زریغہ و تحریک انکھوں کے قبول کرنے میں اندیشہ اور نظرے ہیں۔

کسی بھی ہم کوئی عمل کسی ضرورت کی تحریک سے کرتے ہیں مثلاً بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، مکان محسوس ہوتی ہے تو آرام کرتے ہیں۔

اسی طرح ہم بہت سے عمل خواہشوں کی تحریک سے کرتے ہیں مثلاً شہرت و ناموری کے حصول کے لیے بہادری کے کام کرتے ہیں، ہر دفعہ زیارتی حاصل کرنے کے لیے رفاقت عالم کے کارنافل

انجام دیتے ہیں۔ دولتِ مند بینے کے یہ صنعت و حرف اور تجارت کے کاروبار پھیلاتے ہیں۔ علی ہذا القیاس ہمارے بہت سے کامِ جذبات کے تحت ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی سے محبت اور کسی سے نفرت کرتے ہیں کسی پر حسد اور کسی پر مراہن کرتے ہیں کسی پر احسان کرتے ہیں اور کسی سے انتقام لیتے ہیں۔

علاوه ازیں ہم گھر سے تجزیہ نفس سے یہ بھی محسوں کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اعمال یہی بھی ہیں جن کا خواہ مذکورہ تمام حرکات سے بالآخر ہوتا ہے، اس کے تحت ہمارے تعلق و تفکر اور ایثار و یہ غرضی کے وہ سارے کام آتے ہیں جن کے اندر اپنے باریک ترین تجزیہ سے بھی ہم کسی نفسانِ شائیر کا سراغ نہیں پاتے ہیں۔ اس محرک کو ہم روحِ ملکوتی یا نفسِ ناطقہ کے لفظ سے تبیر کر سکتے ہیں۔

یہ چاروں قسم کے حرکات ہمارے اندر کبھی الگ الگ کام کرتے ہیں اور کبھی ملنے بخال ہوتے ہیں۔ نیز یہ اپنے فعل میں افراط و تفریط کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہر عمل میں ان کا تجزیہ کرتے رہنا اور ان کی افراط و تفریط پر ان کا محاسبہ کرتے رہنا اور ان کو ان کے ظلری و شرعی حدود کا پابند بنانا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے، اس سارے سلسلہ کو ایک خاص نظم کے تحت منظم کرنا بھی تذکیرہ کے فرائض میں داخل ہے۔

**تذکیرہ تعلقات و معاملات** | نفس کا دوسرا پلواس کے تعلقات و معاملات کا ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ بھی اپنی دسعت میں کسی طرح مذکورہ پلواؤں سے کم نہیں ہے بلکہ ان کے کچھ زیادہ ہی ہے۔

نفس کے تعلقات میں سبکے پہلے جو تعلقات زیرِ بحث آتے ہیں وہ نفس کا تعلق خدا کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خالق نہیں بلکہ مخلوق تسلیم کرتے ہیں تو یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ خالق کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ اور وہ بالکل صحیح نیادوں پر کس طرح قائم ہو سکتے ہیں؟

اس کے بعد درسرے درجہ میں خود اپنے نفس کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم جس

چیز کو "انا" یا "میں" سے تغیر کرتے ہیں وہ بھی طور پر بہت سی چیزوں کا مالک یا امین ہے اس کے قبضہ میں ایک جسم ہے، دل و دماغ ہیں، قریم اور قابلیتیں ہیں، احساسات اور جذبات ہیں، آخر وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے گا جو کیا وہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے اور اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کو جس طرح چاہے استعمال کرے یا وہ ان چیزوں کا امین ہے اور ان کو وہ صرف ان حدود کے اندر ہی استعمال کر سکتا ہے جو امانت رکھنے والے کی طرف سے ان کے استعمال کے لیے مقرر کردی گئی ہیں ہا اگر دوسرا شکل ہے تو پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ وہ حدود کیا ہیں؟ جن کی نگہداشت اس سلسلہ میں لازمی ہے اور پھر انہی کے ساتھ ان ظاہری اور باطنی صفات کا جاننا بھی ناگزیر ہو گا جو اس نگہداشت کے فرض سے کا خفہ اعتمادہ برآ ہونے کے لیے ضروری ہیں۔

خدا اور اپنی ذات کے بعد نفس کا تعلق اپنے ماحول سے جڑتا ہے، انسان کے متعلق یہ حقیقت ہے: محتاج بحث نہیں ہے کہ وہ ایک اجتماعی وجود ہے، وہ جسی بھی پایا جاتا ہے اور جہاں کہیں بھی پایا جاتا ہے، کسی خاندان کے فرد، کسی معاشرہ کے رکن، کسی ریاست کے شہری ہی کی حیثیت سے پایا جاتا ہے۔ ایک بیل جس طرح اپنے پھیلنے، اپنے پروان چڑھنے اور اپنے پھلنے پھوٹنے کے لیے لازماً کچھ ساروں کی محتاج ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے نشوونما اور اپنی ترقی اور کمال کے حصول کے لیے ان سمازوں کا محتاج ہے، ان سمازوں سے الگ ہو کر اُول تو اس کا وجود پایا ہی نہیں جاتا اور اگر پایا جاتا بھی ہے تو اس طرح کہ اس کی ساری صلاحیتیں بالکل ٹھیکر کے رہ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے تذکیرہ ہمارے نفس کے سارے تعلقات کا جائزہ لے کر ان کو صحیح بنیادوں پر استوار کرتا ہے تاکہ وہ اس معراجِ کمال تک پہنچ سکے جہاں تک وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے سعادت سے پہنچ سکتا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تذکیرہ کرنی مفرد اور بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے اطراف دُور دُور تک پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے نفس کا ہر گوشہ اور ہماری زندگی کا ہر پلوخواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی، عقلی ہو یا عقلی، اخلاقی ہو یا اجتماعی و سیاسی، اس کے تحت آتا ہے۔ ہمارے نفس کے تذکیرہ کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ اس کے کسی ایک گوشہ میں اُجالا ہو گیا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ہر گوشہ میں روشنی پھیل گئی، ہمارا علم بھی جگہ لگا اٹھا، ہمارا

عمل بھی پاکیزہ ہو گیا، بھارے تعلقات و معاملات بھی درست ہو گئے۔

اب ہم تذکیرہ کی ان تینوں قسموں - تذکیرہ علم اور تذکیرہ تعلقات پر الگ الگ ابتداء میں تفصیل کے ساتھ بحث نہ کریں گے۔



## اسلامی دادخلاق کا بے نظیر کام

تالیف

امام نووی

دو حصوں میں مکمل

قیمت ...

ترجمہ

مولانا محمد واقع خلیل

لغائی کتب خانہ نہ ہجت سریٹ اور مازار لامہ

# تذکرہ علم

## علمِ حقیقی کا مسیر پر ہم خدا کی معرفت سے

علم کے تذکرہ پر بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مختصر آری بتائیں کہ حقیقی علم کیا ہے اور اس علم کے حصول کے وسائل و درائع کیا ہیں۔

علم خواہ کسی سوری سے مولیٰ بات کا بھی ہو، بہر حال علم ہے اور جمل کے مقابل میں وہ انسان کو فطرت نا عزیز و مرغوب ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جس علم کی پایس انسان سے کے اندر سب سے زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے، جس علم کو وہ سب سے پہلے ڈھونڈتا ہے اور جس علم کو وہ دوسرا سے تمام علوم پر ترجیح دیتا ہے یہ علم مخف اس کائنات کے چند بیعی قرآنی و خواابط کے جان لیئے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ علم چند ما بعد الطیبی سوالات کے طینان بخش حل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ سوالات اگرچہ ما بعد الطیبی ہیں، اگرچہ ان سوالات کا تعلق انسان کے بالکل قریبی ماحول سے براہ راست نہیں ہے اور اگرچہ ان کے حل ہونے سے بظاہر انسان کی کوئی مادی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی تاہم ہر معقول انسان کے فکر و ذہن پر ان کا اس قدر غلبہ ہوا کرتا ہے کہ اُدھی اپنے بالکل پاس کے سارے سوالات کو چھوڑ کر سبے پہلے اسی ما بعد الطیبی سوالات کے حل کرنے کے درپے ہوتا ہے۔

بادی النظر میں یہ بات کچھ عجیب سی ضرور معلوم ہوتی ہے لیکن اگر گھری نگاہ سے انسان

کا ذہنی و فکری تجزیہ کیا جائے تو اس واقع سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اسباب خراہ کچھ ہی ہلکا  
لیکن انسان اسی ترتیب سے سوچتا ہے اور اسی ترتیب سے وہ اپنے ذہن میں اُبھرنے والے  
سوالات کو حل کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے پہلے یہ سوال نہیں آتا کہ اس کا جسم ہے وہ کن  
اجزا سے بنا ہوا ہے؟ بلکہ پہلے وہ اس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے  
کیا ہے؟ اسی طرح اس کے ذہن میں پہلے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جو پانی وہ پی رہا ہے، اس میں  
کن کن اجزاء کی کتنی مقدار شامل ہے اور جو غذا وہ کھا رہا ہے وہ کن کن ڈمینی جو ہر دل پر  
مشتمل ہے بلکہ ان سوالات کے پیدا ہونے سے پہلے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ ذات کوں  
ہے جس نے اس کے لیے بلا کسی استحقاق کے لیے خوان کر مل بھایا ہے اور اس ذات کی صفتیں کیا  
ہیں اور اس کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ علی ہذا القیاس اس کے ذہن کو پہلے  
اس تحقیق کی خواہش پریشان نہیں کرتی کہ جس زمین پر وہ چل پھر رہا ہے وہ گول ہے یا پیٹ کا  
ہے یا متحرک، بلکہ رسپے پہلے اس کے ذہن میں یہ سوال اُبھرتا ہے کہ اس وسیع زمین کو اتنے  
جمابر کے ساتھ وجود میں کون لایا ہے؟ اور وہ اس کو وجود میں لا کر خود کمال چھپ کے  
بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اپنے اور اس سقف نیلگوں کو، اور اس کے ساتھ ان ہزاروں لاکھوں  
ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھ کر نہ تو اس بات کے دریافت کرنے کے درپے ہوتا ہے  
کہ یہ جو ایک چھتی سی نظر آہی ہے فی الواقع یہ چھتی ہی ہے یا یہ محض ایک خلاۓ لامتناہی ہے؟  
وہ دورہ میں لے کر نہ چاند کے اندر نظر آنے والے وصیوں کی تحقیقات کے لیے دوڑتا ہے، نہ  
سورج اور زمین کے درمیان کے فاصلہ کی پیمائش کی نکریں مرگردیں ہوتا ہے بلکہ رسپے پہلے اگر  
اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے حل کے لیے بے چین ہوتا ہے تو وہ  
یہ سوال ہے کہ وہ کون ہے جو اتنی حرمت ایگزیک چیزوں کو وجود میں لایا ہے اور ان چیزوں کے  
وجود میں لانے سے اس کا مقصود کیا ہے؟

**۱۰۔** ملک ہے کس کے ذہن میں یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ موجودہ زمانہ کے ماہرین سائنس کی ساری توجہ تو اس وقت انہی  
سوالات پر کوڑ ہے جو اس کائنات کے ظواہر سے متعلق ہیں، خالقی کائنات کے سوال پر غور کرنے والے تو ان میں بہت کم ہیں۔ اس  
میں مشہور نہ صورتِ واقعہ ہی ہے لیکن اس سے ہمارا دعویٰ باطل نہیں ہوتا، جہاں تک سوال پیدا ہونے کا (باقی صفحہ ۲۴۳ پر)

انسان کے سوچنے کا یہ انداز اس کے وہی پن کا یا مخفی اس کی ذہنی لپیج کا نتیجہ نہیں ہے، وہ ایسا اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کو پاس کی چیزیں چھوڑ کر دوڑکی کوڑی لائے کا کچھ شوق ہے بلکہ فی الواقع سوچنے کی صحیح ترتیب ہی بھی ہے۔ یہی سوال درحقیقت وہ سوال ہے جس کے حل ہونے سے اس کی روح اور اس کی عقلی کو روشنی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو مل جائے تو اس کائنات کا سارا الجھاؤ کو بھر میں سُلکھ سکتا ہے اور اگر نہ ملے تو انسان قیامت تک سرمارتا رہے لیکن وہ کسی ایک گرد کو بھی نہیں کھول سکتا اور اگر کوئی گرد کھوتا بھی ہے تو پھر اس گرد کے اندر سے ہزاروں گرد ہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سوال کو حل کیسے بغیر اس دنیا میں انسان ہر اُن جو مازوں پر اڑتے اور ایسی آلات جیسی خطرناک چیزیں ایجاد کرنے کے باوجود بھی اس کائنات کے متعلق یا اندر ہی میں رہتا ہے وہ ایک گھر کے اندر ہے لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ گھر کس کا ہے؟ وہ اس گھر کی مختلف چیزوں کو توڑ چھوڑ رہا ہے، ان کو اٹ پٹٹ رہا ہے، ان کو اپنے استعمال میں لا رہا ہے، لیکن اس کو کچھ خبر نہیں کہ اس کے یہ سائے تصرفات اس گھروالے کی عرضی کے مقابلے بھی ہیں یا نہیں؟ وہ اس گھر کی بے شمار غصتوں سے آزاداً منقطع ہوا رہا ہے لیکن اسے کچھ معلوم نہیں کہ ان تمام غصتوں کے جواب میں اس گھروالے کی طرف سے اس پر کچھ ذمہ دار یا بھی عاید کی گئی ہیں یا نہیں؟ وہ اس گھر کے ہر حصے میں دندنار ہا ہے، لیکن اسے کچھ علم نہیں کہ اس گھروالے کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ اس گھر کو، گھروالے نے اس کو سہیتہ کے لیے سوچ پ دیا ہے یا اس میں صرف اس کو چند دنوں کی عارضی سکونت کی اجازت دی ہے؟ اگر عارضی سکونت کی اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں یا یہ حقیقت اس کے قید و شرط ہے؟ اگر کچھ شرطیں ہیں، تو وہ شرطیں

(بعین صفر ۹۷) تعلق ہے، پیدا تو آج بھی سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اور اس کی صفتیں کیا ہیں؟ لیکن موجودہ زمانہ کے فلسفی اس سوال پر غور کرنے اور اس کو حل کرنے کی بجائے اس سے فرار اختیار کرنے میں سلامتی سمجھتے ہیں؛ وہ کہنے کو تو بظاہر ہے کہتے ہیں کہ یہ سوال حل نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا حل چونکہ ان کی نوابشوں کے خلاف ان پر بہت سی ذمہ داریاں عاید کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو حل کرنے اور اس کی ذمہ داریوں سے دوچار ہونے کے بجائے یا تو اس کے مقابلے میں شتر مرغ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں یا اس کی غلط حل پر ہی قافع ہو جانتے ہیں۔

کیا میں ہو اور اگر شرطیں پوری نہ ہو سلیں تو گھر والوں کے متعلق کرنی یا زپس بھی کرے گا یا نہیں؟  
 خود کیجیے کہ کیا کسی کو دن سے کرو دن آدمی کی نسبت بھی یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی عالیشنا  
 اور آراستہ و پیراستہ محل کے اندر جاتا رہے گا، اس کی ہر چیز سے بیتے تکلف قائمہ اٹھانا شروع  
 کر دے گا، اس کے ایک گوشے اور ایک ایک کرنے کی تحقیق و تفییض شروع کر دے گا، اس کے معنی  
 خزانوں، اور پوشیدہ و فلینوں تک کی چھان میں کون نے لگ جائے گا اور یہ سب کچھ کرنے سے پہلے  
 وہ یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہیں محسوس کرے گا کہ اس محل کا مالک کون ہے؟ وہ اس کو اپنے محل  
 میں لگھنے دیتے کاروادار بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر یا الفرض وہ اس کو اس میں کچھ تصرف کرنے کی  
 اجازت بھی دے رہا ہے تو اس پر اس نے کچھ پابندیاں اور شرطیں بھی عاید کی ہیں یا بغیر کسی پابندی  
 اور بغیر کسی شرط ہی کے اس نے اپنا پورا محل اس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک چور اور ایک نقاب  
 زدن تو جلاشبہ کسی تحقیق و تفییض کے چکر میں پڑے بغیر اس طرح کے کسی محل میں جا گھسے گا اور اس میں  
 من مانے تھے تھرفاںت بھی شروع کر دے گا، لیکن کسی شریعت آدمی کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا  
 کہ وہ کبھی اس قسم کی جسارت کر سکے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عاقل آدمی کے اندر سب سے پہلے اس کائنات کے متعلق یہ  
 مابعد الطیبی سوالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہیں اس کی فطرت کی جڑ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی  
 سوالات ہیں جو پیدا ہونے چاہیں اور انہی کے صحیح جواب سے دراصل اس کے روح و دل کو  
 خیقی طمانتی و سرت بھی حاصل ہوتی ہے اور انہی سے علم خیقی کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔

جب آدمی کو اس کائنات کے خالق و مالک کا سراغ مل گیا تو اس کو گریا وہ کلید مل گئی جس  
 سے علم خیقی کے تمام دروازے کھوئے جاسکتے ہیں، اس کے بعد اس کے غر کے لیے وہ نقطہ  
 آغاز مل جاتا ہے جہاں سے تحقیق و تفییض کا صحیح قدم اٹھایا جاسکتا ہے، اس کے بعد انسان یہ  
 سوال طے کر سکتا ہے کہ یہ دنیا کیا سے آگئی ہے۔ اس کے بعد وہ خود اپنی حیثیت اور اپنے  
 مرتبہ کو بھی تعین کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ آفاق و انفس کے مطابع سے اس خالق و مالک  
 کی صفتیں کا بھی علم حاصل کر سکتا ہے اور ان صفتیں کو شیر و شراور حق و باطل کے درمیان  
 امتیاز کرنے کے لیے کسروٹی بھی بناسکتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے یہ سوال حل کر لینا بھی

پچھلے نہیں رہ جاتا کہ اس کے بیانے زندگی بس کرنے کی پسندیدہ روشن کیا ہے اور ناپسندیدہ روشن کیا ہے؛ بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی سعادت و شقاویت اور قوموں کے عروج و زوال سے متعلق کیا اصول جاری ہیں؟

انسان کی انفرادی و اجتماعی سعادت سے متعلق یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جو سب سے پہلے حل ہونے چاہیے۔ ان کے حل ہو جانے کے بعد جہاں تک انسان کی عقلی و روحانی طبائیت کا تعلق ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ رہی اس کی مادی و جسمانی آسائش تو وہ اپنی دو کوشش اور اپنے تجربی علم کے ذریعے سے قدرت کے قوانین کے دریافت کرتے اور ان کو اپنے معاشی و تمدنی صالح کی ترقی میں استعمال کرنے کا سلیقہ جس قدر بڑھتا جائے گا، اسی قدر اپنی معاشی خوشحالیوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔

**خدا کی معرفت کا صحیح مفہوم** | اس تفصیل سے ایک حد تک یہ بات تواضع ہرگئی کہ حقیقت خدا کی معرفت کا صحیح مفہوم کیا ہے، لیکن یہاں ہمیں فضول ایجادی سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی معرفت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس مسئلہ کی وضاحت خاص طور پر اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اربابِ تصور کے یہاں جنیب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے معاً ادمی کا ذہن خدا کی ذات اور اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے لیکن ہم اس لفظ سے ہرگز اس قسم کی کوئی چیز مراد نہیں لے رہے ہیں، ہمارے ذریک اس سے خدا کے متعلق صرف ان باتوں کا جانتا مراد ہے جن کو انسان جان سکتا ہے اور جن کو جان بیٹھ کے بعد اس کی عقل مطہن ہو جاتی ہے کہ معرفتِ الٰہی سے متعلق جس حد تک اس کے حیطہ ادراک میں ہے وہ یہی ہے اس سے آگے نہ اس کی رسائی ہے اور نہ اس سے آگے کا علم اُس کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً :

الف: تفصیلی دلائل کے ساتھ اس بات کا علم کہ خدا ہے۔

ب: پوری وضاحت کے ساتھ خدا کی صفات کا علم۔

ج: اس بات کا علم کہ فلاں فلاں باتوں اور کاموں کو وہ پسند کرتا ہے اور فلاں فلاں باتوں اور کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔

د : اس بات کا علم کرو وہ افراد اور جماعتیں کے ساتھ فلاں فلاں قوانین کے تحت معامل کرتا ہے ۔

ک : اس بات کا علم کرنے کے بعد بھی اسی نے سبقہ پڑنے والا ہے ، اور وہ اپنے نیک اور بد بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے والا ہے ۔

خدا کے متعلق اگر مذکورہ بالا باتیں ایسے دلائل کے ساتھ معلوم ہو جائیں جو دل کے اندر طہیناں پیدا کر دیں تو پھر اس کی معرفت کے لیے کسی اور بات کے جانتے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی اور اگر یہ باتیں ایک شخص کو معلوم نہ ہوں تو اگرچہ وہ اپنے خیال میں ہر آن تجلیات و اذوار کا مشاہدہ کر رہا ہو، لیکن درحقیقت وہ خدا سے بالکل بے خبر ہے ۔

اس میں شہرہ نہیں کہ اس معرفت کے مارچ ہوا کرتے ہیں، اس میں بھی شہرہ نہیں کہ کیفیت و کیفیت کے اعتبار سے مختلف عارفین کی معرفت میں فرق ہوا کرتا ہے ۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ معرفت کسی شخص کے لیے محسن قال ہوا کرتی ہے اور کسی کے لیے حال بھی بن جایا کرتی ہے ۔ لیکن معرفت کی درستس میں بہر حال وہی چیزیں آتی ہیں جو اپر مذکورہ ہوئیں ۔

ان سے اگر رہکر اگر انسان خدا کی ذات کا مشاہدہ یا اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہے یا ذات بحث کی تجلیات اور اس کے اذوار دیکھنا چاہے تو یہ چیز اس کے امکان سے باہر ہے ۔

انسان کو جو عقل می ہوئی ہے اس کی رسائی صرف خدا کی صفات ہی تک ہے خدا کی ذات کا وہ کوئی تصور کر ہی نہیں سکتی، اسی طرح انسان کو جو حواس عطا ہوئے ہیں وہ صرف خدا کی نشانیوں اور اس کی آیتوں ہی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، خدا کی تجلیات اور اس کے اذوار کا مشاہدہ ان کی قوت برداشت اور ان کے تحمل سے باہر ہے ۔ قرآن مجید میں یہود کے متعلق بیان ہوا ہے کہ انہوں نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطابرہ کیا تھا کہ جب تک وہ ان کو ذاتِ الہی کا حلم کھلام مشاہدہ نہیں کرائیں گے، اس وقت تک وہ ان کی یہ بات ہرگز ہاورد نہیں کریں گے کہ خدا ان سے کلام کرتا ہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطابرہ کو پسند کرنے اور اس کو قبول کرنے کی بجائے اس کو ان کی سرکشی اور حماقت کا نتیجہ تاریخ دیا اور بجائے اس کے کہ ان کی یہ خواہش معرفتِ الہی کی جستجو کا درجہ پاٹی اور اس کے جواب میں ان کے لیے تجلیات و اذوار کے دروازے

کھلتے ان کی بین خواہش گستاخی قرار پائی اور اس کی نزاکت وہ جلالِ خداوندی کی ڈائٹ سے بے ہوش کر دیے گئے

اوْرَيَاكُو وَجْبَ كَمْ نَهَى مُوسَىٰ إِلَيْهِ هُمْ  
تَهَارِي بَاتٌ نَهِيْسَ مَانِتَهَى كَمْ جَبَ تَكَمَّلَ  
كُوْكُلْمَ كُعْلَانَهْ دِيْكَحْلِيْسَ - توْتَمَ كُوكَكَ نَهَى آدِبَرِچَا  
اوْرَتَمَ دِيْكَحْتَهَ كَمْ دِيْكَحْتَهَ رَهَ لَجَيْهَ  
تَهَارِي بَهَيْهَشِيَ كَمْ بَعْدَ اَنْهَايَا تَاكَرَتَمَ شَرْگَزَارِبَنَهَ

وَرَأَذْ قُلْلَمَ يِمُوسَىٰ كَمْ تُؤْمِنَ لَكَ  
سَهْلَتِيْ نَرَى اللَّهَ جَهَرَةً فَأَخَذَتَكَمَ  
الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظَرُونَ ۝  
شَرْبَعَشَنَكَرِيْمَ بَعْدِ هَوْتَكَمَ  
لَعَلَّكَمْ كَشَكَرُونَ ۝

(بقرہ - ۵۴-۵۵)

اس آیت سے صاف واضح ہے کہ انسان کے لیے خدا کی ذات کا مشاہدہ بالکل محال ہے وہ خدا کو صرف اس کی نشانیوں اور اس کے کشتوں کی اوٹہ ہی سے دیکھ سکتا ہے۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن مجید میں ذکور ہے کہ انہیں نہیں کی ذات کا مشاہدہ کرنے کی تمنا کی تراشہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تم میری ذات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ میری تجلیٰ ذات کی تاب تو پہاڑ بھی نہیں لاسکت تو تم کس طرح لاسکو گے؟ تم صرف میری نشانیوں کا اور میری صفات کے مظاہر کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیٰ پہاڑ پر ظاہر کی جس کا اثر یہ ہوا کہ پہاڑ تکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

اوْرَبَبَ مُوسَىٰ هَمَسَ مُقْرَبَ كَيْهَ بَرَثَهَ دَقَتْ پَعَافِرَ  
هَرَا اورَسَى كَمْ خَادِنَهَ نَهَى اسَسَهَ كَلَامَ كَيْا توَسَى نَهَى  
درِخَوَاستَ كَمْ كَمْ اَيْرَسَهَ خَادِنَهَ اَبَجَهَ مَوْقَعَ دَهَ  
كَرْبَنَ تَجَهَهَ دِيْكَحَلَوَنَ، اسَنَهَ جَوَابَ دِيَاتَمَ بَجَهَهَ هَرَگَزَ  
نَهَدِيْجَهَ سَكَوَگَهَ، هَلَ پَهَارَ كَمْ طَرَفَ دِيْجَوَأَرَدَهَ اَپَنَى  
بَجَگَرَ پَنَکَارَهَ جَاهَى تَرَتَمَ بَجَهَهَ دِيْجَوَ سَكَوَگَهَ تَوْصَهَ  
اسَكَهَ خَادِنَهَ نَهَى پَهَارَ پَهَارَ اَپَنَى تَجَلَّ ظَاهِرَ کَيْ ئَرَسَ كَمَ

وَلَكَتَأْجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا  
وَكَلَمَهَ سَرَشَهَ قَائَمَ سَرَبَتَ  
لَكَرَفَ اَنْظَرَ اَلْيَكَ - قَائَمَ لَنَ  
تَرَكَنِيْ دَلِيْكِنِ اَنْظَرَلَى الْجَبَلِ  
قَرَانِ اَسْتَقَرَ مَكَانَهَ فَسَوْفَ  
تَرَكَنِيْ فَلَكَتَأْجَلَى رَبَّهَ لِلْجَبَلِ  
جَعَلَهَ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ

صَعِقَاتٌ فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحَنَ رَبِّهِ  
تُبَدِّلُ إِلَيْكَ وَإِنَّا أَوَّلَ الْمُوْمِنِينَ

پاش پاش کر دیا اور مرسی عبے ہوش ہو کر گر پرے، پھر جب  
ہوش میں آئے تو پرے کہ تو پاک ہے بے میں نے تیرے حضور  
(اعران۔ ۱۳۶)

یہی بات احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:  
حَجَابِهِ التَّوْرُسُ لَوْ حَكَشَفَهُ  
اس کا نزدِ حجاب ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس  
(حرقت سبھات و صحیح ما)  
کے پھرہ کے اذار سے وہ ساری مخلوق جمل کے رہ جائے  
انتہی الیہ يصرا من خلقه جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔

(مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ ذاتِ الہی اور اس کی تجلیات کے مشاہدہ کی تاب حضرات انبیاء کے کام  
بھی نہ لاسکے، چہ جائید عام روگ۔ اس وجہ سے جو لوگ خدا کی ذات اور اس کی تجلیات کے مشاہدہ  
کے درپر ہوتے ہیں اور اس غرض کے لیے مجاہدے اور مرافقے کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ  
ایک سعی لا حاصل میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کے بارہ میں یہ کہنا بھی کچھ بے جانہ  
ہو گا کہ یہ لوگ درحقیقت اسی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں جس گستاخی کے مرتکب بنی اسرائیل  
ہوئے۔

بعینہ یہی حقیقت مختلف طریقوں سے حدیثوں میں بھی سمجھائی گئی ہے کہ اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ  
کے باسے میں غدر کرنے کی چھوٹ آدمی اسی وقت تک دے جس تک وہ اس کی صفات و  
آیات اور اس کی شاخوں اور اس کے کرشوں پر غدر کرے۔ جبکہ وہ حد سے آگے بڑھ کر خدا کی ذات  
سے متعلق سوالات اٹھانے شروع کر دے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ وہیں رُک جائے، اور شیطان کے  
فتلوں سے خدا کی پناہ مانگے، کیوں کہ یہ سوالات اس کے ذہن میں شیطان کی وسوسہ امدازی ہی  
کے سب سے پیدا ہو رہے ہے ہیں اور اس کا تیجہ حیزاںی و درماندگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان  
اس چکر میں اس کو صرف اس لیے ڈال رہا ہے کہ اس طرح اس کو کفر اور الحاد میں مبتلا کر دے۔ اسی  
حقیقت کو مندرجہ ذیل حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَّهَا اِرْشَادَ فِرْمَادِيَا

يَا قَاتِلُ الشَّيْطَانِ أَحَدٌ كَعْدٌ  
فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مِنْ خَلْقٍ  
شَرَوْعَ كَرَّتَاهُ بَهْ كَهْ فَلَالْ حَيْزِ كَسْ نَهْ پَيْدَاهْ، فَلَالْ حَيْزِ كَسْ  
نَهْ بَنَاهْ، يَهَا تَكَهْ كَهْ يَهْ سَوَالْ كَرَنَهْ لَهْتَاهْ بَهْ تَهْتَاهْ  
رَبْ كَوْسْ نَهْ پَيْدَاهْ يَجْبَبْ بَارْتَاهْ يَهَا تَكَهْ پَهْنَجْ جَاهْ  
توَسْ كَوْ چَاهْ بَهْ كَهْ شَيْطَانَ كَهْ قَسْنَوْ سَهْ اَمَدْ كَهْ پَنَاهْ  
بَاهْ اللَّهُ فَلِيَنْتَهَ -  
(متقن علیہ مشکرا)

## معرفت الہی حاصل کرنے کا طریقہ

ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس معرفت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟  
اس سوال کا جواب اس مسئلہ پر غور کرنے والے مختلف گروہوں نے مختلف دیا ہے۔  
لیکن ہمارے یہی یہاں زیادہ تفصیل میں جانے کی کنجماش نہیں ہے، اس وجہ سے ہم صرف تین گروہوں  
سے بحث کریں گے، ایک فلاسفہ، دوسرے مشکلین، تیسرا صوفیہ۔ ان گروہوں کے اندر بھی اس  
سوال کے جواب میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کے سبب سے ان میں سے  
ہر گروہ مختلف فرقوں میں بٹ گیا ہے۔ ہم ان اختلافات سے قطع نظر کر کے اس بارہ میں عام  
فلسفہ، عام مشکلین اور عام صوفیہ، کی جو رائے ہے وہ اختصار کے ساتھ  
پیش کرتے ہیں

فلسفہ خواہ قدیر ہدیہ، ان میں سے جو کسی نوعیت سے بھی خدا کے  
فلسفہ کی رائے تاول ہیں (اور انہی سے یہاں بحث ہے) وہ خدا کی معرفت کے لیے  
انسان کی فطرت اور اس کی عقل کر بالکل کافی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک پیدا کرنے والے نے  
انسان کو عقل اور فطرت کی راہ نامی دے کر اس کو کسی مزید غیری راہنمائی کی ضرورت اور اس کی  
مدخلت سے بالکل مستغثی کر دیا ہے۔ عقل کا چراغ ہر تاریخی میں اجالا کرنے کے لیے ان کے  
نزدیک کافی ہے۔ اس اندر وہ نادی کی راہنمائی حاصل ہر جانے کے بعد کسی معاملہ میں بھی انسان  
ان کے خیال میں اس بات کا حصہ ہی نہیں رہا کہ وہ ہر ایست حاصل کرنے کے لیے اپنے سے کسی

خالی رہنمائی طرف متوجہ ہو، ان کے زدیک عقل انسان کے سارے طبیعی اور مابعد اطیعی سوالات حل کر سکتی ہے اور اگر وہ نہیں حل کر سکتی تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہماری عقل ان سوالات کو حل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ ابھی وہ ترقی کے اس درجہ پر نہیں پہنچی ہے کہ ان سوالات کو حل کر سکے عقل کی راہنمائی پر یہ اعتماد صرف اپنی فلسفیوں نے نہیں ظاہر کیا ہے جو سوالات اور ثبوت کے سلسلہ کے منکر ہیں، بلکہ سلسلہ ثبوت و سوالات کے قابل فلسفیوں نے بھی عقل پر یہی اعتماد ظاہر کیا ہے۔ وہ بھی فلسفہ کے زیر اثر عقل کے ساتھ اس قدر حسین ظن رکھتے ہیں کہ اس کو انسان کی راہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور اگر مذہب کے زیر اثر دبی زبان سے کسی حد تک نہیں اور رسول کی راہنمائی کی ضرورت تسلیم کرتے بھی ہیں تو محض عالم کا لامعا کے لیے، فلاسفہ اور حکماء کو اپنی راہنمائی کی ضرورت سے مستغفی کر دیتے ہیں۔

مشکلین کی رائے اس کے بالکل عکس نظر پر ہمارے مشکلین کی اکثریت (با شخص اشاعہ) کا  
کچھ اس سیدھا حل معلوم کر سکتی ہے جن کا تعلق اس عالم محسوس سے ہے۔ اس عالم محسوس سے ماوراء خائق تک پہنچنے کے لیے ان کے زدیک عقل کے پاس کریں ذریعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے ان معاملات میں انسان ایک عاقل مخلوق ہونے کے باوجود ان لوگوں کے زدیک بالکل ایک مادہزادا نہ ہے سے مشاہدہ ہے جو چند قدم چلنے کے لیے بھی کسی عصاکش کا محتاج ہوا کرتا ہے اور اگر عصاکش نہ ہو تو ہر قدم پر یہ اندریشور ہتا ہے کہ کہیں ٹھوکر کھا کر گزر پڑے، پناپرہ عالم فلاسفہ انسان کو کسی مافق عقل راہنمائی سے جس شدت کے ساتھ بالکل مستغفی ثابت کرتے ہیں، ان کے زدیک ان سارے سوالات کو، جو انسان کی زندگی سے حقیقی تعلق رکھنے والے ہیں، صرف خدا کے بھیجی ہوئے انبیاء ہی حل کر سکتے ہیں، عقل سے یہ لوگ اس قدر بدگان ہیں کہ عقل نہ صرف یہ کہ ان سوالات کا کوئی حل دریافت نہیں کر سکتی بلکہ ان سوالات کے جو حل انبیاء بتاتے ہیں، ان لوگوں کے زدیک عقل ان کی قدر تجیہت بھی نہیں بتا سکتی۔ واضح تر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے زدیک انبیاء کی بتائی ہمیں یا تو میں عقل کو سرے سے کریں دخل ہے ہی نہیں، بہاں تک کہ خود نبی کے

پہنچنے کے لیے مجھی ان لوگوں کے نزدیک کوئی عقلی سوال موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ نبی کو صرف اس کے مجرمات کے ذریعہ سے پہنچاتے ہیں، اُس کی تعلیم، اس کی حکمت، اس کے کارناموں اور اس کے اخلاق کو اس کے پہنچانے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ یہ لوگ مسلم اخلاق اصولوں کے بارہ میں بھی عقل اور انسان کی فطرت کو کوئی فیصلہ کرنے میں معاشر تسلیم نہیں کرتے، ان کے نظر یہ کے سعادت سے جھوٹ کی بُراں اور سچ کی اچھائی بھی کوئی عقل اور وجدانی شے نہیں ہے۔ انبیاء نے سچ کو اچھا کہا، اس وجہ سے وہ اچھا ہے، اور جھوٹ کو بُرا کہا اس وجہ سے وہ بُرا ہے۔ اگر وہ اس کے بالکل برعکس فیصلہ دے جاتے تو عقلی حیثیت سے جھوٹ کے اچھے ہونے اور سچ کے بُرے ہونے نہیں بھی کوئی تباہت ان کے خیال میں نہیں تھی۔

**صوفیہ کی رائے**

صوفیہ کے نزدیک خدا کی صرفت حاصل کرنے کا اصلی ذریعہ وجدان، کشف اور مشاہدہ ہے۔ ان لوگوں نے معرفت کا معیار جیسا کہ آگے پل کر معلوم ہو گا، اس قدر اونچا رکھا ہے کہ وہاں تک عقل اور استدلالی علم کے پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جس علم کی بنیاد استدلال پر ہو وہ ان حضرات کے نزدیک ایک پائے چوبیں ہے اور اس پائے چوبیں کے ذریعے سے معرفت کی نزل نہیں ہے کی جاسکتی۔

پائے استدلالیاں چوبیں بود  
پائے چوبیں سخت بے تکیں بود

مولانا رومان نے اپنی شنزی میں عقل کی نارسائیوں پر جو کچھ لکھا ہے اور جس زندگی سے لکھا ہے یہ ان کے اکیلے کی آدازشیں ہے بلکہ انہوں نے درحقیقت صوفیہ کے ہر طبقہ کی سیعیانی کر دی ہے۔

حضرات صوفیا نے کرام کی یہ رائے صرف فلاسفہ اور حکماء ہی کے علم کے بارہ میں نہیں ہے کہ وہ معرفت کے مقصد کے نقطہ نظر سے ناکارہ ہے اور اس کی حیثیت ایک پائے چوبیں کی ہے بلکہ وہ علم شریعت بھی جس کی بنیاد وحی پر ہے، ان حضرات کے نزدیک حقیقی معرفت کے مقصد کے نقطہ نظر سے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا اگر پھر یہ بات صحیح ہے کہ اکابر صوفیہ کو علم کھلا

شریعت کی تحریر نہیں کرتے بلکہ بہر حال اس کی حیثیت ان کی نظر میں مخفف "علم ظاہر" کی ہے اور یہ علم ظاہر، ان کے نزدیک اس علم باطن" کے برابر نہیں ہے جس کو وہ علم حقیقی سمجھتے ہیں اور جس کے متعلق انکا دعویٰ ہے کہ وہ شریعت سے بالکل الگ ہے پھر انہی وجہ ہے کہ بعض صوفیوں نے تنگ میں آگر علم شریعت کے بارہ میں ایسے الفاظ استعمال کر دیے ہیں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے "علم باطن" کے مقابلہ میں اس کو کوئی خاص وقت نہیں دیتے۔

مثلاً، ایک شیخ تھوفت کا ارشاد ہے کہ،

"کم اپنا علم ایک ایسی ذات سے حاصل کر رہے ہیں جو زندہ ہے اور کسی جی مرنے والی نہیں اور تم اپنا علم ایسے زندہ سے حاصل کر رہے ہو جسے ایک دن بہر حال مر جاتا ہے" ایک دوسرے بزرگ سے کہا گیا کہ:

"آپ عبد الرزاق سے حدیث حاصل کرنے کے لیے کیوں سفر نہیں کرتے؟ جواب میں ارشاد فرمایا: میر خود غلاق سے حاصل کر رہا ہو وہ عبد الرزاق سے کیا حاصل کرے گا" ایک اور شیخ کا ارشاد ہے کہ:

العلم حجَّابٌ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ علم اللہ اور دل کے درمیان ایک حجّاب بن جاتا ہے ایک اور بزرگ کا ارشاد ہے:

اذا رأيت الصوفى يشتعل بمحنة  
حسب تم کسی صرفی کو دیکھو کہ وہ حدثاً اور اخبرنا کے چکر  
فاغسل يداك منه میں پڑ گیا ہے تو اس سے (اتھر و صور)۔

۱۵ یہ اقوال ہم نے مارچ اس لیکن ج ۲۳۹ سے یہیں۔ ان سے انمازہ ہوتا ہے کہ جس علم کو قرآن بیہدہ العلم کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے اور جس کے ہوتے ہوئے کسی اور علم کے اتباع کو وہ اتباع ہوا اور اتباعِ ضلالت قرار دیتا ہے، اس علم کی قدرو قیمت ہمارے صوفیوں کے ایک گروہ کے نزدیک کیا ہے۔ قرآن تو کہتے ہے کہ:

وَلَمْ يَرْجِعْ أَثْبَعُتَ أَهْوَاءَ هُنْهُ بَعْدَ اگر تم نے اس "العلم" کے بعد جو تمہارے پاس اٹھ کی  
الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ طرف سے آیا ہے، ان کی خواہشوں کی پیری کی تراشدر کے  
اللَّذُو مِنْ قَرِئٍ وَلَا نَصِيبُهِ مقابل میں تمہارا کوئی کارساز اور (باتی صفحہ، ۵ پر)

**صوفیوں کے نزدیک علم اور معرفت کی حقیقت**

صوفیوں کے نزدیک علم اور معرفت کی حقیقت کے جو مارج میں اور جس علم کو وہ علم اور جس معرفت کو وہ معرفت کہتے ہیں، ہم یہاں مختصر اس کی وضاحت کریں گے تاکہ یہ علم ہو سکے کہ دوسروں کے معیار علم و معرفت اور ان کے معیار علم و معرفت میں کیا فرق ہے اور اس

(باقیہ صفحہ ۵۶) (بقرہ ۱۲۰) مدحگار نہ ہوگا۔

دوسری جگہ ہے:

وَلَكُمْ أَتَّبَعْتَ آهُوَاءَ هُنَّ مُنْ  
أُوْرَأْتُمْ أَنَّ كَخَاْشُونَ كَيْرِيْدِيْ  
بَعْدِ مَا جَاءُوكُمْ مِنَ الْعِلْمِ لَأَنَّكُمْ  
كَرْتُمْ أَنَّكُمْ أَمْكَانُهُمْ  
إِذَا لَمْنَ الظَّالِمِينَ ۚ

او راگر تم ان کی خواہشوں کی پیری کر دے گے، بعد اس کے بعد ما جائے پاس اعلم آپکا ہے تو تم اس وقت ظالموں میں سے شمار ہو گے۔

(بقرہ - دکوع - ۲۰)

یہیں ہمارے صوفیوں کا ایک بلقہ اس علم کو جا بس سمجھتا ہے اور اگر وہ کسی کو اس علم کی طلب میں مشغول پاتے ہیں تو بجا نے اس کے کران کی نگاہوں میں اس کی کچھ قدر ہو دہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ضائع ہو گیا۔ یہاں تک کہ صوفیوں کے نزدیک علم کی اصطلاح ہی مرے سے ایک خیر اصطلاح بن گئی ہے، وہ جس علم کو علم حقیقی سمجھتے ہیں، اس کو علم کی اصطلاح سے تغیریک نہ پسند نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے انہوں نے اپنی ایک خاص اصطلاح ”معرفت“ کی وضع کی ہے اور جب وہ اپنے علم کو تغیریک نہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔

علام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے مارج السالیکین میں ایک جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صوفیوں نے اپنے علم کے لیے علم کی جگہ معرفت کی اصطلاح اختیار کی ہے، یہیں انہوں نے اس کا بسب نہیں بیان کی کہ آخر صوفیوں کو قرآن و حدیث کی اصطلاح کو چھوٹ کر ایک نئی اصطلاح وضع کرنے کی ضرورت یکوں محسوس ہوئی تو میرے نزدیک ان لوگوں کو اس نئی اصطلاح کے وضع کرنے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ علم یا العلم کی اصطلاح علم وحی اور علم شریعت کے لیے معروف ہو چکی تھی اور اس علم کو یہ حضرات اپنے علم کے مقابل میں بعض ایک علم ظاہر کی پیشیست تھے، اس وجہ سے انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس علم کے لیے وہ کوئی اور اصطلاح وضع کریں جس کو وہ علم شریعت کے افضل درت سمجھتے ہیں اور جو ان کے نزدیک علم حقیقی کی پیشیست رکھتا ہے۔

علم و معرفت کے حاصل کرنے کے ان کے ہاں ذرائع کیا ہیں۔ اس وضاحت کے لیے ہم پانچویں صدی ہجری کے مشہور امام تھوفت شیخ الاسلام ابوالسعید ہبوبی خبل متوفی ۱۴۷۶ھ جو کی یادگار تصنیف مذازل السائین سے پہلے علم کی حقیقت اور اس کے مختلف مدارج کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم معرفت کی حقیقت اور اس کے مراتب پر ان کی رائے نقل کریں گے۔

**علم کی حقیقت**

۱۔ وہ بدیہی علم جو ادمی کے حس و مشاہدہ میں آتا ہے یا جس کی بنیاد قابل اعتماد نقل دروایت پر ہے، یا جو سابق تجربات کی صحت پر مبنی ہے۔

۲۔ وہ علم ختنی جو پاکیزہ جسموں کی پاکیزہ رُوحوں کے اندر نشوونما پاتا ہے، جو پرے ریا ریاضت کے پانی سے سیرابی حاصل کرتا ہے اور عینہ ہمت اشخاص انفس اسر صادقر کے اندر خلوت کے اوقات اور دنیا کے ہنگاموں سے ناؤثنا کا ذریعہ میں ظاہر ہوتا ہے۔

۳۔ وہ علم لدقیقی جس کا وجود ہی اس کی سند ہے، جس کا ادراک ہی اس کا مشاہدہ ہے جس کا حکم ہی اس کی تعریف ہے۔

ان میں سے پہلے درجہ کے علم کی صوفیوں کی نظر میں کوئی فاصح اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے بھی اس کا ذکر بالکل ایک ابتدائی درجہ کی چیز کی عیشیت سے کیا ہے اور ایک لفظ بھی اس کے متعلق ایسا نہیں لکھا ہے جس سے ذرا بھی اس کی اہمیت محسوس ہوتی ہو۔ حالانکہ علم شریعت بھی ان حضرات کے نزدیک اسی درجہ میں داخل ہے، اس لیے کہ وہی علم ہے ”جس کی بنیاد قابل اعتماد نقل دروایت پر ہے“۔

دوسرا درجہ کے علم کے بارہ میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ:

هو علم يظهر الغائب ويغيب یہ علم غیب کو ظاہر اور حاضر کو غائب کر دیتا ہے

۱۵ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج اسلامیکین طبعوں میں شروع میں مذازل السائین کا ذریعہ ہے میں یہاں اس کے مطالب اردو میں پیش کر دیا اور حقیقی الامکان ممکن تھیک پیش کرنے کی کوشش کر دیا گا۔

جو اصحاب اصل عبارت میں دیکھنا چاہیں وہ مذکورہ کتاب کی طرف مراجحت کریں۔

الشهادة وبيشيرا إلى الجمعة اور مقام جمیع کی طرف رہبری کرتا ہے۔)

اس عبارت کی شرح اپنی طرف سے کرنے کی بجائے میں شیخ الاسلام کی کتاب کے سب سے پہلے شارح علامہ ابن قیم کے وہ الفاظ یہاں نقل کیے دیتا ہوں، جو انہوں نے اپنی کتاب مدارج الالکین میں اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں :

”دھویظہر الغائب“ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز عارف سے اوحمبل ہوتی ہے، یہ علم اس چیز کا کشف کر دیتا ہے۔ ”دیغیب الشہادۃ“ سے یہ مراد ہے کہ یہ علم عارف کو اس کے مشهور حقیقی کے سوا ہر چیز کے مشاہدہ سے بے خبر کر دیتا ہے۔ ”دیشیر الى الجمعة“ میں وحدانیت و فردانیت کے مقام کی طرف اشارہ ہے جہاں تمام رسم و تیار و مرث جاتے ہیں، یہاں تک کہ خود شاہ بھی اپنے آپ کو اس فردانیت میں گم کر دیتا ہے۔

علمہ کا قیسہ درجہ جس کو شیخ الاسلام نے علم لدنی سے تعییر فرمایا ہے، اور حقیقت بھی علم اربابِ تصورت کے یہاں علم و معرفت کی حقیقی معراج ہے۔ چنان پھر شیخ الاسلام نے اس کی شان میں یہاں تک فرمایا ہے کہ ”لیس بینۃ و بین الغیب بمحاب“ علم لدنی اور غیب کے درمیانی سرے سے کوئی پرده حائل ہی نہیں رہ جاتا، اس کی تعریف میں بھی شیخ الاسلام نے جو فقرے ارشاد فرمائے ہیں، ان کی وضاحت بھی میں اپنی طرف سے کرنے کی بجائے بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کی تفسیر میں جو کچھ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے اس کو یہاں درج کر دوں، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں :

”استادۃ وجودکا“، اس کا وجود ہی اس کی سند ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کے علاوہ جو علم ہے اس کے حصول کا راستہ استاد ہے، اسی طرح اس علم کے حصول کا راستہ وجود ان ہے۔ دادرأکہ عینکانہ، (اس کا اور اکہ ہی اس کا مشاہدہ ہے) کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم نکرو انتہا طے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ کشف اور مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ دفعتہ حکمہ۔ (جس کا حکم ہی اس

کی تعریفیت ہے) کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اپنی دلیل ہے، اس کی دلیل کمیں اور سے نہیں لائی پڑتی۔ وہ خود دلیل، اور خود مدلول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے درمیان اور غیب کے درمیان کوئی جواب نہیں رہ جاتا، بخلاف علم کی دوسری اقسام کے کہ ان کے درمیان اور غیب کے درمیان پر وہ حاصل رہتا ہے صوفیوں کے نزدیک اس سے مراد ایک نور ہے جو مشهور و مختیٰ کی طرف سے عارف سے عارف کی طرف آتا ہے اور وہ اس کے حواس کی تمام قوتیں اور ان کے افعال کو مشاکر عارف کے اندر خودان کی جگہ لے لیتا ہے۔ پھر وہ مشهور و مختیٰ کو اسی نور کے فدعیے سے دیکھنے لگتا ہے اور اس نور کے ظہور کے بعد مشهور و مختیٰ کے سوا عارف کی نظر میں سب کچھ فنا ہو جاتا ہے ॥

شیخ الاسلام کی اس پوری بحث پر ایک نظر دوبارہ ڈال کر وہ نتائج سامنے رکھ لیجیے جو اس سے نکلتے ہیں :

سب سے پہلے چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ معرفت کے نقطہ نظر سے صوفیا نے کرام کے نزدیک علم شریعت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، علم شریعت جس کی بنیاد نقل و روایت پر ہے ان کے نزدیک بالکل ابتدائی درجہ کی چیز ہے، معرفت کے نقطہ نظر سے جس علم کی اہمیت ہے وہ علم ختنی ہے یا علم لدنی۔

علم ختنی اور علم لدنی کو جس طرح نقل و روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح عقل و استدلال اور فکر و استنباط سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تمام ستر، وجدان، کشف اور مشاہدہ پر مبنی ہوتے ہیں۔

ان کے حصول کا راستہ، تعلق، تفکر اور استنباط و اجتہاد نہیں ہے بلکہ مراقبہ، توجہ، ریاضت اور خلوت گزینی ہے۔

یہ علم عارف کے حواس کو مغفل کر کے خود اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور عارف کو تمام دنیا و ما فہما سے بے خبر کر کے مشهور و مختیٰ کے اندر گم کر دیتا ہے۔ یہ علم غیب کے تمام پر دے

انشا و نیتا ہے اور عارف تمام حقائق کا گویا برائی العین مشاہدہ کرتے لگتا ہے۔

اس بحث پر تقدیر کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ معرفت کی حقیقت اور اس کے مارج پر شیخ الاسلام نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی مختصرًا ناظرین کے سامنے رکھ دیں تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ معرفت کا معیار صوفیا نے کام کے زدیک کیا ہے؟

**معرفت کی حقیقت** اب سے پہلے شیخ الاسلام نے معرفت کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ **المرفَّةُ الْعَاطِةُ بِعِينِ الشَّيْءِ كَمَا هُوَ** (معرفت کسی شے کی حقیقت کا اس طرح احاطہ کر لینا ہے جیسی کہ فی الحقیقت وہ ہے۔)

اس کے بعد علم کی طرح معرفت کے بھی شیخ الاسلام نے تمیں درجے قرار دیے ہیں اور لوگوں کو تمیں طبقات، عوام، خواص اور اخص الخواص۔ میں تقسیم کر کے ہر طبقہ کی معرفت اس کے درجہ کے اعتبار سے الگ الگ بتائی ہے۔

معرفت کا ابتداء درجہ یہ ہے کہ خدا کی جن صفات اور کشموں کا مظاہرہ اس کی مخلوقات دعوه دعا نے میں ہو رہا ہے اور جن کا بیان نہیں اور رسولوں کے ذریعے سے ہوا ہے۔ ان کی معرفت حاصل ہو۔ یہ صرفت، عوام کی معرفت ہے۔

معرفت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ خدا کی ذات کی معرفت حاصل ہو، اس طرح کہ ذات اور صفات کے درمیان کوئی تفریق نہ واقع ہو۔ یہ خواص کی معرفت ہے۔

معرفت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ خدا خود اپنی معرفت کا نور عارف پر ڈال دے سے اور عارف کی معرفت اس نور میں گم ہو جائے، اس معرفت تک نہ استدلال کی رسائی ہے نہ اس تک کسی دلیل کی راہنمائی ہے اور نہیں تک کسی وسیلہ کی پہنچ ہے۔ دل کا مشاہدہ، علم کے حدود و قدر کے آزادی اور صفتِ مجمع کا مطالعہ اس کی خصوصیات ہیں۔ یہ اخص الخواص کی معرفت ہے۔

اب اس بحث کا جو خلاصہ نکلتا ہے اس کو بھی پیش نظر کھلیجیے۔

معرفت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کی اصل حقیقت کا جیسی کہ وہ فی الواقع ہے، احاطہ

لئے معرفت کی یہ پوری بحث منازل الانواریں سے مانند ہے۔

کر لیا جائے۔

خدا کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت جس کا ذریعہ انہیاء ہیں، یہ ابتدائی درجہ کی صفت ہے، معرفت کا ادنیچا درجہ درحقیقت معرفت ذات کا درجہ ہے۔

حقیقی معرفت جو اخض الخواص کا حصہ ہے وہ عقل و استدلال اور دلیل و شہادت سے ایک بالکل مارواں شے ہے۔ یہ معرفت جن کو حاصل ہو جاتی ہے وہ حقائق کو دلیل سے معلوم کرنے کی بجائے ان کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ وہ علم کے حدود و قید سے پالا ترا اور خود مشہود حقیقی کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔

**فلسفہ اور متكلمین کے نظریات پر تبصرہ** | اب ہم ان مختلف رایوں پر مختصر ابصہر حق ہے اور کتنا حقہ مخفی بے حقیقت خیال آرائی پر مبنی ہے۔

فلسفہ اور متكلمین میں سے، ہر ایک نے جیسا کہ آپ نے دیکھا، ایک دوسرے کے عقل خود مسلک اختیار کیا ہے۔ ایک گروہ عقل کو اس قدر اچھا تھا ہے کہ انسان کو بالکل اُسکے پر پڑھا دیتا ہے اور دوسرا اس کو اس قدر گرا تھا ہے کہ وہ بالکل تحت الشری میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک عقل کی راہنمائی پر اس قدر اعتماد کرتا ہے کہ انسان کوئی ما فوق عقل راہنمائی سے بالکل ہی پے نیاز اور مستحقی ثابت کر دیتا ہے، دوسرا عقل کو اس قدر ناقابلِ اعتماد ٹھہرا تا ہے کہ انسان کو بالکل ہے بصیرت اور انہوں نہ کے چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ انصاف یہ ہے کہ عقل نہ تو اس غیر معمول احترام و اعتماد ہی کی مستحق ہے جس کا مستحق اس کو فلسفہ نے گردانا ہے اور نہ اس تو میں و تتحققہ ہی کی سزا اور اس غریب کو متكلمین نے ٹھہرا یا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے بڑا انعام جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو عقل عنایت کی ہے، لیکن یہ عقل ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے بیٹے بالکل کافی ہو اور اس کے بعد انسان کسی ما فوق عقل کی راہنمائی کا مقابج نہ ہے بلکہ تمام خوبیوں کے باوجود اپنے اندر متعادل ایسی خامیاں بھی رکھتی ہے کہ اس کی راہنمائی نہ تو کافی ہے، نہ ہے غلط۔ اول تریجی جن حواسوں سے کام لیتی ہے، ان کی رسائی ہی بہت محدود

ہے، اس وجہ سے بستے سوالات، خصوصاً ما بعد اطمینی سوالات کے حل میں اس کے یہ وسائل و سایط بالکل ہی ناکارہ ثابت ہو جاتے ہیں، دوسرے وہ اپنے حواسوں کی فراہم کردہ معلومات سے جو کہیات ترتیب ہتی ہے اور پھر ان سے جو نتائج نکالتی ہے ان میں بھی وہ غلطیوں سے محفوظ نہیں، علاوہ ازیں وہ اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی بھی کر سکتی ہے، وہ پست ہمت بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ مرعوب و خوف زدہ بھی ہو سکتی ہے اور اپنے فضائی میلانات و رجحانات کے حق میں جانب دار بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ تمام انسانوں کی عکلوں کو جمع کر کے ان سب کی راہنمائی پر بھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ انہی نقائص کی تاریخ، جن کی طرف ہم نے اور اشارہ کیا ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم اختلاف نوان کے نتائج فکر میں لازماً دنما ہو کے رہے گا۔

تاہم عقل سے وہ مایوسی اور بدگناہی بھی غلط ہے جس کا اظہار مشکلین نے کیا ہے۔ عقل کی رسائل محدود ضرور ہے لیکن یہ بھولینا کہ وہ ما بعد اطمینی سوالات کے حل کرنے اور اخلاقی اقدار کی جاتی پر کوئے معاملہ میں بالکل ہی کوئی ہے، ایک سخت قسم کا مفہوم بلکہ ایک کھلی ہر قیمت ہے۔ عقل اپنی کوتاہیوں اور نارسائیوں کے باوجود ہماری رہنمائی بہت دُور تک کر سکتی ہے، وہ اس کائنات کے سطالعہ اور اس کے اندر جو نظم و حکمت ہے، اس کے مشاہدہ سے نہ خوف ایک خالق کا بلکہ خالق کی بہت سی صفات کا بھی اندازہ کر سکتی ہے۔ وہ خالق کی صفات سے خالق کی اپنے، اور ناپسند کے متعلق بھی ایک تصور قائم کر سکتی ہے، وہ اس دنیا کے نظام اور اس کے سنن و قوانین کے سطالعہ سے ایک روز جزا اکا بھی خیال کر سکتی ہے، وہ انسانی فطرت کے اندر دو یعنی کہ دین اسلامی یقینیات سے خیر و شر کے اصول بھی تعین کر سکتی ہے۔ وہ یہ ساری باتیں کر سکتی ہے، البتہ اس طرح نہیں کر سکتی کہ اس کے کیے ہر ٹیکے بالکل کامل سمجھا جاسکے یا اس کی صحت و صداقت پر چورا بھرو سہ کیا جاسکے، لیس یہ خرابی اس کے کام میں ایک ایسی خرابی ہے جس کے سببے راہنمائی کے معاملہ میں تنہ اسی پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا بلکہ انسان کی حصیقی طہارت و مرث اور اس کی انفرادی و نوعی معادوت و کامرانی کا انحصار ہے۔

اس تفصیل میں معلوم ہوا کہ فلاسفہ نے عقل پر جو اعتماد کیا ہے، وہ بھی بالبده اہلت غلط ہے اور مشکلین نے اس کو جو بالکل خارج از بحث قرار دے دیا ہے وہ بھی صریحاً حقیقت کے بالکل خلاف

ہے، حتیٰ ان دو نوں کے درمیان ہے۔

## شیخ الاسلام کے نظریات پر تبصرہ

اب ائمہ شیخ الاسلام کے نظریات کے فلسفیات کا تجزیہ کر کے دیکھیے کہ اس میں کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ ہم شیخ الاسلام کے خیالات کے اس حصہ کو ذیر بحث نہیں لائیں گے جس میں کسی پورے اخلافِ رائے کی گنجائش ہو سکتی ہے بلکہ ان کی صرف انہی غلطیوں کا سامنے لائیں گے جو بالکل واضح ہیں اور جن کی کوئی توجیہ دلائل کی روشنی میں ممکن نہیں ہے۔ یہی شیخ الاسلام کے نظریات پر مندرجہ ذیل اصولی اعتراضات ہیں:

۱۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے شریعت کے علم کو کشف، مشاہدہ اور الہام کے ذریعہ سے حاصل ہونے والے علم کے مقابل میں حوصلہ معرفت کے نقطہ نظر سے قرودز تھہرا لایا ہے، حالانکہ یہ بات بالبداہست غلط ہے۔ علم شریعت کی بنیاد وحی پر ہے اور وحی میں کسی وہم، کسی وسوسة، کسی نفسانی خیال اور اُنی اور کسی شیطانی دراندازی کا کوئی امکان نہیں ہے کیوں کہ انبیاء بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کسی جس علم کی بنیاد وجد ان اور کشف و مشاہدہ یا الہام وغیرہ پر ہو اس میں ہر قسم کی شیطانی اور نفسانی مخالفت کا امکان ہوتا ہے کیوں کہ کسی بڑے سے بڑے عارف اور کسی بڑے سے بڑے صوفی کے متعلق بھی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ شیخ الاسلام نے علمِ لدنی کے بارہ میں نہ صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ فکر و استباط سے بالاتر ہے بلکہ اس کو بجا ٹئے خود دلیل کی حیثیت دے ڈال ہے جیسے کہ معنی یہ ہیں کہ اس کی صحت و صداقت کسی دوسری دلیل کی تصدیق و تائید کی محتاج نہیں رہی جس طرح ایک نبی کو وحی کے ذریعہ سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس کی تصدیق و تائید کے لیے وہ کسی

لئے بیان کسی کو رشبہ نہ ہو کہ یہ نظریات تنا شیخ الاسلام ابراہیمیل ہروی ہی کے ہیں، ہم نے شیخ الاسلام کو تمام اکابر تضوف کے ایک قابل اعتماد نمائندہ کی حیثیت سے منتخب کیا ہے، جو نظریات شیخ الاسلام کے ہیں، کم و بیش وہی نظریات دوسرے اکابر تضوف کے بھی ہیں اور اگر کسی کے نظریات بنیادی طور پر شیخ الاسلام کے نظریات کے الگ ہیں تو اس کو تضوف کے زرہ ہی سے الگ سمجھنا چاہیے۔

خارجی شہادت کا محتاج نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک عارف بھی اپنے وجدان یا اپنے کشف یا مشاہدہ یا المام کے ذریعہ سے جو علم لدنی پاتا ہے اس کو کسی اور کسوٹی پر اس کو جانپنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ جیسا کہ شیخ الاسلام نے فرمایا ہے "اس کا وجود ہی اس کی سند ہے۔"

ہمارے نزدیک شیخ الاسلام کی یہ بات دین میں ایک شدید قسم کا فتنہ ہے۔ علم خفی ہر یا علم لدنی اس کو بجا نئے خود دلیل تسلیم کر لینے کے معنی تو یہ ہونے کہ عارفین کو انہیاء کا درجہ دنے کے دریا چائے اور ان کے کشف و مشاہدہ اور ان کے المام کو بالکل ہم پا یہ وحی بنادیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ بات کسی شخص کے لیے اسلام پر قائم رہتے ہوئے تسلیم کرنا ناممکن ہے، کشف و المام کے ذریعہ سے علم کے حصول کے ہم منکر نہیں ہیں لیکن یہ علم قابل قبول صرف اسی حالت میں ہونا چاہیے جبکہ یہ شریعت کے مطابق ہو، اگر یہ شریعت کے خلاف ہو تو اُنما یہ شیطانی و سو سب ہے اور اس کو قبری کر لینا ویدہ دانتہ اپنی ہاگ شیطان کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔

اگر اس کشتمی یا المامی علم کو اس درجہ اہمیت دے دی جائے کہ یہ کتاب و سنت کی طرح بجا نئے خود دلیل ہیں جو اس سے جس طرح کے فتنے پیدا ہر سکتے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہم شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فیروض الحرمین سے ان کی ایک "تحقیق شریعت" نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو رہا ہے۔

ایک نہایت اعلیٰ تحقیق یہ ہے کہ بہت سے	تحقیق شریف:- الا ولیاء کثیرا
اویاء پر یہ المام کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے	ما بیلهہم بآن اللہ تعکل
ان کو تمام شرعی احکام کی تعلیم سے برکی کر دیا	اسقط عنہم التکلیف و آنہ
ہے اور ان کو طاعت و عبادت کے معاملہ	خیر هم فی الطاعات ات
میں اختیار ہے دیا ہے کہ وہ چاہیں تو کریں	شاءوا فعلوہا و آن لحریشادا
اور اگر نہ چاہیں تو نہ کریں، مجھ سے بیرے دالیہ	لحریفعلوہا۔ حکی می سیدی
ماہد نے خدا پسے بارہ میں یہ بیان فرمایا کہ خود	الوالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عن نفسه انه الهر بهذاد	ان کو بھی اس طرح کا المام ہوا تھا لیکن انہوں نے

انہ دعا اللہ تعالیٰ ان یقید  
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کردہ ان کے اور پر  
علیہ التکلیف و مَا اخْتَارَ  
شرعی ذمہ داریوں کو قائم رکھے اور انہوں نے  
الا التنس و لِمَ يَحْكُمْ مِنْ  
قانون و احکام کی پابندی ہی کر اختیار کیا، ان  
مذہبہ سقوط التکلیف  
کا سلک یہ نہیں تھا کہ کوئی عاقل و بالغ شرعی  
عن احد من خلق الله فادام  
ذمہ داریوں سے بربی قرار دیا جاسکتا ہے لیکن  
عاقلاً يَا لَعَمَ فِرَأَيْتَهُ يَرَى  
میں نے ان کو دیکھا کردہ اپنے الدام کو بھی حق  
الا لَهُ أَمْ حَقًا وَ يَرَى مذہبہ  
بھتے ہیں اور اپنے سلک کو بھی حق بھتے ہیں  
حقاً وَ يَتَحَبَّرُ فِي التَّطْبِيقِ  
اور ان دونوں کے درمیان تطبیق دینے میں ان  
وَ اخْبَرَتْ عَنْ سَيِّدِي الْعَمَّ  
کو کچھ حیرانی سی پیش آ رہی ہے۔  
قدس سرہ ان کا ان یخبر  
بھی یہ ہے علم بزرگوار کی نسبت بھی یہ علم ہے  
عن ذفسہ انہ الرم بسقوط  
کردہ بھی اپنی بابت یہ فرماتے تھے کہ ان کو بھی  
ذمہ داریوں سے بربیت کا الدام ہوا تھا، ان کو  
اللکلیف و قبیل لہ ان عبدت  
غیب سے کہا گیا تھا اگر تم کو جہنم سے پناہ دی  
طماعاً فِي الْجَنَّةِ فَإِنَّا وَعْدَنَا إِنَّكُ  
اور اگر تم جنت کی ارزو میں ہماری عبادت  
ان نَدْخُلُكُ أَيَّاهَا وَان  
کرتے تھے تو ہم تم سے وحدہ کرتے ہیں کہ جنم تم  
عبدت طلب المرضانا، فقد  
کراس میں مزدہ داخل کیتی گئے، اور اگر تم ہماری  
رضبیناً عَنْكَ رضَا لَا سُخْطَ  
خرشندی کی طلب میں ہماری عبادت کرتے  
بعدکا نقال سبی انہما عبدک  
تھے تو ہم تم سے اپنے راضی ہوئے کہ اب اس  
لَا لَشَى عَ دُونَكَ - دکان قدس  
کے بعد کبھی ناخوش نہ ہوں گے، تو انہوں نے کہ  
سرہ کا یمیل الی ان الکمل  
کے بعد کبھی ناخوش نہ ہوں گے، تو انہوں نے کہ  
یسقط عنہم التکلیف واللہ  
کے بعد کبھی ناخوش نہ ہوں گے، تو انہوں نے کہ  
سبحانہ هو الذی یقید  
کے بعد کبھی ناخوش نہ ہوں گے، تو انہوں نے کہ  
علیہم التوامیں مِنْ غَيْرِ  
کرتا ہوں کسی اور فرض کے پیسے نہیں کرتا ہوں۔  
الاختیار ہم ہکذا سادی  
کامیں سے شرعی ذمہ داریاں ساقط کر دی جاتی

عن سکتیر من او لیاء ام الله      ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے اوپر ان کے  
تعالیٰ۔  
اختیار کے بغیر شرعی قوانین کو جاری رکھتا ہے  
اور اسی قسم کی روایت دوسرے بہت سے  
اویاء اور کامیں سے ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک اس قسم کے الہامات  
کو رحمائی سمجھنے کا تعلق ہے شاہ صاحب کے والد بزرگوار اور عتم بزرگوار دونوں حضرات ایک ہی رائے  
رکھتے تھے، البتہ ان دونوں بزرگوں کی رائیں اس بارہ میں مختلف تھیں کہ شرعی ذمہ دار یوں سے  
کوئی شخص بری کیا جاسکتا ہے یا نہیں ہے شاہ صاحب کے والد ماجد کا مذہب یہ تھا کہ شرعی ذمہ  
دار یوں سے کوئی شخص بھی بری نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ان کے عتم بزرگوار کا مذہب یہ تھا کہ کامیں  
شرعی ذمہ دار یوں سے بری تو کہ دیے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اختیار کے بغیر ہی ان  
کو تمام شرعی مکالیف کا پاندربنائے رکھتا ہے۔

خود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارہ میں اپنے عتم بزرگوار کے مسلک کے مزید معلوم  
ہوتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے عتم بزرگوار کا مذکورہ بالامثل نقل کرنے کے بعد اس کا فلسفہ  
بھی مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

وَالسُّرِّ فِي ذَلِكَ عِنْدِي  
أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اتَّقَلَ عَنْ  
الْإِيمَانَ بِالْغَيْبِ بِهِذَا التَّوَاعِيدِ  
إِلَى الْإِيمَانِ بِهَا عَلَى بَيِّنَةٍ  
وَوَجَدَ هَذَا الْعِبَادَاتُ دَرِّ  
الْتَّوَاعِيدِ فِي نَفْسِهِ مُثْلِ  
الجُوعُ وَالْعُطْشُ هَمَا لَا  
يُقْدَرُ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا مَعْنَى  
أَدْرَانِ عَبَادَاتٍ فِي مِنَامٍ  
أَوْ أَنْ عَبَادَاتٍ وَالْحُكَمُ كُلُّهُمْ أَنْهَا  
أَسِ طَرَحَ مُهْسَسٌ كَرَنَّ لَمَّا  
بَهُوكَ أَوْ پَيَاسَ كَمُهْسَسٌ كَرَنَّ لَمَّا  
پَرَوَهُ قَادِرٌ نَّهِيًّا رَهْتَأْتُ بِهِ زَوْلَ كَامِ

لتعلن التكليف بهالا نها  
کو مکلف بنائے رکھنے کے کوئی معنی نہیں  
من العجلة الستى جبيل کیوں کہ یہ چیزیں تواب اس کی بجلت بن  
چکی ہیں، مگر پردہ پیدا ہوا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ اس قسم کے الہامات کو اپنے والد ماجد اور عالم بزرگوار کی طرح رحمائی سمجھتے ہیں جیسا کہ ان کا ارشاد ہے : وَالْحَقُّ عِنْدِنِي  
ان الالهاءِمْ أَكُلُّهُ حَقٌّ۔ بلکہ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ کامیں جن کو ایمان بالغیب کی وجہ  
ایمان بالشادہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے وہ شرعی تکالیف سے بری کردیے جاتے ہیں کیونکہ  
شرعی تکالیف ان کے لیے بالکل اضطراری نوعیت کی چیزیں جاتی ہیں، مگن سے انحراف ان کے  
لیے ممکن ہی نہیں رہ جاتا، جس طرح وہ طبعی فرائیں کی مجبورانہ اطاعت کرتے ہیں اور جس طرح وہ لیے  
ہو کہ جعلی تقاضوں کی تعییل کرتے ہیں اسی طرح وہ شرعی احکام کی بھی تعییل بالکل بے لیے ہو کہ کرتے ہیں  
اس وجہ سے ان کو شرعی تکالیف کا مکلف بنائے رکھنے کے کوئی معنی نہیں۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے متعدد سوالات پیدا ہوتے ہیں، مگن میں  
سے بعض کا ہم یہاں ذکر کریں گے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جیب اس دلیل کی بناء پر کامیں کے لیے شرعی احکام و فرائیں  
جملی تقاضوں کی یقینیت حاصل کرتے ہیں یہ کہا جا سکتا کہ ان کو شرعی احکام کا مکلف بنائے  
رکھنے کے کوئی معنی نہیں تو بعدیہ اسی دلیل کی بناء پر یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جیب یہ کامیں  
ان شرعی احکام کی تعییل پر جعلی طور پر مجبور ہیں تو ان کی ذمہ داریوں سے ان کو بری قرار دینے کے  
بھی کوئی معنی نہیں، کیوں کہ کسی چیز سے بری قرار دینے کا سوال تو باہ پیدا ہوتا ہے جہاں اختیار  
موجود ہو جب اختیار ہی سلب ہو چکا تو بری قرار دینا صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کو معذورین  
و مجبوریں کے ذمہ میں شمار کیے جانے کے سبب سے غیر مکلف سمجھو لیا جائے۔ لیکن یہ مرتبہ  
اسلامی شریعت میں کامیں کا نہیں بلکہ نا بالغوں اور بیانیں کا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام عذاب و ثواب اختیاری اعمال

لہ یہ بجارت فوج الحرب میں صفر ۲۳، ۲۳ سے نقل کی گئی ہے۔

پر مرتب ہوتا ہے تو عجب یہ اعمال ان کا ملین کے لیے اختیاری باقی نہیں رہے تو ان پر ان کو اجر و ثواب کس بات کا ملے گا؟

تمیری بات یہ ہے کہ انبیاء کے کرام کا ایمان قرآن کی تصریح کے مطابق علی بنیہ ہوتا ہے  
چنانچہ حضرت نوح فرماتے ہیں :

إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَّبِّيْ (۲۸ - ہود)

حضرت صالح فرماتے ہیں :

إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْ سَرَّابٍ (۶۳ - ہود)

حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں :

إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْ سَرَّابٍ (۸۸ - ہود)

لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی کے متعلق بھی کوئی ادنیٰ اشارہ نہیں اس بات کا نہیں  
ہوا کہ ان کو کبھی اس بات کا الہام ہوا ہو کہ ان کو شرعی تکالیف سے بری قرار دے دیا گیا بلکہ ان  
کے برعکس ان کو برابری تاکید ہوتی رہی کہ جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر پابرجی پر رہو اور سرواس  
سے تجاوز نہ کرنا۔ حالانکہ شرعی تکالیف اگر کسی کے لیے جلیٰ پیغماں بن سکتی ہیں تو سب سے پہلے انبیاء  
علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں لیکن جب وہ آخر دم تک مکلف رہے اور دوسروں سے زیادہ  
مکلف رہے تو تایید بیکار چہ رسد۔

ہمارے نزدیک اس طرح کا الہام یا کشف کا ملین کو تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایک لمحہ کے لیے  
بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ الہام یا کشف رحمانی بھی ہو سکتا ہے۔ رحمانی کشف  
اور رحمانی لقاء ہمیشہ بندہ کو صحیح حکمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ بندہ کو فتنہ میں نہیں ڈالتا  
فتنه میں ڈالنا شیطان کا کام ہے۔ یہ کام رحمان کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہزاروں نبیوں  
اور رسولوں پر وحی نازل فرمائی لیکن یہ وحی ہمیشہ شرعی ذمۃ دار یوں کے اٹھانے کی تاکید کے ساتھ  
نازل ہوئی، نبی کے لیے بھی اور اس کی امت کے لیے بھی، ہم کو انبیاء کے پدر سے گروہ میں  
سے کسی کے پارہ میں بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کو ایک مرتبہ بھی وحی یا کشف کے ذریعہ سے  
یہ بتایا گیا ہو کہ اپ وہ شرعی فرائض اور ذمۃ دار یوں سے بری کر دیجے گئے ہیں، اگر انبیاء کرام

کی زندگیوں میں اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی نوعیت یا تو شیطانی و سو سر کی ہے جس سے انہوں نے اشہر کی پناہ مانگی ہے یا پھر انسانی دامہ کی ہے جس کی انہوں نے اصلاح فرمائی ہے مثلاً ایک مرتبہ بعض لوگوں نے آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ؛ جب آپ کے تمام الگھے پھیلے گناہ بخش دیے گئے تو آپ نوافل میں اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں آپ نے فرمایا :

ا فلا أكون عبداً شكوساً      کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ ہوں  
اگر کاملیت کا الفاعم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا کہ کامل کو شرعی ملکا بیعت ہی سے بری قرار دے دیا جانا تو سب سے بڑھ کر کامل اور اکمل تو حضور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لیکن قرآن کی کسی آیت یا آپ کی حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو زندگی کے کسی دور میں کوئی ادنیٰ اشارہ بھی اس بات کے لیے ہوا ہو کہ آپ کو شرعی ذمہ داریوں سے کسی پہلو سے بھی بے کدوں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے بالکل عکس کمالِ عبادیت میں آپ جتنے ہی آگے بڑھتے گئے شرعی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اسی قدر بڑھتا گیا۔

ہم یہاں چند آیتیں ایسی نقل کرتے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری دور میں خصوصیت کے ساتھ اشہر کی بندگی میں زیادہ سے زیادہ سرگرم رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے،

سُورَةُ الْمُشَرِّقِ میں ارشاد ہوتا ہے:

فَإِذَا فَدَعْتَ فَأَنْصَبَتْ ۚ وَإِذْ ۖ پس جب تم غارغ ہو جاؤ، اپنے رب کی بندگی میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کی طرف چھک پڑو۔

جس سورہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاویل کے مطابق آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب دفات کی مشین گئی ہے عین اسی سورہ میں آپ کو یہ آیت کی جاتی ہے کہ:

إِذَا جَاءَهُ نَصْرٌ اَللَّهُ وَالْفَتْحُ ۚ جب اشہر کی مدد اور فتح آئے اور تم دیکھو تو سَأَيْتَ النَّاسَ مُبَدِّلِ خُلُونَ ۚ کروگ فرج در فوج اشہر کے دین میں داخل ہو

**فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا هَفَسَّيْهُ** رہے ہیں تو اپنے رب کی اس کی حد کے ساتھ  
**دِحْمَدِ سَبَكَ وَاسْتَعْقِرْكُ** تسبیح کرو اور اس سے مغفرت اٹکر، بے شک  
**إِنَّهُ كَانَ تَوَكِّلًا** وہ تو ہر قبول کرنے والا ہے۔

ایک جگہ صاف یہ ہدایت ہے کہ اپنے رب کی بندگی پر جسے رہو، یہاں تک کہ  
 موت آجائے:

**وَاعْبُدْ سَبَكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ** اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، یہاں  
**الْيَقِينُ** تک کہ موت آجائے۔

تمام اہل تاویل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے  
 پر حال اس قسم کا القا خدا کی طرف سے تو ہونیں سکتی، اگر ہو سکتا ہے، تو شیطان کی طرف  
 سے ہو سکتا ہے وہ بلاشبہ کامیاب کو اس مغالظہ میں بنتا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ آخرت  
 کی فلاح و کامیابی کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے انہوں نے کر لیا۔ اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت  
 باقی نہیں رہی، اس کوشش میں اگر اس کو کچھ زیادہ کامیابی بالفرض نہ بھی ہو، صرف اتنی ہی کامیابی  
 ہو جائے کہ کوئی خدا کا بندہ اپنے عمل کو زیادہ اہمیت ہی دینے لگے جائے تو یہ بھی اس شخص  
 کی آخرت کی پربادی اور شیطان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اہل نقوی اس فتنہ میں اکثر بنتا  
 ہو جاتے ہیں اور اگر شیطان کے اسی دوسرا کوئی بزرگ اپنی سادہ لوگی سے سچی مجھ القادر حماقی  
 ہی سمجھو یعنی اور اس کی تعییل میں تمام شرعی مکالیعت سے خپٹکارا بھی حاصل کر لیں، تب تو سمجھیے  
 کہ شیطان کو سو فی صد فی کامیابی حاصل ہوئی۔ ہمارے نزدیک اس قسم کے الہامی اور کشفی علم  
 کو بجائے خود دلیل اور معیار قرار دینے کا یہ لازمی تیجہ ہے جس سے کسی طرح بھی بچا نہیں جاسکتا  
 اسی چیز سے ہزار ہا بدعات پیدا ہوئی ہیں اور اگر اس کا دروازہ کھلا رہے تو اس سے ہزار ہا  
 بدعات آندرہ پیدا ہو سکتی ہیں، سبب سے بندیع صوفیوں نے اسی قسم کے غیری اشارات  
 کو اڑنا کر اپنے آپ کو شرعی ذمہ داریوں سے بری قرار دے لیا۔ جسی کے سبب سے وہ خود  
 بھی گراہ ہوئے اور اپنے پچھے چلتے والوں کو بھی انہوں نے گراہ کیا، اس کی تفصیلات اگر  
 آئیں گی۔

۳۔ اس علم لدنی کے متعلق شیخ الاسلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ:  
 لیس بینَهُ وَبِينَ الغیبِ      اس کے درمیان اور غیب کے درمیان کوئی  
 جاپ نہیں رہ جاتا۔                  حجایپ۔

جس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ ہوتے کہ جس کو علم لدنی حاصل ہو اس کے لیے غیب  
 کے تمام پڑے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے نزدیک بالبداہست قرآن کے خلاف  
 ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، اس کے سوا نہ کسی انسان کو حاصل ہے  
 نہ کسی فرشتہ کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، خدا کے نزدیک سب سے ذیادہ اونچا مرتبہ نبیوں اور  
 فرشتوں کا ہے، لیکن قرآن مجید میں تصریح ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے نہ براہ راست خطاب  
 کر سکتے ہیں نہ غیب سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اگر ان سے خطاب کرتا ہے تو یا  
 تو وحی کے ذریعہ سے یا پروہ کی اوث سے یہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیے سارے جمادات اٹھا  
 دیے جاتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِيَشِيرُ أَنْ يُكَلِّمَهُ  
 إِلَّا دُجَى أَوْ مِنْ دُسَّاءٍ  
 حِجَابٌ أَوْ يَرِسْلَ سَوْلًا  
 فَيُوَحِّي رَبِّذَنْهُ مَا يَشَاءُ مِنْهُ  
 عَلَى حَرِيكَيْمَهُ  
 اور کسی انسان کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اس اس  
 سے بات کرے، مگر وحی کے ذریعہ سے یا  
 پروہ کی اوثیں یا اس کے پاس دہ اپنا کوئی  
 فرشادہ (فرشتہ) بھیتا ہے جو اس کے  
 حکم سے اس کی طرف وحی کر دیتا ہے جو وہ  
 چاہتا ہے۔ اثر بہت بلند اور حکمت  
 والا ہے۔

اسی طرح یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کی صلحت  
 کے لیے کسی نبی یا رسول کو اپنے غیب کی باتوں میں سے کچھ باتوں سے باخبر کر دے۔  
 عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى  
 غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ أُرْتَضَى      وہ غیب کا جانتے والا ہے اور اپنے غیب  
 مِنْ سَوْلِ فَانَّهُ يَسْكُنُ  
 منتخب کرے تو اس کے آگے اور پیچے اپنے

وَمِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا۔ پھرہ دار مقرر کرتا ہے:

انبیاء کی دعوت کی بنیادی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب کی دعوت دیتے ہیں، وہ بلاتے ہی انہی لوگوں کو ہیں جو عقل و استدلال سے کام لیتے، آفاق و نفس میں خدا کی جو نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے اور ان کے نتائج کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہوں، وہ ان لوگوں کو اپنی دعوت کے بالکل بیکار سمجھتے ہیں جو تفکر و تدریج کی بجائے ہر حقیقت کے مشاہدہ و معائنہ کے طالب ہوں، جو لوگ غیب کا مشاہدہ کر لیتے کہ بعد اثمد کو مانتے اور اس سے ڈرنے کے لیے تیار ہیں، قرآن میں ایک جگہ بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے، نہ صرف یہ کہ ایسے لوگوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے بلکہ اس دنیا میں مشاہدہ غیب کو حکمتِ الہی کے بالکل خلاف اور اس قسم کے ایمان کو بالکل غیر عبور قرار دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں اصل آزمائش ہی یہی ہے کہ آدمی مشاہدہ غیب کے بغیر محقق عقل و فطرت کی ثابتی اور انبیاء کی گواہی کی بنابری کو مانتے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے۔ اگر فی الواقع کوئی ایسا علم ہے جو غیب کے پروپریتیوں کو اٹھاویتا ہے اور اس دنیا میں وہ انسانوں کو حاصل بھی ہو سکتا ہے تو اس کے پاس کے سب سے زیادہ مستحکم حضرات انبیاء میں کرام ہی ہو سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس علم سے آگاہ نہیں کیا حالانکہ ان کی قبور کی طرف سے برابر یہ مطالبہ رہا کہ وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں پرشطیکہ ان کو غیب کا مشاہدہ کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حجراں ملا کہ اس دنیا میں غیب کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، پھر کس طرح ممکن ہے کہ جو بیز انبیاء کو نہیں عطا کی گئی اور جس کا دریا جانا حکمتِ الہی کے خلاف قرار دیا گیا، وہ صرفیوں کو حاصل ہو گئی؟

یہاں اس قصہ سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو جو سورہ کہف میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت کا بیان ہوا ہے۔ حضرت کو جو علم عطا ہوا تھا اس کے متعلق قرآن میں اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اس علم نے ان کے لیے غیب کے تمام پڑے اٹھاویے تھے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ جو کچھ نہ کلتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند معاملات میں حضرت کو اپنی مشیت کی تنقیت کا داسٹہ بنایا تھا اور ان کے اور ان معاملات کی حکمت بھی کھوں دی تھی۔ جہاں تک حضرت موسیٰؑ

کا تعلق ہے انہوں نے خضر کی باتیں جو گوارا کیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وحی کے ذریعہ سے یہ ہدایت ہوئی تھی کہ وہ ان کے پاس ایک خاص امر کی تعلیم کے لیے جائیں ان کا خدا کی طرف سے خضر کے پاس جانا خود اس بات کی دلیل تھا کہ خضر خدا کے خاص بندے ہیں۔ ان کا علم قابلِ اعتقاد ہے اور ان کا عمل خدا کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا، پچانچہ حضرت موسیٰؑ نے خضر کی وجہ پا تیں جو ان کی نسگاہ میں تھی کے خلاف نظر آئیں مخصوص اس وجہ سے گوارا کیں کہ ان کو وحی کے ذریعہ سے خضر کے اور پر اعتقاد کرنے کی ہدایت ہوئی تھی اگر وحی کے ذریعے سے ان کو خضر پر اعتقاد کرنے کی ہدایت نہ ہوتی تو یقیناً حضرت موسیٰؑ خضر کے ایک فعل کو بھی پرواشت نہ کرتے رہو خضر نے بھی آخر میں حضرت موسیٰؑ کو یہی اطمینان دلایا کہ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ<sup>۱</sup> کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے خدا کے حکم سے کیا ہے، اپنے جی سے نہیں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر نے پندرہ کام حضرت موسیٰؑ کے سامنے ان کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کیے کہ خدا کے کام اگرچہ بظاہر کتنے ہی بے حکمت نظر آئیں لیکن ان کے اندر نہایت گہری حکمت ہوتی ہے جس کو صرف خدا ہی جانتا ہے اور یہ کام انہوں نے براہ راست خدا کے احکام کے تحت اسی طرح انعام دیے جس طرح فرشتے اس کے احکام کی تغییر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کی تنقید کا واسطہ جس طرح فرشتوں کو بناتا ہے، اسی طرح کسی انسان کو بھی اگر اس نے کسی مصلحت کے تحت کسی وقت بنایا تو اس میں کوئی استعمال نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو اڑ بنا کر کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی اقدام شریعت کے خلاف کر دے اور جب اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس کا یہ فعل شریعت کے خلاف ہے تو وہ یہ جواب دے کر میں نے تو یہ براہ راست خدا کے حکم کے تحت اس کی مشیت کی تنقید کی ہے کیوں کہ دربروں کے پاس اس کے صدق و کذب کے جانچنے کا ذریعہ وحی الہی ہی ہے اور وحی الہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ اب حق دباٹی کی کسوٹی قرآن و سنت ہے، اگر کسی شخص کا فعل کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ اس عذر پر کتاب و سنت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا کہ اس نے پچھے جسی کہایا کیا ہے علم لدنی کی رہنمائی کے تحت کیا ہے اور یہ علم بجا نئے خود دلیل ہے، اس کو کسی اور کسوٹی پر جانچنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہ) شیخ الاسلام نے معرفت کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ:  
**المعرفۃ احاطۃ بعین الشیع** معرفت یہ ہے کہ کسی شے کی حقیقت کا جیسی کہ  
کہما ہو وہ ہے، احاطہ کر لیا جائے۔

معرفت کی اس تعریف کی رو سے کسی ادنی سے اولیٰ پہنچ کی بھی معرفت نہیں حاصل کی جاسکتی چہ جائیکہ خدا کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت حاصل ہو سکے اس طرح معرفت ہم اس ہماری بھی حاصل نہیں کر سکتے جس کے اندر ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں، اس پانی کی بھی نہیں کر سکتے جس کو پیتے ہیں، اُس سورج کی بھی نہیں کر سکتے جس کی روشنی میں ہر پہنچ کو دیکھ سکتے ہیں۔ حدیہ ہے کہ اس طرح کی معرفت اگر ہم خود اپنے وجود کی بھی حاصل کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے محال ہے اگرچہ ہمارے وجود سے زیادہ ہم سے قریب تر شے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اس طرح کی معرفت ہم زمین پر رینگنے والی کسی نہیں کی چیزیں کی بھی حاصل نہیں کر سکتے پھر غور کیجیے کہ انسان جب اپنے گرد و پیش کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی کا حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا تو اس کا احاطہ کس طرح کر سکتا ہے جو ہمارے خیال و گمان اور قیاس و وہم سے بالاتر ہے

#### ۴

### لے بر تہ از خیال و قیاس و گمان و وہم

ہ) معرفت کی اس تعریف کے بعد تم یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت کو بالکل اتنا ای درجہ کی پہنچ بتایا گیا ہے، معرفت کا دوسرا درجہ جو خواص کا حقہ ہے، ان حضرات کے نزدیک معرفت ذات سے شروع ہوتا ہے، حالاں کہ انسان خدا کی ذات کی کا حقہ، معرفت تو درکنار اس کا سرے سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی صفات مثلاً سمع، بصر، علم، قدرت وغیرہ کا تصور تو انسان کچھ کر سکتا ہے (اگرچہ وہ کتنا ہی ناقص ہو) کیوں کہ ان صفات کی ایک جملہ وہ اپنے اندر بھی پاتا ہے، لیکن خدا کی ذات کا تصور کرنے کے لیے تو اس کے تمام ذیخیرہ معلومات میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے جس قدر بھی بحث کی ہے خدا کی صفات، اس کے افعال اور اس کے قوانین و سنن سے کی ہے۔ اس کی ذات سے کوئی بحث نہیں کی ہے اور اس بات کی صفات تصریح کر دی ہے کہ اس دنیا میں انسان خدا کی ذات

کی تجلی کامشاہدہ نہیں کر سکتا۔ احادیث میں خدا کی ذات کے سوال پر غور کرنے کی بھی مخالفت کی گئی ہے کیوں کہ اس سوال پر غور کرنے کے پیسے انسان کے پاس سرے سے کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اس سوال پر غور کرے گا تو جیران دو رہنمگ کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہو گا اور جیرانی دو رہنمگ بجا نے اس کے کہ انسان کو کچھ دے اس سے وہ کچھ بھی حصیں لیتی ہے جو اس کے پاس پہلے سے ہوتا ہے، چنانچہ اس بات کا توحضرات صوفیا نے کرام کو بھی اقرار ہے کہ جس کو تجلی ذات کا شاہد ہو جانا ہے وہ بسا اوقات فرائض و واجبات بھی کچھ عبیط ہے۔

ہمارے نزدیک تجلی ذات اول توجیہا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کسی کو حاصل نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی شخص اس کے درپے ہو تو وہ کچھ پانے کے بجائے اللہ وہ بھی کھو آتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔

۴۔ معرفت کا تیسرا درجہ جس کو اخْص الخواص کا حصہ قرار دیا گیا ہے قطع نظر اس سے کوہ غافل وحدت الوجود کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کو علم کے حدود و قیود سے بالکل بالاز کر دیا گیا ہے مظاہر ہے کہ علم سے مراد علم شریعت ہے جس کے معنی و درسے الفاظ میں یہ ہوئے کہ علم شریعت نہ تو اس معرفت کا وسیلہ و ذریعہ ہی ہو سکتا ہے اور نہ وہ اس معرفت پر کوئی حکم ہی لگا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ ان حضرات کے نزدیک، عارف ایک صاحب حال ہے اور ایک صاحب حال نے کشف اور مشاہدہ سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر محروم ایک صاحب پ قال کہ کوئی حکم لگانے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ نظریہ بنیادی طور پر شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارہ میں انسان کو اپنے جی سے کچھ کہنے کا حق نہیں دیا ہے بلکہ صاف صاف فرمایا ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے انسان اس کو اپنے محدود ذرائع علم سے کا حق نہیں جان سکتا، اس وجہ سے اس کو چاہئیے کہ وہ اپنے ظن و گمان اور اپنے کشف و مشاہدہ کی بنابر خدا کے باسے میں کچھ کہنے کے بجائے اللہ کی وحی کو ربنا بنائے اور اس کے بارہ میں دہی کچھ مانے جو خدا اس نے اپنے متعلق بتایا ہے۔

فَلَا تَنْصُرْ بِوْ دُوا لِّلَّهِ الْأَمْثَالَ ۝ پس تم اپنے جی سے افسوس کے لیے شاید  
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَآنَذَكُ لَا ذکر در، اپنے اپ کراشد ہی جانتا ہے،  
تَعْلَمُونَ ۝ تھیں جانتے۔

اگر کوئی شخص خدا کے بارہ میں کوئی ایسا تصور پیش کرتا ہے جو خود خدا کے پیش کروہ تصور  
سے مختلف ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس کو اپنے کشف یا مشاہدہ کے ذریعہ سے خدا کی  
یہی معرفت حاصل ہوئی ہے تو لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شخص یا تو کسی وہم میں بستلا ہے یا غلط  
بیانی کر رہا ہے۔

## اس تفضیل سے یہ بات واضح خدا کی معرفت کے بارہ میں صلح مسلمک

متعدد فلسفہ، مشکلیں اور ارباب تصرف نے جو نقطہ ہائے نظر پیش کیے ہیں، ان میں سے  
ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خلا ہے، اب ہم مختصرًا بتائیں گے کہ خدا کی معرفت کا بالکل صحیح  
ادنقابل اطمینان ذریعہ کیا ہے؟

ہمارے زویک خدائی معرفت کا صحیح اور قابل اطمینان ذریعہ انبیاء علیهم السلام ہیں لیکن  
ہمارے اس کیتے کافشا ہرگز یہ نہیں ہے کہ عقل و فطرت کو وجود ان اور کشف کو معرفت الہی  
میں سرے سے کوئی دخل ہی نہیں ہے کہ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ عقل یا کشف وغیرہ  
کے ذریعہ سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس میں غلطی اور وہم کے امکانات ہیں اور انہیاں  
کا طریقہ غلطی اور وہم کے تمام امکانات سے محفوظ ہے، انبیاء علیهم السلام کے طریقہ کی  
بنیاد جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے عقل اور فطرت ہی پر ہے اور اس کے اندر وجود ان اور  
کشف کو صحیح دخل ہے، لیکن ان کے طریقہ میں پونکہ عقل یا وجود ان تنہا کام نہیں کرتے بلکہ  
وہی الہی کی پرماہنگی بھی ان کی مدد کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس طریقہ میں اس بات کا کوئی اندازہ  
نہیں ہے کہ انسان کسی غلطی یا گراہی میں بستلا ہو سکے۔

انبیاء علیهم السلام کو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، وحی کے ذریعہ سے خدا کی معرفت حاصل  
ہوتی ہے۔ وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والے اس علم کو قرآن کی اصطلاح میں "العلم"

کما گیا ہے۔ "العلم" یعنی علم حقیقی، جو تمام علوم کا سرحد پر ہے، ہو انسان کے لیے حقیقی صلاح دفعاً کی راہ کھوتا ہے، جو اس کے قلب اور اس کی روح کو سچی طہارت اور سکینت بخواستا ہے، جو اس کی دنیا کو سچی سفارت نہ ہے اور اس کی آخرت کو سچی روشن کرتا ہے، جو ہر قسم کے اختلاط و التباس اور ہر قسم کے شہر سے بالاتر ہے جس میں کسی قسم کے وہم یا وسوسرہ کی کسی آئیش کا اندازہ نہیں ہے، جو ہر قسم کی شیطان دخل اندازی سے بالکل محفوظ ہے، جس کو دینے والا خدا ہے جس کو لانے والے جبریل امیں ہیں اور جس کو دنیا میں پھیلانے والے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو دنیا میں آتا رہتے وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سمجھی اور زمین میں سمجھی دونوں جگہ اس امر کا اہتمام فرمایا کہ شیاطین الجن اس کے قریب پہنچ سکیں اور نہ شیاطین الان اس کے اندر کو خراپ پیدا کر سکیں جس کی عظمت اور پاکیزگی اور جس کے محافظین و حامیین کے صدقہ

لہ نزولِ دحی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے دھی کو ہر قسم کی شیطانی دسترس سے محفوظ کر دیتے کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ انسان کے اندر شیطانوں کی آمد و شد بند کر دی اور اس کو روکنے کے لیے نہایت مضبوط قسم کا پہرہ لگا دیا۔ سوہنہ جن میں اس کا ذکر نہ رجوع کی زبان سے یوں ہوا ہے۔

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا  
مُلْعَنَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشَهِيْدًا  
وَأَنَا لَكُنْتَ نَفْعُدُ وَمِنْهَا مَقَاعِدَ  
لِسَمِيعٍ قَمَنْ يَسْتَمِعُ الْأَلَانَ  
يَحْدُّ لَهُ شَهَادَةً سَرَّ صَدَّاً  
(۱۰-جن)

اور ہم نے انسان کا جائزہ لیا تو ہم نے پایا  
کہ اس کو سخت قسم کے پہرہ واروں، اور شہادت  
ثاقب سے بھر دیا گیا ہے اور ہم اس میں ستر قیمت  
سے کوئی ایک اسٹریکس سع کے لیے گھاٹت  
لگائے گا تو وہ ایک شاپ ٹھاٹ کے اپنی  
گھات میں پائے گا۔

۲۵ اسی طرح شیاطین الان اللہ کے تابعے ہوئے علم اور اس کے دین میں جو کچھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کا بھی اس نے انتظام فرمایا۔

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْكِنُ الشَّيْطَنَ  
لَهُ يُحْكُمُ اللَّهُ أَيْمَنَهُ وَاللَّهُ  
کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اثر راتی (صفحہ ۹۹)

وفاکی شہادت خود ان کے آمارئے والے نے ان الفاظ میں وہی ہے :

**فِي صُحْفٍ مُّبَكَّرٍ مَّنِيَّ مَرْفُوعَةٌ** گرامی صحیفوں میں، بلستہ اور پاکیزہ ،  
**مُظْهَرٌ تِبْيَانٍ سَفَرَةٍ كَرَاهٍ** باوٹ اور باوٹ مشیبوں کے  
**بَرَسَةٍ هُوَ بَأْيُدِيٍّ** بارشیں - **بَلْقُونٍ مِّنْ** بالخنوں میں -

جس کی معنوی قدر و تمیت کی شہادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ

میں وہی :

یہی قرآن اللہ کی رسی ہے، یہی نور مبین ہے  
 اور شفاء نافع ہے، یہی اس کی پناہ ہے  
 جو اس کو ضبھی کے ساتھ پکڑے اور اس  
 شخص کے لیے وسیدہ نجات ہے جو اس  
 کی پیر و ری کرے ۔

ان هذا القرآن حبل الله  
 وهو النور المبين والشفاء  
 التافع وعصمه من تمسك  
 به وبخاتة من تبعه

جس کے بارہ میں حضرت علیؓ نے ہر تمام اربابِ تعلوف کے زویک سب سے بُشے  
 عارف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے :

قالَ أَمَا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّا أَنَّهَا تَكُونُ فِتْنَةً قَدْلَتْ فَمَا الْمُخْرِجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ كَتَابُ اللَّهِ فِيهِ نِبَاءٌ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبْرٌ مَا بَعْدَكُمْ وَحِكْمَةٌ مَا بَيْنَكُمْ

فرمایا یاد رکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سُنی ہے کہ اپنے فرمایا  
 غقریب ایک بڑا فتنہ سرا اٹھائے گا، میں  
 نے عرض کیا، اس سے نجات کیا پیزرو دلائے  
 گی، یا رسول اللہؐ، اپنے فرمایا، اللہ  
 کی کتاب اس میں تھا اسے الگوں کی مرگزشت  
 ہے جو کچھ بعد میں اُنے والا ہے اس کی غیر

(ابقیہ صفحہ ۸)

اپنی آئیوں کو مستحکم کرتا ہے اور اللہ علیم والا

عَلَيْهِ حِكْمَةٌ

اور حکمت والا ہے ۔

(۵۲ - حج)

ہے اور جو کچھ تم سے دریاں پیدا ہوگا، اس کا  
نیصلہ ہے اور یہ ایک دلوك بات ہے،  
کوئی بنسی، ولگی نہیں ہے، یوسکش اس کو  
چھڑ دے گا اللہ اس کی پشت کی ہڈی توڑ  
دے گا، جو اس کے سوا کوئی اور مرجع ہدایت  
بنائے گا، اللہ اس کو گراہ کر دے گا، خدا کی  
مقبول رسمی بھی ہے، حکمت سے بھری ہوئی  
کتاب بھی ہے، خدا کی کھولی ہوئی سیدھی ماہ  
بھی ہے، اس کے ہوتے ہوئے خدا ہمیں نہیں  
گراہ کرتیں اور زبانیں نہیں لڑ کھڑاتیں، علماء  
اس سے کبھی نہیں اسردہ ہوتے، کتنی ہی پڑھو  
اس سے بھری نہ ہوگی، اس کے بھائیں حکمت  
کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے سنتے ہی  
پیشات پکار اٹھے ہم نے بیب و غریب  
تران نا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے  
تو ہم اس پر ایمان لائے، جس نے اس کی  
ستد پر کہا، سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا  
اچھا پائے گا، جس نے اس کی مدد سے فیصلہ  
کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کی طرف  
وہوت دی اس نے صراطِ مستقیم کی دھوک

دی۔

یہی علم ہے جس کے باشے میں ہم اور انہی حضرت علیؓ کا ایک قول نقل کرائے ہیں۔  
سئیل علیؓ ہل خصہ سکھ حضرت علیؓ سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ

وهو الفضل ليس بالله ل  
من تركه من جبار قصده  
الله و من ابتغى الهدى في  
غيره اضله الله وهو جبل  
الله المتبين وهو الذكر  
الحكيم، وهو الصراط  
المستقيم، وهو الذي لا  
تزاغ به الا هواء ولا تلبيس  
به الا لسنته ولا تشبع منه  
العلماء ولا يخلق على كثرة  
الرد ولا تفقصى عجائبه  
وهو الذي لم تذته العين  
اذ اسمعته حتى قالواانا  
سمينا قرآن عجبا يهدى  
إلى الرشد فما منك به من  
قال به صدق من عمل  
به اجر و من حكم به  
عدل و من دعا إليه هدى  
إلى صراط مستقيم۔

(ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص  
و سلمہ بخشی عدم دوں الناس علم ایسا بھی سکھایا تھا بود و درود کرنے سکھایا  
ہو، اپنے جواب دیا کہ نہیں اس ذات  
کی قسم جس نے تحریر چاڑا اور خلق کو پیدا کی،  
یعنیہ اللہ عینہ فی  
یقیناً لاؤ فَهُمَا  
جسے آپ نے اس قسم کا کوئی علم نہیں سکھایا  
ابتدیہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا  
کسی بندے کر عطا فرمائے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ علم خاص جو حضرت علیؑ کی طرف مسروب کیا جاتا ہے،  
وہ بھی درحقیقت وحی الہی کے فہم ہی کا ثراہ تھا، اس سے کوئی علیحدہ پہنچنے نہیں تھا۔  
وہی الہی کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اربابِ تصورت کے علم رخنی یا علمِ لدنی  
کی طرح عقل و فطرت سے بالکل ماؤ راشے نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد جیسا کہ ہم نے اور اشارہ کیا  
ہے عقل اور فطرت ہی پر ہوتی ہے۔ قرآن کمیں بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں جو تم سے کہی جا رہی ہیں،  
ان کا وجود ہی ان کی سند ہے یا یہ خود ہی دلیل اور خود ہی مدلول ہیں بلکہ وہ ہر جگہ یہ کہتا ہے کہ  
تماری عقل اپنی بازوں کا مطالبہ کرتی ہے اور تمہاری فطرت ان کی صحت اور صداقت پر گواہ  
ہے، وہ ان پہنچوں کا پا قاعدہ منطقی طریقہ پر ثابت کرنے کے لیے آفاق اور نفس کے اندر  
سے دلیلیں میں کرتا ہے اور اس خوبی اور اس وضاحت کے ساتھ ان کو ثابت کرتا ہے کہ کوئی  
ہٹ و حرم ہی ان کا انکار کر سکتا ہے۔ گویا درسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہی الہی ہماری اپنی  
ہی فطرت کے مدفن خزانہ کو ہماری نگاہوں کے سامنے کر دیتی ہے اور ہماری ہی عقل کو  
ہمارے اور گواہ بنادیتی ہے۔ اگر یہ کام ہم خود کرتے تو اس میں غلطیوں کا امکان تھا اور غلطیاں  
ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے ہملاک ثابت ہو سکتی تھیں، اس وجہ سے  
اللہ تعالیٰ نے یہ کام وحی کے ذریعہ سے انجام دے دیا جو ہر شک و شبہ سے بالا ہوتے ہیں  
اہلِ تصورت کے کشف و مشاهدہ سے کہیں ارفع ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں کا حقہ فہم  
و بصیرت حاصل کر لے تو اس کو وہ نور بیکیں اور شرحِ صدر بھی حاصل ہو جائے جو حاصلِ مقصود

ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے صوفیہ طرح طرح کی ریاضت کر کے کشف و مشاہدہ کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی حقیقت کی طرف حضرت علیؓ نے اپنے مذکورہ بالاقول میں شادی کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ صوفیوں کے علم خفیٰ یا علمِ لدنیٰ کی طرح انبیاء علیهم السلام کا علم بعقل کو مفلوج اور بغیرہ نہیں بناتا بلکہ وہ تمام بنیادی معاملات میں رہنمائی کر کے عقل کو صحیح اور قطعی نتائج تک پہنچا دیتا ہے اور اس طرح وہ اس کی ایسی تربیت کر دیتا ہے کہ بقیہ مسائل میں وہ آپ سے اپنے صحیح طرز پر پہنچنے لگ جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار مخاطب کو تعقل، تفکر اور تذکر کی دعوت دی گئی ہے۔

تعقل کا فشار یہ ہوتا ہے کہ ادمی زندگی کے معاملات میں بعض جذبات، شهوات اور خواہشات کو اپناراہنمائے بنالے اور نہ اورام و غیالات کے باختہ میں اپنی یاگ میں بیٹھے بلکہ اس کے اندر خدا نے جو عقول رکھی ہے اس کو رہنمائے اور اس کی راہنمائی پر اعتماد کرے۔

تفکر کا مطلب یہ ہے کہ نظامِ عالم کے قوانین و احکام اور فطرتِ انسانی کے مطالبات اور تقاضوں پر چکیانہ طور پر غور کیا جائے اور ان سے زندگی کے لیے جو اصول پیدا ہوتے ہیں ان کو پوری سچائی اور ایمان داری کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔

تذکر کا مطلب یہ ہے کہ ادمی ہم بدریہیات پر یقین رکھتا ہے۔ ان بدیریہیات کو جذبات و شهوات کی طبیعت کے اندر سمجھی یا درکھے اور پھر ان سے بالکل لازمی طور پر جو نتائج نکلتے ہیں ان کو بغير کسی تحکیمی ہست کے تسلیم کرے۔

الغرض و حمی اللہ ہم کو خدا کی معرفت کی منزل تک ہماری عقل پر پڑی باندھ کر نہیں سے جاتی بلکہ وہ ہماری عقل ہی کو آفاق و انفس کے اندر خدا کی صفات اور اس کے سنن و قوانین کا مشاہدہ کرائی ہے۔ پھر ان صفات اور ان سنن و قوانین سے جو اخلاقی اصول پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان سے زندگی کے لیے بروضا بطریقہ بتاتا ہے، ان کو ہمارے سامنے رکھتی ہے اور پھر اس سے جزا و مزرا اور آخرت کے لیے جو راہنمائی ملتی ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اس طرح ہماری عقل ایک بالکل مارون ہادی کی راہنمائی میں خدا کی معرفت کے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے، جہاں تک اس کے

اندر پہنچنے کی صلاحیت ہے۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ درحقیقت قرآن حکیم ہی ہے جو خدا کی معرفت کا اصل  
ذریعہ ہے اور اسی کے تدبیس سے انسان کو تعلق، تفکر اور تذکر کی وہ صحیح تربیت ملتی ہے جس سے  
انسان خدا شناسی اور خدارسی کا اپنی بتا ہے اور اس راہ میں اس منزل تک پہنچتا ہے جہاں تک  
وہ پہنچ سکتا ہے۔

## تدریج قرآن اور اس کے آداب و شرائط

یہ بھلپی فصل میں واضح ہو چکا ہے کہ خدا کی معرفت یا دوسرے الفاظ میں "العلّم" کے حاصل ہونے کا اصلی ذریعہ قرآن علیکم ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے قرآن کی ہر تلاوت نتیجہ خیز نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ آداب و شرائط ہیں، اگر یہ ملاحظہ رکھے جائیں تو قرآن سے مذکورہ مقصد حاصل ہوتا ہے، اگر یہ ملاحظہ نہ رکھے جائیں تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو تذکریہ کا مقصد عزیز ہو، ان کو آداب و شرائط کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے، ہم اختصار کے ساتھ اس فصل میں یہ شرائط بیان کریں گے۔

**نیت کی پاکیزگی** اس ب سے پہلی چیز نیت کی پاکیزگی ہے۔ نیت کی پاکیزگی سے مطلب یہ ہے کہ ادمی قرآن مجید کو صرف ہدایت و معرفت حاصل کرنے کے لیے پڑھے، کوئی ذاتی غرض سامنے رکھ کر نہ پڑھے، اگر طلب معرفت و ہدایت کے سوا ادمی کے سامنے کوئی اور غرض ہوگی تو نہ صرف یہ کہ وہ قرآن کے فیض سے محروم رہے گا، بلکہ اندریشہ اس بات کا بھی ہے کہ قرآن سے جتنا دُور دہ اب تک رہا ہے، اس سے بھی کچھ زیادہ دور ہٹ جائے گا۔ اگر ادمی قرآن کو اس لیے پڑھے کہ لوگ اسے مفتر قرآن سمجھنے لگیں یا اس لیے پڑھے کہ کوئی تفسیر لکھ کر جلد اس سے شہرت اور نفع دنیاوی حاصل کر سکے، یا اس لیے پڑھے کہ

اس کے پچھا اپنے نظریات ہوں اور وہ اپنے ان نظریات کو قرآن کے مطع کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا خواہش مند ہو تو ممکن ہے اس کے یہ ارادے کسی حد تک پہنچے ہو جائیں لیکن بہاں تک فہم قرآن اور اس سے حصولِ معرفت کا تعلق ہے، اس طرح وہ اس کا دروازہ اپنے اپنے بالکل بند کرے گا۔

قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بدایت و معرفت کا صحیفہ بنایا کہ اُنہا ہے اور ہر آدمی کے اندر طلبِ بدایت و معرفت کا داعیہ و دلیلت کر دیا ہے اگر اسی داعیہ کے تحت آدمی قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس سے اپنی کوشش اور اشد تعالیٰ کی توفیق کے مطابق فیض پاتا ہے، اور اگر اس داعیہ کے علاوہ کسی اور خواہش کے تحت وہ قرآن کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اُنکل اہلِ فاؤنڈی کے اصول کے مطابق وہ وہی چیز پاتا ہے جس کا وہ طلب گار ہوتا ہے، قرآن مجید کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ بتتوں کو گراہ کرتا ہے اور بتتوں کو بدایت دیتا ہے۔ اور یہ اصول بیان فرمائے کے بعد ساختہ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ گراہ ان لوگوں کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں یعنی جو لوگ اپنی انگراظن کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ بدایت سے بھی ضلالت ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اشد تعالیٰ وہی چیز دیتا ہے جس کے وہ بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص کبھی جا کر بھی بتتوں ہی کو یاد کرتا ہے تو وہ ہرگز اس بات کا سزاوار نہیں ہے کہ اس پر توحید کے روز کھوئے جائیں اگر کوئی شخص چھوٹوں کے اندر سے بھی کاشتے ہی جمع کرنے کا شوق رکھتا ہے تو ہرگز اس بات کا سختی نہیں ہے کہ اس کو چھوٹوں کی خوشبو نصیب ہو۔ اگر ایک شخص اپنے فردی طبیعت کے سببے علاج کو بھی بیماری ہی بنتا یہتا ہے تو وہ اسی بات کے لائق ہے کہ اس کو شفا حاصل ہونے کے بجائے اس کی بیماری میں اضافہ ہو، اسی حقیقت کی طرف قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی مندرجہ ذیل آیت میں اشارہ فرمایا ہے،

**أَوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْأَصْنَالَةَ**      یہ لوگ ہیں جنہوں نے بدایت کے بدے  
**بِالْهُدَى فَمَا رَبَحُتْ تِحْمَدُهُمْ**      گراہی کو پسند کیا توان کی یہ تجارت ان  
**وَمَا كَانَ أَذُنُّهُمْ مُهْتَدِينَ هـ**      کے لیے نفع بخش نہ ہوئی اور وہ بدایت

(بقرہ: ۱۶) پانے والے نہ ہوتے۔

## **قرآن کو ایک بزرگ کلام مانا جائے**

دوسری چیز ہے کہ قرآن مجید کو ایک اعلیٰ اور بزرگ کلام مان کر اسی حیثیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر دل میں قرآن مجید کی پوری عظمت و اہمیت نہ ہو تو آدمی اس کو سمجھنے اور اس کے حقائق و معارف کے دریافت کرنے پر وہ محنت صرف نہیں کر سکتا جو اس کے خزانہ حکمت سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کو یہ بات کچھ عجب سی معلوم ہو گی کہ ایک کتاب کے متعلق اس کے جانشی سے پہلے ہی جن ملن قائم کر لیا جائے کہ وہ یہی روپ حکمت اور اعلیٰ کتاب ہے۔ میکن غور کیجیے تو قرآن مجید کے متعلق اس قسم کا پیشگی مُحن ملن فدا بھی تعبیر اشکن نہیں ہے، قرآن مجید کوئی ایسی پیشگی نہیں ہے جو بالکل مجهول ہو۔ وہ اپنے پیچھے ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے، اس کے کارنا میں نہایت شاندار ہیں، ذہنوں اور دماغوں کی تبدیلی میں اس کتاب نے جو معجزہ دکھایا ہے، آج تک کسی کتاب نے بھی یہ معجزہ نہیں دکھایا ہے۔

پھر یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ دنیا کی آبادی کا ایک عظیم حصہ اس گونہ صرف ایک کتاب مانتا ہے بلکہ اس کو خدائی اور آسمانی کتاب مانتا ہے، اس کو لوحِ محفوظ سے اتنا ہوا کلام مانتا ہے، اس کو ایک ایسا معجزہ کلام مانتا ہے جس کی نظرِ انسان پیش کر سکتے اور وہ جنت پیش کر سکتے۔ ایک ایسا کلام جس کے ماضی اور جس کے حاضر کے متعلق یہ شاذ ہیں اور لوگوں کے یہ احساسات موجود ہوں، ابھر حال ایک اہمیت رکھنے والا کلام ہے۔ اور آدمی اس کو سمجھنے کا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب اس کی یہ عظمت و اہمیت اس کے پیش نظر ہو۔ اگر یہ اہمیت اس کے سامنے نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ آدمی کا ذہن اس کو اس اہتمام کا مستحق سمجھے جو اہتمام اس کے لیے فی الواقع مطلوب ہے۔ اگر کسی رقبہ زمین کے متعلق یہ علم ہو کہ وہ سے سونا نکلتا رہا ہے اور کسی زمانے میں دہاں سے کافی سونا برآمد ہو جپکا ہے تو تو قعیبی کی جاتی ہے کہ اگر کھدائی کی جائی تر دہاں سے سونا ہی نکلے گا اور پھر اس کی اسی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کا سر دسامن کیا جاتا ہے اور اس پر محنت صرف کی جاتی

ہے۔ لیکن اگر ایک معدن کے متعلق یہ سمجھ دیا جائے کہ یہ کھو رہا ہے یا یہ کہ اگر یہاں محنت کی جائے تو زیادہ سے زیادہ یہاں سے کوئی نہ یا چونا فراہم ہو گا تو اس پر یا تو کوئی سرے سے اپنا وقت ہی ضائع کرنا پسند نہیں کرے گا یا پسند کرے گا تو صرف اس حد تک، جس حد تک اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے کی توقع ہوگی۔

یہ تبیہہ اس یہی ضروری ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ایسی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ اس کو اس توجہ اور اہتمام کا مستحق سمجھا جائے جو اس سے فقہی اتفاق کے لیے ضروری ہے یہ غلط فہمیاں قرآن مجید کے مانشے والوں اور اس کے منکروں، دونوں کے اندر موجود ہیں۔ جو اس کے منکرین ہیں وہ اس بات کا تراکیت حد تک اعتراف کرتے ہیں کہ ایک خاص دور میں اس کتاب کے ذریعہ سے کچھ اصلاحات واقع ہوئیں۔ لیکن ان کے خیال میں وہ زمانہ اب گذر چکا ہے جو اب کے بد و دل کے لیے جن کے مسائل سیدھے سادھے تھے، ان لوگوں کے خیال میں یہ کتاب مفید ہو سکتی تھی اور ان کے لیے بلاشبہ یہ مفید ثابت ہوئی لیکن موجودہ زمانے کے الجھے ہوئے مسائل کو سمجھانے کے لیے وہ اس کتاب کو بالکل ناکافی سمجھتے ہیں۔

جو اس کے مانشے والے ہیں ان میں بہت سے لوگ اس کو محض حرام و حلال کے بدلائے کا ایک فقہی ضابطہ سمجھتے ہیں اور فقرہ کے احکام علیحدہ مرتب ہو جانے کے بعد، ان کی نکاحوں میں اگر اس کی کوئی اہمیت باقی رہ گئی ہے تو وہ صرف تبرک کے نقطہ نظر سے باقی رہ گئی ہے۔ اربابِ تصورت اس کو محض علم ظاہر کا صحیفہ سمجھتے ہیں۔ علم باطن کے اسرار و حقائق ان کے زدیک کشف و مشاہدہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو اپنی اپنی فصیحتوں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں، وہ اس کے اندر کسی گمراہی حکمت یا کسی بلند فلسفہ کی کوئی توقع نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگ اس کو زرع کی سختیوں کے دور کرنے اور ایصالِ تواب کی کتاب سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو دفع آفات و بلیات کا تعویذ سمجھتے ہیں اور جس طرح عیسائی دل کی جانب والے جیب میں انجیل رکھے پھر تے ہیں اسی طرح اس خیال کے مسلمان جب گھر سے نکلتے ہیں تو جیب میں قرآن رکھ کر نکلتے ہیں۔ اس طرح کی غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے مسلمان ناممکن ہے کہ قرآن حکیم سے وہ فائدہ اٹھاسکیں جس کے لیے

وہ فی الحقیقت نازل ہوا ہے۔ وہ اس کو انہی خیر اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں جن اغراض کے لیے  
ان کے خیال میں یہ اکذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کسی شخص کو ایک ترپ دی جائے  
کہ وہ اس کے ذریعہ سے دشمنوں کے قلعہ کو سمارکر دے لیکن وہ اس کو مجھ پر مارنے کی ایک مشین سمجھ دیتی ہے  
اور اسی خیر مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دے۔

## قرآن حکیم سے حقیقی استفادہ قرآن کے تقاضوں کے مطابق بد لئے کا عزم

یہ ہے کہ آدمی کے اندر قرآن مجید کے دتقاضوں کے مطابق اپنے ظاہر دباطن کو بد لئے کا مضبوط الاد  
موجود ہو۔ ایک شخص جس قرآن مجید کو گھری نگاہ سے پڑھتا ہے تو وہ ہر قدم پر یہ محسوس کرتا ہے  
کہ قرآن کے تفاصیل اور مطابق اس کی اپنی خواہشوں اور چاہتوں سے بالکل مختلف ہیں، وہ دیکھتا  
ہے کہ اس کے تصورات و نظریات بھی قرآن سے بیشتر الگ ہیں اور اس کے معاملات و تعلقات  
بھی قرآن کے مقرر کردہ حدود سے بالکل ہٹتے ہوئے ہیں، وہ اپنے باطن کو بھی قرآن سے دود  
پاتا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی اس سے بالکل منحرف محسوس کرتا ہے، اس فرق و اختلاف کو  
محسوس کر کے ایک صاحبِ عزم اور ایک حق طلب آدمی تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خواہ کچھ ہمیں اپنے  
اپ کو قرآن کے تقاضوں کے مطابق بنانے کے رہوں گا اور وہ ہر قسم کی قربانیاں کر کے، ہر طرح کے  
مصادب جبیل کر، ہر قسم کی ناگواریاں پرواشت کر کے اپنے اپ کو قرآن کے مطابق بنانے کی گوش  
کرتا ہے اور بالآخر اپنے اپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھال ہی لیتا ہے لیکن جو شخص صاحبِ عزم  
نہیں ہوتا یا اس کے اندر حق شناسی اور حق طلبی کا سچا جند پر نہیں ہوتا وہ اس خلیج کو پانٹنے کی  
ہمت نہیں کر سکتا جو وہ اپنے اور قرآن کے درمیان حاصل پاتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ  
اگر میں اپنے عقائد و تصورات کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کروں تو مجھے ذہنی اور فکری  
یقینیت سے نیا جنم لینا پڑے گا۔ اسے پہ نظر آتا ہے کہ اگر میں اپنے اعمال و اخلاق کو قرآن کے  
سانچے میں ڈھانلنے کی کوشش کروں تو میرا ماحول میرے لیے بالکل اجنبی ہیں کے رہ جائے گا۔  
اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے اپ کو ان مقاصد کی تکمیل میں سرگرم کروں جن کا مطالبہ  
مجھ سے قرآن کر رہا ہے تو میں جن مناقع اور جن لذات سے منقطع ہو رہا ہوں ان سے منقطع ہونا تو

الگ رہا عجب نہیں کہ ان کے سبب سے جیل اور بچانی کی سزاوں سے دو چار ہوڑا پڑے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اپنے وسائل معاش کو قرآن کے فابطہ حلال و حرام کی کسوٹی پر پکھوں تو اج ہجو عیش مجھے حاصل ہے اس سے محروم ہو کر شاید اپنی نا ان شیئیں کے لیے بھی فکر مند ہو نا پڑے۔ ان خطاوں کے مقابل میں ڈٹ جانا اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کہتہ باندھ لینا ہر شخص کا کام نہیں ہے، اصرفت مردانہ کا رہی ان گھائیوں کو پار کر سکتے ہیں معمولی ہمت دار ادا کے لوگ یہیں سے اپنا رُخ پدل دیتے ہیں۔ بعض المظہر قسم کے لوگ جو اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے زیادہ خراہش مند نہیں ہوتے وہ تریکتے ہوتے اپنے نفس کی خواہشوں کے سچھپے پل کھرے ہتے ہیں کہ قرآن مجید کا راستہ ہے تو بالکل صحیح لیکن ہمارے لیے اس پر چلتا ہمایت شکلی ہے، اس لیے ہم اسی راہ پر جلیں گے جس راہ پر ہم کو ہمارا نفس لے جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی کمزوریوں کو غربت اور اپنے نفاق کو ایمان کے روپ میں پیش کرتے کاشوق رکھتے ہوئی وہ اپنا یہ شوق مختلف تدبیروں سے پورا کرتے ہیں۔ بعض اضطرار اور مجبوری کے بہاؤں سے اپنے لیے ناجائز کو جائز اور حرام کو حلال بناتے ہیں، بعض ڈواز کا راہ اور لایعنی تاویلات کے ذریعے سے باطل پر جتن کامل چڑھاتے ہیں، بعض وقت کے تقاضوں اور مصالح کی آڑ تماش کر کے ان کے سچھپے چھپتے ہیں بعض قرآن میں اس قسم کی تحریفیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس قسم کی تحریفیں ہیودتے قدریت میں کی تھیں۔ بعض کفر دایمان کے نیچے سے اپنے لیے ایک الگ راہ پیدا کرتے کی کوشش کرتے ہیں، لایعنی قرآن کے جس حصہ کو وہ اپنی خواہشوں کے مطابق پاتے ہیں اس کی پریوی کرتے ہیں اور جس حصہ کو اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں پاتے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

یہ ساری راہیں شیطان کی نکال جوئی ہیں اور ان میں سے جس راہ کو بھی آدمی اختیار کرے گا وہ اس کو سیدھے ہلاکت کے گزھے کی طرف لے جائے گی، کامیابی اور فلاح کا راستہ صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قرآن کے ساتھے میں ڈھانے کی ہمت کر لے اور اس کے لیے ہر قربانی پر آمادہ ہو جائے۔ کچھ عرصت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ارادہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس آزمائش میں اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سعادت کی راہیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو خدا اس

کے بیٹے دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے، اگر ایک ماہول سے وہ پھینکا جاتا ہے تو دوسرا ماہول اُس کے اس کے خیر مقدم کے بیٹے اگر ٹڑھتا ہے۔ اگر ایک زمین اس کو پناہ دینے سے انکار کر دیتی ہے تو دوسری سرز میں اس کے لیے اپنی آنکھ کھول دیتی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن حکیم نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ چَاهَدُوا فِيْنَا لِنَهْرِنَّا هُنَّا هُنَّا  
سُبْلِكَنَا مَوْرَاتَ اللَّهِ الْمَعَةَ  
ضَرَدَ أُنْ پِرْ أُنْ رَا هِنْ كَھُولِنَّ گَے اور  
الْمُحْسِنِنَّ ۝ (عنکبوت ۲۹)

**قرآن سے استفادہ کے بیٹے چوتھی شرط تدبیر ہے، اس شرط کا ذکر خود قرآن نے بال تدبیر پار کیا ہے:**

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ  
كِيابِرِ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے  
عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا۔  
دول پر تائے چڑھے ہوئے ہیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم جو قرآن کے مخاطب اول تھے، وہ قرآن مجید کو برادر تدبیر کے ساتھ پڑھتے تھے اور جو لوگ جتنا ہی تدبیر کرتے تھے وہ اتنا ہی قرآن مجید کے فہم میں متاز تھے۔ صحابہ نے قرآن مجید کے مطالعہ کرتے تھے اس طرح کے قرآنی حلقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص دلچسپی تھی اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں خلفاء نے راشدین با شخص حضرت عمر راس قسم کے حلقوں سے قرآن کے ماہرین سے برادر نہایت گمراہی دلچسپی لیتے رہے۔

محض تبرک کے طور پر الفاظ کی تلاوت کر لینا اور قرآن کے معانی کی طرف وصیان نہ کرنا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ تو اس وقت سے راجح ہوا ہے جب لوگوں نے قرآن مجید کو ایک صحیفہ ہدایت و معرفت اور ایک خزانہ علم و حکمت سمجھنے کے بجائے محض حصوں برکت کی ایک کتاب سمجھنا شروع کر دیا۔ جب زندگی کے مسائل سے قرآن کا تعلق صرف اس قدر رہ گیا کہ مذکون اس کے ذریعے سے جانکرنی کی سختیوں کو آسان کیا جائے اور مرنے کے بعد اس کے ذریعے سے بیت کو ایصال ثواب کیا جائے۔ جب زندگی کے تشیب و فراز میں راہنمائی کے بجائے

اُس کا صرف صرف یہ رہ گیا کہ ہم جس خلافت کا بھی ارتکاب کریں، اس کے قریب سے اس کا افتتاح کریں تاکہ یہ پرکشہ کے کراس خلافت کو ہدایت بنا دیا کے۔ جب لوگوں نے اس کو تعریز کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تو اک جب وہ اپنے شیطانی مقاصد کی سعی کے لیے ملکیں تو قرآن ان کی حفاظت کرے کہ اس راہ سے کہیں ان کو کوئی گزندہ ہمچن جائے۔

دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس نے قرآن سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہو کہ اس کا حقیقت فائدہ صرف اس شکل میں حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اس کو پوئے خود وندبر کے ساتھ پڑھا جائے لیکن یہ بھی ایک ناقابلِ تزوید حقیقت ہے کہ دنیا میں یہی کتاب ہے جو ہمیشہ الحمد و بند کر کے پڑھ جاتی ہے۔ محوی سے معمری پیغمبرؐؐ کی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے دماغ کو حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس کو سمجھ سکے، لیکن قرآن کے ساتھ لوگوں کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دماغ پر ٹھیپی باندھ لیتے ہیں کہ مبارا کہیں اس کے کسی لفظ کا مفہوم دماغ کو چھپو جائے۔

**تفویض الٰہ اللہ** [قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں جو مشکلات پیش آئیں آدمی ان سے بد دل اور مالپوس ہونے یا ان کے بعد سے قرآن مجید سے بدگان یا اس پر عترض ہونے کے بجائے اپنی الجھن کو خدا کے سامنے پیش کرے اور اس سے مدد اور راہنمائی طلب کرے۔ قرآن میں آدمی کسی کسی ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے "قولِ تفصیل" کے نیچے وہ گیا ہے جس کے بارگاں کو اٹھانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کسی کسی ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی علمی مشکل آگئی ہے جس کا حل ہر ناکسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کی علمی اور عملی مشکلوں سے نکلنے کا صحیح اور آزاد مودہ راستہ صرف یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے برابر دعا اور قرآن مجید پر برابر غور کرتا ہے اگر قرآن مجید یاد ہو تو شب کی نمازوں میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ان شاہزادیاں کی ساری الجھنیں دور اور ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی اور ان مشکلوں کے حل ہونے سے اس پر علم و حکمت کے بودرواز سے کھیلیں گے وہ دروازے کے کسی اور طرح اس پر ہرگز نہ کھلتے مگر جب فریل دعا بھی اس طرح کے حالات میں پڑھتے رہنا ناہیں نافع ہے:

اسے اشد؛ میں تیرا غلام، تیرے غلام کھائیا،  
اور تیری ونڈی کاٹیا ہوں، ہیری پیشانی تیری  
مُسْتَحی میں ہے، مجھ پر تیرا حکم جاری ہے۔ ہیرے  
ہارہ میں تیرا بیضہ حق ہے، میں تجھے سے تیرے  
ہراس نام کے واسطہ جو تیرا ہے، ہب سے کوئی نہ  
اپنے آپ کو پکارا ہے، یا جس کوئی نہ اپنی کتاب  
میں آثارا ہے، یا جس کوئی نہ اپنی مخلوق میں سے  
کسی کو سکھایا ہے، یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو  
قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینہ کا نہ،  
میرے غم کا مداوا اور میرے فکر و پیشان کا علاج

بنائیے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ  
إِنِّي أَمْتَكَ نَاصِيَتِي وَبَدِيكَ  
مَا أَصَّفَ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي  
قَضَاءِكَ أَسْتَدْلُكَ بِكُلِّ إِسْمٍ  
هُوَ لَكَ سَمِيُّتَ بِهِ نَفْسَكَ  
أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَمْتَهُ  
أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَنْ تَجْعَلَ  
الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ  
صَدْرِي وَجَلَاءَ حُرْبِي  
وَذَهَابَ هَمِي وَغَيْبِي۔

## اُسواہ حسنہ

معرفت الٰی اور حضولِ تذکرہ کا دوسرا قابلٰ اختصار ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے لیکن آپ کے اسوہ حسنہ سے صحیح فیض ایک طالبِ تذکرہ صرف اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو صحیح قسم کی نسبت حاصل ہو، اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ آپ کے منصبِ رسالت کی یقینیت اور آپ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے یہ خاص طور پر یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ حمد صحابہ و تابعیٰ کے گذشتہ کے بعد سے اس چیز کے بارہ میں ہمارے درمیان بہت کچھ اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اس اختلاف کا اثر حضولِ معرفت و تذکرہ کے اس مقصد پر بھی لازماً پڑتا ہے جو آپ کی ذاتِ گرامی سے وابستہ ہے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اختصار کے ساتھ نقطہ ہائے نظر کا یہ اختلاف واضح کر دیں۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ یہ بتاتے کی کوشش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کس نوعیت کی وابستگی معرفت الٰی کے مقصد کے لیے کام آمد ہو سکتی ہے اور یہ وابستگی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے کس قسم کی جدوجہدِ عمل میں لانی ہے۔

## نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصبِ رسالت سے متعلق چار بیاناتی غلط فہمیاں

کی جیشیت اور آپ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کے بارہ میں ہمارے اندر جو غلط تصورات پیدا ہو چکے ہیں، وہ ہیں توہین کے لیکن ہم ان کی تفصیل میں نہیں جانتا چاہتے۔ ہم صرف چار بیاناتی غلط فہمیوں کی طرف اشارہ کریں گے جو ہمارے چار بڑے بڑے گروہوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔

۱۔ ہمارے اندر ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جیشیت سمجھتا ہے جو ایک کتاب اور مکتوب الیہ کے درمیان کسی محدث ہر کارہ اور ایک دیانت دار شخصی رسال کی ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اپنے بندوں پر نازل فرمان چاہی وہ آپ نے ان کو پہنچا دی۔ اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا۔ وہ اپنے اسی تصور کے حاطط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت تعین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ منصبِ رسالت کا اس قدر حقیر تصور رکھتے ہیں، ان کے یہے معرفتِ اللہ کے نقطہ نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہ جاتی اور جب آپ کی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہ جاتی تو آپ کی ذات کے ساتھ کسی غیر معمولی والبتنگی کے لیے بھی کوئی معقول وجہ علم نہیں ہوتی جب اصل کام آپ کا صرف خط کا پہنچا دینا تھا اور آپ خط پہنچا چکے تو اس کے بعد اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ اصل خط کی ہے یا زیادہ سے زیادہ کاتب کی۔ ذکر خط کے لانے والے قاصد کی۔ ہم کے بعد تو اگر قاصد سرے سے درمیان سے غائب بھی ہو جائے، جب بھی ان حضرات کے نقطہ نظر سے کوئی خلا نہیں واقع ہونا چاہیے۔

رسالت کا یہ تصور بیاناتی طور پر غلط ہے۔ نبی، خدا اور اُس کے بندوں کے درمیان صرف ایک قاصد اور نامہ برہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک معلم بھی ہوتا ہے، ایک فریضی بھی ہوتا ہے، ایک مرشد بھی ہوتا ہے، ایک بتین بھی ہوتا ہے اور ایک بشر بھی ہوتا ہے، ایک مُند بھی ہوتا ہے، ایک سراج میر بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک واجب الاطاعت

ہادی بھی ہوتا ہے اور پھر اپنی ان تمام خصوصیتوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ارشاد و ہدایت کے فرائض کے سلسلہ میں براہ راست خدا کی نگرانی میں ہوتا ہے جس کے بیب سے وہ غلطی اور نگرانی کے تمام خطروں سے بالکل محفوظ و مامروں ہوتا ہے اس کا فریضہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ خدا کی کتاب بندوں کو پہنچاوے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اس کتاب کے تمام اسرار و روز لوگوں کو سمجھاوے، اس کتاب پر عمل کر کے دکھاوے، اس کتاب پر عمل کرنے والوں کا ایک گروہ اپنی تعلیم و تربیت سے تیار کر دے اور اس کتاب کے مضرات، ان کی انفرادی اجتماعی زندگیوں میں تباہی کر دے۔ ان سائے کاموں میں اس کی اپنی ذات ایک عامل کی حیثیت سے بھی شریک ہوتی ہے اور ایک راہنمائی حیثیت سے بھی شریک ہوتی ہے اور اپنی اس دُوری حیثیت میں جو کچھ وہ کہتا ہے پاکرتا ہے یا جس پیغیر کو وہ منظور کر لیتا ہے، اس کو اس کتاب کے اور اس کے منصب رسالت کے تحت ہی سمجھا جاتا ہے اور اسی حیثیت سے اس کو قبول کیا جاتا ہے۔

رسالت کے اس تصور کو سلمانے رکھ کر خود کیجیئے تو معلوم ہو گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جتنی گوناگوں نو عیتیں کے تعلقات رکھتے ہیں اتنی گوناگوں نو عیتیں کے تعلقات نہ دنیا میں ہمارے کسی کے ساتھ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں آپ سے آپ یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان گوناگوں تعلقات کی نو عیت سے اچھی طرح واقف نہ ہو یا ان میں سے بعض کا یا کل کامنکر ہو، تو وہ ہرگز آپ کی ذات بارگات سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جس کے لیے آپ کی بخشش ہوئی ہے۔

۴۔ دوسرا گروہ جو منصب رسالت کے متعلق غلط فہمیوں میں بتلا ہے وہ ہمارے ارباب تصور کا ہے، یہ لوگ اوقل تو شریعت اور طریقت اور علم ظاہر اور علم باطن کی الگ الگ حد بندیاں قائم کیے ہوئے ہیں۔ پھر مزید ستم یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں علموں کو ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں تک علم ظاہر یا علم شریعت کا تعلق ہے اس کی تعلیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو دی، لیکن علم باطن یا علم طریقت کی تعلیم آپ نے بطور ایک راز کے صرف چند مخصوص لوگوں ہی کو بتائی اور پھر انہی لوگوں کے واسطے سے

یہ علم سینہ پر بینہ تصور کے مختلف سلسلوں تک منتقل ہوا ہے اور وہی اس راز کے امین بنتے۔

اس خیال کے اندر جو خرابیاں ہیں اور اس سے منصب بہوت کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر اس سے معرفت اللہ کے لفظ العین کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی طرف ہم اس کتاب کی پہلی فصل میں بعض اشارات کر چکے ہیں۔ یہ خیال اگرچہ غلط ہے، لیکن غلط ہونے کے باوجود وہماں سے نزدیک کم از کم اس پہلو سے غنیمت ہے ہے کہ اس میں علم ظاہر اور علم باطن دونوں کا سر حشر پر نبی ہی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علم شریعت کا سر پورہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا گیا ہو لیکن علم طریقت کا سر حشر کسی اور کو قرار دے دیا گیا ہو۔ در نہ اہل تصور میں تو ایک ایسا گروہ بھی ہے جو بہوت اور ولایت کے دو الگ الگ بالکل متوازنی منصب تسلیم کرتا ہے پھر ان میں سے ایک کو وہ علم ظاہر (معنی علم شریعت) کا سر حشر پر قرار دیتا ہے اور دوسرے کو علم باطن کا۔ اس گروہ کے نزدیک اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہیں طرح خاتم الانبیاء کا منصب مخصوص ہے، اسی طرح بعض اشخاص کے یہیں ان کے نزدیک خاتم الاطیف کا منصب مخصوص ہے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں منصب بالکل دو متوازنی نظاموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دو مستقل متوازنی نظاموں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ان کے درمیان رقبابت اور کشکش کی حالت ہے۔ چنانچہ ان کے درمیان بھی برابر قیامت ہو چکی رہتی ہیں۔ طریقت کے علمبردار شریعت کے حامیوں کو ظاہر پرست اور بے مغز قرار دیتے ہیں اور شریعت کے حامی، طریقت کے حامیوں کو مبتدع اور گراہ تھرا تے ہیں اور اس تعصّب اور غلوتے ہیں اس سے یہ سکل اختیار کر لی ہے کہ بہت سے صوفی حضرات شریعت کو اپنی طریقت کے مقابلے میں پکا کے برابر بھی وقعت نہیں دیتے اور معرفت اللہ کے نقطہ نظر سے ان کی بیگانگا ہوں۔ میں جو مرتبہ شیخ نجی الدین ابن عربی کا ہے وہ العذاب اندھہ کسی نبی کا بھی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص منصب رسالت کے متعلق اس سوء ظن میں بنتلا ہو جائے تو اس کو معرفت اللہ کا ایک فرزہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ زعم خوشی باطن میں اتنا کمال حاصل کرے کہ ہوا میں اڑنے اور پانی پر دوڑنے لگ جائے معرفت اللہ کا اصلی ذریعہ صرف انبیاء

علیم السلام ہی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی شریعت اُفری اور کامل شریعت ہے اس وجہ سے لازماً آپ خاتم الادیاء اور خاتم العارفین بھی ہیں معرفت کا جو مقام آپ کو حاصل ہوا، وہ نہ کسی اور کو حاصل ہوا اور نہ ہو گا اور علم کا جو خزانہ آپ کی شریعت کے اندر پوشیدہ ہے وہ خزانہ نہ کسی اور چیز کے اندر ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔

۳ - ہمارے اندر ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کی ایک قابل احترام شخصیت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ساری قوم چوں کہ آپ کو رسول کہتی ہے اس وجہ سے یہ لوگ بھی آپ کو رسول ہی کہتے ہیں اور قومی روایات کے ذریعہ اثر آپ کے یہی تجربت اور عصیت کا جذبہ بھی ایک حد تک رکھتے ہیں، لیکن یہ بات ان لوگوں کے دل میں کسی طرح بھی نہیں وضشتی کہ آپ ہمیں معاملہ میں جو کچھ فرمائے ہیں وہی حرف آخر ہے اور انسان کی دنیوی اور اخروی سعادت کا انحصار بس اس کو ہے چون وہی امان لیتے ہی پڑھے۔ ان لوگوں کے نزدیک آپ نے جو کچھ بتایا اور سکھایا وہ ایک مخصوص زمانہ اور ایک مخصوص ماحول کے لیے توبہ شک مٹھیک تھا لیکن علم دروشنی کے اس زمانے میں بھی انہی چیزوں پر اصرار کیے چلے جانا، ان کے خیال میں جمالت اور حافظت ہے، اب آپ کی بتائی ہوئی بالوں میں سے اگر کچھ چیزوں مانے جانے کے قابل ہیں

— تیریا تو وہ ہیں جو خود ان کی اپنی خراہشات کے مطابق ہیں یادہ ہیں جن کو خوش قسمتی سے موجودہ زمانے میں بھی قدر و احترام کی لگا ہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو یہ لوگ دل سے گوارا کرتے کے لیے تیار ہوں اگرچہ اپنی کمزوری اور بُرداری کے سبب سے اس کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت نہ رکھتے ہوں۔

۴ - ہمارے عوام انس کا ایک بڑا طبقہ ایسے لوگوں پر بھی مشتمل ہے، جن کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بس ایک اندھی بھری عقیدت کا مرتع ہے، وہ مختلف اوقات میں اپنی اس عقیدت کا اظہار کر کے اپنے خیال میں آپ کو نبوت و رسالت کے تمام حقوق و واجبات سے اپنے آپ کو بدل دش کر لیتے ہیں، انہیں اس سے کچھ بحث نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ نے دنیا کی تعلیم دی، اپنے بعد

امست پر کیا ذمہ داریاں جھپڑ گئے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، ان سوالوں پر خود کرنے اور ان کے تقاضے پرے کرنے کی بجائے وہ اپنے تصورات کے مطابق آپ کی ذات کے ساتھ اظہار عقیدت کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، اگرچہ اس اظہار عقیدت کا طریقہ صریحاً آپ کی تعلیمات اور بدایات کے خلاف ہی ہو۔ جاہل پیروں اور مولویوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عوام کے اس جذبہ عقیدت سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ شریعت کی حقیقی ذمہ داریوں سے محظوظ رہتے ہوئے عوام میں مقبول بننے کا یہ راستہ بہت سہل ہے کہ عوام کی اس جاہلیہ عقیدت کی حوصلہ افزائی کی جائے چنانچہ انہوں نے ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت سے اٹھا کر خدائی کے منصب پر منکن کرنے کی کوشش کی، اور اپنے زلم کے مطابق اس کے دلائل فراہم کیے۔ دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت و محبت کے ایسے طریقے ایجاد کیے جن سے ان کو اپنی خواہشات نفس کی تسلیکین کے لیے شریعت کی تمام پابندیوں سے پوری آزادی مل جائے؛ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی محبت و عقیدت کا کلذہ پڑھتے ہوئے ہوئے ان تمام عفتائد کی بنیادیں بھی دھا دی گئی ہیں جن سے معرفتِ الہی کی راہیں کھلتی تھیں اور وہ نام اعمال و اخلاق بھی برپا کر دیے گئے جو اس معرفت کو جلا دیتے ہوئے تھے۔ ہمیں ذات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے راہنمائی اور ان کو خدا کا راستہ دکھائے، اسی کے نام کو ان ظالموں نے اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ لوگوں کو خدا کے راستہ سے ہٹا کر ان کو گراہی کے راستوں پر ڈال دیں۔

## نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی صحیح نوعیت

اور آپ کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت سے متعلق ہمارے اندر جو گراہیاں آج پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے ہم نے یہ چند بڑی بڑی گراہیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر معرفتِ الہی کے حصوں کا واحد راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے تو ان گراہیوں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ نہ تو ہمارا صحیح ربط ہی قائم ہو سکتا ہے اور نہ وہ چیزیں ہی ہم آپ سے حاصل کر سکتے ہیں

جس کے حاصل ہونے کا آپ واحد ذریعہ ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جن بینا دوں پر قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق استوار کرنے کی ہدایت کی ہے ہم وہ بینا دیں واضح کر دیں تاکہ جو شخص خدا تک پہنچنا چاہے وہ خدا تک پہنچنے کے واحد ذریعہ کے ساتھ اپنی تھیک تھیک وابستگی قائم کر سکے۔

ہمارے نزدیک قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مندرجہ ذیل چار بینا دوں پر قائم کیا ہے۔

ایمان | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی پہلی بینا ایمان ہے، ایمان کا مطلب صرف یہ مان لینا ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں بلکہ اس ایمان کی اصل روح آپ کی ذات پر سچا اور پکا اعتقاد ہے — اس بات پر اعتماد کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اس بات پر اعتماد کہ آپ کے ہر قول اور ہر فعل کے اندر گھری عکست ہے اگرچہ وہ حکمت ہماری سمجھیں نہ اڑی ہو — اس بات پر اعتماد کہ آپ نے جو راہ دکھائی ہے اگرچہ بظاہر اس میں کتنے ہی خطرات نظر آرہے ہوں لیکن نجات اور فلاح کی تحقیقی راہ وہی ہے — اس بات پر اعتماد کہ آپ نے زندگی کے جو اصول سکھائے ہیں وہ وقتی اور عارضی نہیں ہیں بلکہ وہ دائمی اور اپدی ہیں۔ اور انسان ان سے کبھی بھی مستغفی نہیں ہو سکے گا اور سب سے بڑھ کر اس بات پر اعتماد کہ خدا کی معرفت کا جو طریقہ آپ نے بتایا اور سکھایا ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی اور طریقہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔

جب تک ادمی کے اندر یہ اعتماد نہ پیدا ہو، مجرد اس تصدیق سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ادمی ایمان کی تحقیقی لذت سے آشنا نہیں ہوتا، اور نریہ ایمان اس معرفت کے نقطہ نظر سے کچھ کار آمد ہوتا ہے جو اس ایمان کی تحقیقی غایت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

ذاق طعم الايمان من رضى ایمان کا مزہ اس نے چکھا جو اللہ کے اپنارب

با الله سرتبا و با لا إسلام دينما ہونے پر، اسلام کے اپنا دین ہونے پر اور

د بِحَمْدِ رَسُولِكَلا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اپنارب مول ہونے

(مسلم) پڑھنے ہو گیا۔

یہی اعتقاد ہے جس کی تفہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمرؓ کو دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ ایک مرتبہ آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہؐ ہم کبھی کبھی یہود سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو یہی اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض پانیں نوٹ کر لیا کریں۔ ۷۸

آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہود و نصاریٰ اپنے دین کے بارہ میں حیرانیوں میں پڑ گئے اسی طرح تم بھی حیرانیوں میں پڑنا چاہتے ہو، میں نے تمہارے سامنے اللہ کے دین کو بالکل روشن اور شفاف صورت میں رکھا ہے۔ اگر اج موسیٰؑ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پروردی کے سوا چارہ کا رنہ تھا۔

یہی بات ایک دوسری روایت میں کچھ مختلف طریقہ پر وارد ہے جس کا عدم ہوتا ہے کہ آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے مذکورہ بالا سوال پر کچھ خفگی کا بھی انہمار فرمایا۔ حضرت عمرؓ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کا احساس ہرا تو وہ فوراً پکاراً ٹھٹھے۔

**رضیت بالله ربِّا و بالاسلام** ۷۹ میں اللہ کے اپنے رب ہونے پر اسلام کے دینا دینِ محمدؐ تبدیل ہے۔

کے اپنے بھی ہونے پر پوری طرح مطمئن ہوں؛

ان حدیثوں سے صاف واضح ہے کہ جہاں تک اللہ کی معرفت کا راستہ دکھانے اور خدا کی صراط مستقیم کو واضح کرنے کا تعلق ہے، یہ کام بہتر طریقہ پر نہیں کیا جسے صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دے دیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰؑ جیسے جلیل القدر پیغمبرِ بھی اگر آپ کے بعد ہوتے تو اسی طریقہ کی پروردی کرتے۔ ظاہر ہے کہ حق کی راہنمائی کے نقطہ نظر سے جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لا اُنہوئی شریعت کے بعد حضرت موسیٰؑ اور ان کی شریعت کی بھی کوئی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تو دوسرے اشخاص اور ان کے علوم و افکار اور نظر پاٹت و تجربات کی کیا وقعت باقی رہتی ہے۔ ۸۰ دوسرے علوم و افکار اگر کچھ قابلِ سماحت ہو سکتے ہیں تو صرف اس حد تک ہو سکتے ہیں جہاں تک وہ کتاب و مصنف کے موافق و مرید ہوں۔ اگر کوئی شخص اس حد سے پڑھو کہ کسی غکرو نفسکو کو

**لئے مشکراۃ باب الاعتصام بالکتاب و السنۃ ۸۱** مشکراۃ باب مذکور

یا کسی وجدان و کشف کو یا کسی طریقہ اور تجربہ کو نبی کے علم و عمل پر ترجیح فرمے دیا اس کے برابر ہی ٹھیک ہے  
یا اس کسوٹی پر جانچے بغیر ہی اس کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان  
کا سہی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ ایمان محس ایک فریب نفس ہے کیونکہ اس کا ایمان اب اعتماد  
سے بالکل خالی ہے جو اس ایمان کی اصل روح ہے۔

**اطاعت** نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی دوسری شرط اُپ کی کامل اطاعت  
ہے۔ دنیا کا کوئی نبی اور رسول بھی اس یہی نہیں بھیجا گیا کہ اس کو مان لیتے  
کی حد تک لوگ اس کو نبی اور رسول مان لیں بلکہ اس کے بھیجے جانے سے اصل شے جو مقصود ہی  
ہے وہ یہ ہے کہ اسی کی اطاعت بھی کی جائے اور زندگی کے معاملات میں جو احکام وہ آیات  
وہ وہ اس کی بے چون و چرا تسلیم کی جائے۔ اس حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں واضح  
فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا هُنَّ رَسُولٌ إِلَّا هُنَّ نَبِيٌّ بَشِّرٌ مِّنْ رُسُلِنَا ۖ وَمَنْ يُرِكْ  
كَرَاسِيرَكَ حَكْمَ اس کی اطاعت کی جائے۔

(نساء-۴۸)

دوسرا جگہ ہے کہ ادمی کے نیک اعمال کی تبلیغت کا انصار ہی اس بات پر ہے کہ  
وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اگر وہ اطاعت نہ کرے تو اس کے تمام اعمال رائیگاں ہو  
جائتے ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَهْمَنُوا أَطْبَعُوا اللَّهَۚ اسے ایمان لانے والوں ایش کی اطاعت کرو  
وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے  
أَعْمَالَكُمْ (محمد-۴۳) اعمال کو رائیگاں نہ کرو۔

رسولؐ کی اطاعت کے مطالیہ کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی اطاعت جو اصل مقصود ہے اس کا  
راستہ ہی یہ ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براؤ  
راست معاشر نہیں کرتا بلکہ اپنے رسول کے واسطے سے کرتا ہے۔ رسول ہی لوگوں کو اس کی ہدایات  
اور اس کے احکام سے آگاہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے جو ایش کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کے بھی

ضروری ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے۔ رسول کی یہ اطاعت ہی درحقیقت اللہ کی اطاعت ہے  
**مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ  
 کی اطاعت کی۔

رسول کا ہاتھ لوگوں کے لیے اللہ کے ہاتھ کا قائم مقام ہوتا ہے، جو لوگ رسول کے ہاتھ پر  
 بیعت کرتے ہیں وہ گہریا بالواسطہ اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں:

**إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَعْلَمُ اللَّهُ فَوْقَ عِلْمِ أَشْرَهِ** جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں، وہ  
 درحقیقت اشرہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں  
**أَيُّدِنْبِهْهُ**۔ (الفتوح - ۱۰) اشرہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔

خود احادیث میں بھی اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ یہ ہے  
 کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی جائے مثلاً:

**مَنْ أَطَاعَ حَمَدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى حَمَدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَهُمْ فَرَقٌ** جس نے محمد کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی  
 اطاعت کی اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے  
 عصی اللہ و حمد فرق تے اس کی نافرمانی کی، اللہ کے متنے والوں  
 اور نامنے والوں کے درمیان محمد ہی بین الناس۔

(بخاری) نشان امتیاز ہیں۔

قرآن مجید میں یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ یہ اطاعت بعض خلاہی اور رسی قسم کی طبق  
 نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اُسی پورے طور پر اپنے اُسپ کو خدا کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کے  
 تابع کر دے، اُسپ میں جتنے قصیہ اور مسئلے بھی پیدا ہوں، ان سب کے طے کرنے کے لیے  
 کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کیا جائے، اور پھر کتاب و سنت کے فیصلوں کو دل کے پورے  
 اطمینان اور طبیعت کی پوری رضامندی کے ساتھ قبول کیا جائے، ان کے خلاف دل کے اندر  
 کسی قسم کی بدگمانی یا شکایت نہ رہے، فرمایا ہے:

**فَلَمَّا دَرَأَ سَرِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقًّا** پس نہیں تیرے رب کی قسم وہ مرد نہیں ہیں  
**يُحَكِّمُكُوكَ فِيمَا شَجَرَ** جبکہ ان تمام معاملات میں جوان کے درمیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
لَا يَحِدُّ فَارقَةَ  
أَنْفُسِهِمْ حَرَجٌ مَّا فَصَدَّتَ  
وَبِسْلَمًا تَسْلِيْمًا  
پیدا ہوں وہ تم کر حکم نہ بنا بیں اور پھر تم سے  
فیصلہ سے اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہیں  
خوس نہ کریں اور وہ پرے طور پر اپنے آپ  
کو تم سے تابع نہ بنا بیں۔  
(ناء)

ان آیات و احادیث کے ظاہری الفاظ سے کسی کو یہ دھوکا نہ ہو کہ ان کا تعلق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہری سے تھا، جب آپ کی ذات خاص ہمارے درمیان موجود نہیں رہی تو اس احکام کا سوال بھی باقی نہیں رہا۔ آپ کی وفات کے بعد ائمہ کی کتاب اور آپ کی سنت امرت کے اندر آپ کے قائم مقام ہے اس وجہ سے اب اسی دلیل پر اطاعت آپ کی اطاعت ہے  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے خدا کی وصیت بھی فرمادی تھی :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتِ فِي كُمَّا مَرِينَ  
وَسَلَّمَ تَرَكْتِ فِي كُمَّا مَرِينَ  
لَنْ تَضْلُّوا مَا تَمْسَكْتُمْ بِهِمَا  
كَتَبَ اللَّهُ وَسُلْطَنُهُ رَسُولُهُ  
رہے کہمیں نے تم میں دلچیزیں چھوڑی ہیں  
جب تک تم ان دلنوں پر سنبھولی سے فائز  
کتاب اللہ و سلطنت رسولہ ہے

علاوہ ازیں ایک اسلامی حکومت کے دہ اسراء اور حکام بھی اسی حکم میں داخل ہیں زین  
میں خدا کی کتاب اور آپ کی سنت کے نافذ کرنے والے ہوں۔ اس کی تصریح بھی نبی صلی اللہ  
علیہ وسلم نے فرمادی ہے :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتِ فِي كُمَّا حِبِّيْتِ  
وَسَلَّمَ تَرَكْتِ فِي كُمَّا حِبِّيْتِ  
اللَّهُ وَمَنْ أطَاعَ الْأَمَامَ فَقَدْ  
أطَاعَنِي وَمَنْ عَصَيَ الْأَمَامَ  
عَصَيَ اللَّهُ وَمَنْ عَصَيَ الْأَمَامَ  
أَنْفَانِي کی تراس نے میری نافرمانی کی  
فَقَدْ عَصَيَنِي۔

اس تفصیل سے یہ بات اپنی طرح واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی اصلی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کتاب و سنت کی پریروی کریں جن کے ذریعے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور اس کے احکام سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ اگر بعض زبان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے ہے، اور اطاعت اپنی ہوا ہے نفس کی یادِ رسول کی ہدایات کے خلاف دُرسوں کی کی جاتی رہے تو اس طرح رسول کو رسول مانا نہیں ہے جس سے معرفتِ الہی کے دروازے کھلیں بلکہ اس طرح کامانِ اللہ آدمی کے خزان اور اس کی بخشی میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے۔

**اتباع** | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تلقین کی تیسرا بنیاد اتباع ہے۔ اتباع کا دائرہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اطاعت کے دائرہ میں تو عموماً ہی باتیں آتی ہیں جن کی بحیثیت احکام و واجبات اور اوصار و نواہی کی ہو، لیکن اتباع کے دائرہ میں مستحبات و نوافل بھی آجاتے ہیں۔ پھر اطاعت بعض حالات میں بعض ظاہری اور رسمی بھی ہو سکتی ہے۔ آدمی ایک شخص کی اطاعت کرتا ہے لیکن اس کی اطاعت میں اخلاص و محبت کا جز بفرما بھی شامل نہیں ہوتا، لیکن اتباع میں قبوع کے یہ عقیدت و احترام کا عذر پایا جائے بھی شرط ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اطاعت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی اتباع بھی کرتے تھے، وہ صرف یہی نہیں کرتے تھے کہ آپ کسی بات کا حکم دیں تو اس کی تعمیل کر دیں یا کسی بات سے روکیں تو اس سے روک جائیں بلکہ وہ آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھتے، اس کو نکالا ہوں میں رکھتے اور پھر اس کی تقلید کرتے تھے۔ آپ کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، کس طرح جا گتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کس طرح ہاتھ دھوتے ہیں، کس طرح دخونکرتے ہیں، کس طرح نماز پڑھتے ہیں، غرض وہ آپ کی تمام حرکات و سکنات پوری طرح نظر میں رکھتے اور پھر ان میں سے ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہوتی کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالے اور یہ اہتمام کسی خارجی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ محبت و عقیدت

کے جذبہ سے مرشار بھر کرتے تھے۔

اتباع رسول میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس ذوق و شوق کی وجہ یہ تھی کہ خدا کی محبت اور محبوسیت کا درجہ صرف اطاعت رسول سے نہیں بلکہ درحقیقت اتباع رسول سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول، خدا کی معرفت کا مظہر کامل ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ادا معرفتِ الہی کا نشان ہوتی ہے، اس وجہ سے جو لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ رسول کی ایک ایک ادا سے محبت رکھتے ہیں، وہ رسول کے اندر وہ علم دیکھتے ہیں جو خدا کی معرفت کے حاصل ہوتا ہے، وہ عمل دیکھتے ہیں جو خدا کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے، وہ عادات دیکھتے ہیں جو خدا کو پسند ہیں، وہ صفات دیکھتے ہیں جو خدا کو محبوب ہیں وہ جمالِ عدالت دیکھتے ہیں جس پر جمالِ خداوندی کا پرتو ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ رسول کے ایک ایک نقش کو تلاش کر کے اس کی پیری کرتے ہیں اور چونکہ یہ سب کچھ خدا کی محبت میں کرتے ہیں اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا صدر یہ پاتے ہیں کہ وہ ائمہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہی حقیقت قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں بیان کی گئی ہے:

**قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ شَجَّعُونَ أَنَّ اللَّهَ فَاتِّبِعُوهُنِّيْ**      کہ دراگر تم ائمہ سے محبت کرتے ہو تو  
مُحْبِّبُكُمُ اللَّهُ - میری پیری کو، ائمہ تم سے محبت کر لے گا۔ (آل عمران)

درحقیقت رسول کی بیعت کا رسیدے بڑا مقصد ہوتا ہی یہی ہے کہ معرفتِ الہی کا جو عکس انسان کی زندگی پر پڑنا چاہیے اس کو رسول کی روزِ ترہ زندگی میں مشاہدہ کراویا جائے۔ اگر باطن میں معرفت کا نزدیک گر ہو تو ظاہر کی ایک ایک پیغمبری میں جو نذرِ انتیت ہوئی چاہیے، پیغمبر کی زندگی اس کا کامنہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی زندگی کی ایک ایک ادا کو پیری کے لیے اسوہ حسنة کی بخششیت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو اس اسوہ حسنة کی پیری میں جتنا ہی ترقی کرتا ہے، وہ خدا کی محبت اور اس کی محبوسیت میں اتنی ہی ترقی کرتا ہے۔

**لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سَرْسُولِ اللَّهِ تَبَاعَسَ يَوْمَ سَوْلِ اللَّهِ**      تبا عسے یہے رسول ائمہ کی زندگی میں بہترین  
أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ - نور ہے۔

رسول ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی چوتھی شرط اپنے کے ساتھ  
**محبت** ہماری قیمت ہے۔ یہاں میں وہ ایمان یا وہ اطاعت معتبر نہیں ہے جس کی نیاد

محبت پر نہ ہو۔ ایسی اطاعت جس کی تھی محبت کا جذبہ کار فرمانہ ہو بعض حالات میں محض نفاق ہوتی ہے۔ پھر محبت بھی محض رکی اور ظاہری قسم کی مطلوب نہیں ہے بلکہ ایسی محبت مطلوب ہے جو عام محبتوں پر غالب آجائے جس کے مقابل میں عزیز سے عزیز رشتے اور محبوب سے محبوب تعلقات کی بھی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہ جائے اجس کے لیے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا جاسکے لیکن خود اس کو کسی قیمت پر باقی نہ چھوڑا جاسکے۔ قرآن مجید میں اس محبت کا معیار یہ بتایا گیا ہے:

قُلْ إِنَّمَا كَانَ أَبَاكُمْ كُفُورًا بِأَنَّهُمْ كُفُورٌ  
كُفُورٌ دُوْلَكُفُورٌ دُوْلَكُفُورٌ  
وَلَا يَخْوَافُنَّكُفُورًا أَذْلَافًا جُحْدَهُ  
عَشَيْرَتُكُفُورًا أَمْوَالٍ أَفْتَرَفُهُمُوا  
وَلَا يَتَحَكَّمُونَ كَسَادَهَا  
وَهُمْ سَادُونَ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ  
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ  
رَبِّهِمْ فِي سَبِيلِهِ فَتَوَبَّصُوا  
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَهْرَامٍ - (توبہ ۲۲)

اسی حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے احادیث میں بھی واضح فرمایا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص کا ایمان بالرسول ص متحقق نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجرم کو اپنے باپ بیٹے اور دوسرے قائم عزیزوں اور قرابت داروں سے عزیز نہ رکھے۔

قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رون نہیں ہو سکتا جب تک حثی اکون احبت الیہ من والدکہ و ولدکہ و الناس اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب کے زدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے میں اس کے زدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اجمعین ہے۔

(منفق علیہ)

لہ منکراة بدب الایمان۔

نہ ہو جاؤ۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی محبت کے بعد ہی کوئی شخص ایمان کی خوبی لذت سے آشنا ہو سکتا ہے۔

ثُلَّتْ مِنْ كَنْ فِيهِ وَجْهٌ  
بِهِنْ حَلَاوَةً الْأَيْمَانَ مِنْ  
كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ  
مَمَّا سَوَاءٌ

تِبْيَنْ حَيْزِيْرِ حَبْشِيْنِ مِنْ هُولَّگِ، وَهُوَ إِنْ كَانَ  
سَبَبٌ سَبَبَ إِيمَانَ كَانَ كَانَ مِنْ  
شَخْصٍ جَسِّيْنِ كَيْدِ زَدِيْكِ أَشْرَادِ إِسَاسِ كَانَ رَسُولٌ  
دَوْسَرِيْ تَامِّ حَيْزِرِ دُولِيْنِ سَعَيْدَهُ مُجُوبٌ

(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ہوں۔

یہیں یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مقصود شخص وہ جذباتی محبت نہیں ہے جو ادمی کو فطری طور پر اپنے بیوی بچوں یا اپنے دوسرے عزیز دل کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ اس سے مقصود وہ عقلی اور اصولی محبت بھی ہے جو ایک شخص کو کسی اصول اور مسلک کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی میں ہر جگہ اسی اصول اور اسی مسلک کو مقدم رکھتا ہے، اس اصول اور مسلک کے اوپر وہ ہر چیز اور ہر اصول، ہر مسلک اور ہر خواہش اور ہر حکم کو قربان کر دیتا ہے یہیں خود اس کو دنیا کی کسی پیغمبر پر بھی قربان نہیں کرتا۔ اس اصول اور مسلک کی برتری کے لیے وہ ساری پیغمبروں کو سپت کر دیتا ہے یہیں اس اصول اور مسلک کو کسی حالت میں بھی سپت دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر اس سے خود اس کا اپنا نفس اس مسلک کی مخالفت میں مزاحم ہوتا ہے تو وہ اس سے سمجھ لاتا ہے، اگر دوسرے اس سے مزاحم ہوتے ہیں تو ان کا بھی وہ مقابلہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے بیوی بچوں اور اعزاز اور ادب کے مطالبات بھی اگر اس کے اس مسلک کے مطالبات سے کسی مرحلہ پر گراتے ہیں تو وہ اپنے اس اصول اور مسلک کا ساتھ دیتا ہے اور بے تکلف اپنے بیوی بچوں کی خواہشوں اور اپنے خاندان اور قوم کے مطالبہ کو شکرا دیتا ہے۔

اس محبت کا اصولی اور عقلی ہونا خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح فرمادیا ہے، اُپ کا ارشاد ہے،

مَنْ أَحَبَّ سَنَنِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ

وَمِنْ أَحَدِنِي لَمْ يَكُنْ مَعِي فِي  
الْجَنَّةِ (ترمذی)

**اطاعت بلا محبت اور محبت بلا اطاعت** اس تفصیل سے جہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتا جب تک اس ایمان کی بنیاد، اطاعت، اتباع اور محبت پر نہ ہو۔ وہی مختلف اشارات سے یہ بات بھی نتھی ہے کہ اطاعت بلا محبت کے نفاق، اور محبت بلا اطاعت داتباع کے بدعت ہے۔  
یہ بات کہ محبت بلا اطاعت کے نفاق ہے، خود قرآن مجید سے نہایت واضح طور پر ثابت ہے، حوالی اللہ بنیہ کے بہت سے اعراب، اسلام کی سیاسی طاقت بڑھ جانے کے بعد اسلامی احکام و قوانین کی ظاہری اطاعت کرنے لگے تھے لیکن یہ اطاعت مخفی سیاسیصالح کے تحت مجبورانہ تھی، اللہ اور رسول کی محبت اور اس ایمان کا تیجہ نہیں تھی یہی یہیں کی اصل روح اخلاص و اعتماد ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب بعض مواقع پر اپنے ایمان کا دعویٰ اس طرح کیا جس سے یہ مرشح ہوتا تھا کہ انہوں نے ایمان لا کر آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کا پر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے تو قرآن نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہاہت کی کہ ان مدعیان ایمان سے کہہ دو کہ مخفی اسلامی احکام و قوانین کی ظاہری اطاعت سے اُدمی مرن نہیں ہو جائیا کرتا بلکہ ایمان کے یہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص و محبت بھی شرط ہے اور یہ پھر تمہارے اندر مفقود ہے اس وجہ سے ابھی تمہارا دعوائے ایمان بھی غلط ہے۔

فَأَلْكَتِ الْأَعْرَابُ أَهْمَانَهُ - قُلْ  
أَوْرَبِيَّ اعْرَابٍ لَوْكِيَّ كَيْتَنَيْ  
لَهُرْ نُؤْصُنُوا دَلْكِيَّ كُونْ قُولُوا  
لَاسْتَيْ ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں  
أَسْلَمْتَنَا وَكَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ  
لَاسْتَے ہو۔ البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت  
رَفِيْ قُلُوْبِكُمْ

(البجرات ۲۴) نہیں داخل ہوا ہے۔

رہی دوسری بات یعنی مجتہت بلا اطاعت و اتباع کا بدعت ہونا تو یہ اور پر کی آیات احادیث سے واضح طور پر نکلنی ہے۔

جس طرح قرآن مجید نے ان کُنْذَرِ تَحْبُونَ سے اللہَ دال آیت میں اللہ کی مجتہت کا طریقہ بتایا ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے اور بغیر اتباع نبی کے اللہ کی مجتہت کے ختنے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان سب کو بدعت و ضلالت قرار دیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من احت سنتی فقد احتجنی والی حدیث میں یہ واضح فرمادیا کہ آپ سے مجتہت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سنت کے ساتھ مجتہت کی جائے اور بعض حدیثوں میں آپ نے اپنی مجتہت میں اس قسم کے غلوکی مخالفت فرمائی ہے جس قسم کا غلو نصاری نے حضرت علیہ السلام کی مجتہت میں کیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت اور یہ ممانعت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجتہت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کی سنت کی پیروی نہیں کرنے اول زان کا دعویٰ ہی بے حقیقت ہے اور اگر اس کے اندر سچائی کی رونق ہے بھی تو ان کی یہ مجتہت بالکل بے معنی مجتہت ہے اور اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجتہت کرنے کے پھر ایسے طریقے بھی ایجاد کر یہے ہیں جو صریحاً آپ کی سنت کے خلاف ہیں تو یہ اسی طرح کی بدعت ہے جس طرح کی بدعت نصاری نے حضرت علیہ السلام کی مجتہت میں کی ہے کہ ان کو بغیر کی بجا شے خدا بنانے کے بھادرا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجتہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخفی عقل و احصوں ہی نہیں تھی بلکہ جذباتی بھی تھی لیکن یہ جذبات کبھی حدود کتاب و سنت سے متجاوز نہیں ہوتے تھے لیکن طرف یہ حال تھا کہ صحابہ اپنے اور پڑی سے بڑی تبلیغت الٹھائیتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکوں میں ایک کاٹے کا چھپنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ان کے اپنے جسم تیروں سے چھپنی ہو جاتے تھے لیکن وہ یہ نہیں بردانش کر سکتے تھے کہ ان کے جیسے جسی آپ کا باال بھی بیکا ہو، مرد تو مرد عورتوں تک کے جذبات کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بیٹھے اور شوہر اور باپ اور بھائی سب کو قربان کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی

کی ارزوں میں رکھتی تھیں، دوسری طرف اتباعِ سنت کا یہ اہتمام تھا کہ اس مجتہت سے مغلوب ہو کر بھی کبھی کوئی ایسی بات ان سے صادر نہیں ہوتی تھی جو آپ کی صريح ہدایات تو درکار، آپ کی پسند ہی کے خلاف ہو، حضرت انسؓ کا بیان ملاحظہ ہو:

عن انس قال لِمَ يَكُنْ حَزِيرَةُ اَنْسٍ مَّا سَمِعَهُ مَرْدَعَهُ  
شَخْصٌ اَحْبَبَ الْيَهُودَ مِنْ كُوْرُسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَيَادَهُ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كُرْلُ شَخْصٍ بَعْدَ مَنْ تَقَوَّلَ بِأَنَّهُ مَنْ  
وَسَلَّمَ وَكَانُوا اَذَا سَأَوْكُمْ كُهْرَبَ نَهْرَتَهُ كَمَا يَعْلَمُونَ مَنْ  
لِمَ يَقُولُوْمَا لَمَّا يَعْلَمُونَ مَنْ  
كَرْلَاهِيْتَهُ لَذَالِكَ .

(مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)      کرتے ہیں۔

لیکن آج اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ان کے اندر عظیم اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ملکے گی جو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس ایمان کے ساتھ اطاعت موجود نہیں ہے سب امتحت کا دم بھرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اتباعِ سنت نہیں ہے۔ اطاعت اور اتباع دونوں کی جگہ اشویں نے اپنے جی سے چند چیزوں پر ایجاد کر لی ہیں۔ کچھ میلاد کی مجلسیں منعقد کر دیتے ہیں، کچھ دیگریں پچوا کے تقسیم کر دیتے ہیں، ایک آدم حبوں نکلا دیتے ہیں، کچھ نفرے لگوادیتے ہیں۔ لبیں اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جن سے ان کا ایمان اور ان کی مجتہت رسول انبیارت ہے، آپ کو کتنے ایسے اشخاص مل جائیں گے جنہوں نے نازدیتِ عمر نہیں پڑھی لیکن حیثیت میں میلاد کی مجلسیں اور قوالی کی مجلسیں کئی بار منعقد کرتے ہیں۔ ماں رکھتے ہوئے زکرۃ الداکر نے کی ان کو کبھی ترقیت نہیں ہوئی لیکن اپنی ان بد عات پر، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرتے ہیں ہر سال ہزار ہاروپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کو اس بات کی کبھی ترقیت نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالبہ کریں اور ان کی رکشی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر ان کو درست کرنے کی کوشش کریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشقی میں اپنے آپ کو ہر وقت مرشار ظاہر کرتے ہیں اور نقیۃ الشعاء پڑھکر

یا سُن کر ان پر دلنشگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

یہ حالت ہمارے کسی ایک ہری طبقہ کی نہیں ہے بلکہ ہمارے اکثر طبقے اسی قسم کی محبتِ رسولؐ کے دعویدار ہیں اور اگر کچھ لوگ اتباعِ سنت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کے نزدیک تمام محدثین جن چند اخلاقی مسائل کے اندر سمجھ آئی ہے بس انہی چند چیزوں پر ان کا سارا ذور صرف ہوتا ہے گویا انہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف انہی چند مسائل کی تعمیم کے لیے ہوئی تھی۔



## حجاتِ علم

پھلے بحث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ علمِ تحقیقی دراصل ہے کیا اور اس کے حاصل کرنے کے وسائل و ذرائع کیا ہیں؟ اب ہم بتائیں گے کہ اس علم کے حصول کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں؟ وہ رکاوٹیں کہاں سے اجھرتی ہیں اور ان کے دور کرنے یا ان پر قابو پانے کی تدابیر کیا ہیں؟

ہمارے نزدیک یہ رکاوٹیں یا یہ حجاتِ دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ رکاوٹیں جن جن کے پیدا ہو جانے کے بعد علمِ تحقیقی کے حصول کا راستہ ہی سرستے سے بند ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں رہ جاتا کہ ان کے ہوتے ہوئے انسان کے اندر علمِ تحقیقی کے سیے کوئی رغبت پیدا ہو سکے یا اس کے خلاف کرنے کے سیے وہ کوئی جدوجہد کر سکے بلکہ یہ رکاوٹیں انسان کو اس قدر نہ بنا دیتی ہیں کہ اس کی رغبت اور خواہش کے بغیر علمِ تحقیقی اس پر کمیں سے بڑی بھی پڑے تب بھی وہ اس نعمت کی قدر نہیں کر سکتا۔

دوسری وہ رکاوٹیں ہیں جن کی نوغنت آفتول اور بیماریوں کی سی ہے یعنی یہ ایک آفت کی طرح انسان کے حاصل کردہ علم پر نازل ہوتی ہیں اور پھر یا تو دیکھ کی طرح آہستہ آہستہ اس کے

پورے ذخیرہ کو چاٹ جاتی ہیں یا ایک برقِ خاطفہ کی طرح ہمیشہ زدن میں اس کو سونخت کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم نے پہلی قسم کی رکاوٹوں کے لیے جماعت کی اصطلاح اختیار کی ہے اور اس دوری قسم کی معیوبتوں کے لیے آفات کی۔ ہم اس فصل میں جماعت کی وضاحت کریں گے اس کے بعد ایک علیحدہ فصل میں آفات پر بحث کریں گے۔ پھر ایک مستقل فصل میں ان کے فور کرنے والان پر قابو پانے کی تدبیر بیان کریں گے۔

ہمارے زدیک بڑے بڑے جماعات چل رہیں ہیں جن کو مختصر تشریح کے ساتھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں:

**۱. حب عاجله** [علمِ حقیقی سے مودم رکھنے والے جماعات میں سے سب سے بڑا جماعت، حب عاجله کا جماعت ہے۔ حب عاجله کا مطلب ہے آخرت کی زندگ اور اس کی نعمتوں کے مقابل میں دنیا کی زندگ اور اس کی لذتوں اور راحتوں کو ترجیح دینا۔

آدمی کے سامنے سب سے پہلے اس کی جسمانی ضرورتیں اور خواہش ہی آتی ہیں اور انہی کے پورا کرنے پر اس کے مادی اور جسمانی وجود و بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ مجبر ہوتا ہے کہ ان خواہشوں اور ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کوشش کرے۔ ایک خاص حد تک ان خواہشوں کو ضروریات کی تکمیل میں انسان کا مصروف ہزما خود قدرت کا نشاہ ہے چنانچہ اسی مصلحت سے قدرت نے ان کے ساتھ لذت کی چاٹ بھی لگا کر کی ہے تاکہ انسان ان کو ایک بالکل بے مزہ اور محقق مشقت کا وصہنا سمجھ کر چھوڑ نہ پیشیے بلکہ ان کے مطلوبات کو حاصل کرنے میں جوش اور سرگرمی کے ساتھ کوشش کرے تاکہ ان کے واسطے سے انسان کے جو شخصی اور نوعی معافی پورے ہونے ہیں وہ پورے ہو سکیں۔

لیکن ان چیزوں کے اندہ انسان کا انہاک بس ایک خاص حد تک ہی مطلب ہے۔ اگر یہ انہاک اس خاص حد سے اگرے بڑھ جائے تو اس سے انسان کے روحانی اور اخلاقی اقدار کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ پھر یہ خواہشیں اور لذتیں انسان پر اس طرح سوار ہو جاتی ہیں کہ وہ بالکل ہی بطن و فرج کا غلام بن کر رہ جاتا ہے اور اس کو یہ سونپنے کی بھی قدرت ہی نہیں

ملتی کہ ان خواہشوں کی غلامی کے سوا اس کی زندگی کا اور کوئی مقصود بھی ہے اور اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس کے تقاضے اور مطالبات اس زندگی کے تقاضوں اور مطالبات سے کچھ مخالفت ہیں۔ یہی گروہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

**أَهْمَّ تَحْسِبُّ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** کیا تمہارا غیاب ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے آؤ یعْقُلُونَ إِنْ هُمْ لَا كَالْأَعْلَمُ اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو اس پر پاپوں کی طرح ہیں، بللٰهُمْ أَضْلِلْ مُسْبِلِلًا۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ بیکے ہوئے ہیں۔

اسی طرح کے لوگوں کے بارہ میں دوسری یہ چیز فرمایا ہے:

**فَلْ هَلْ نَدِعُكُمْ بِالْخُسْرَيْنَ** ان سے پوچھو کر لیا میں تمہیں خبر دوں، ان **أَعْمَالًا**。 الَّذِينَ صَنَلَ سَعِيْهِمْ لوگوں کی جو بالکل ہی گھاشیے میں رہے؛ **فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ** یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری سرگرمیاں دنیا **يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحِسِّنُونَ صُنْعًا** کی زندگی کی لذتوں کے حاصل کرنے میں **أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَأَيْتِ** بے باد ہوئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا اپنا **رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَيَطَتْ** کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے **أَعْمَالَهُمْ فَلَا يُقْبِلُونَ لَهُمْ** اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس کی ملتات **يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ زَنَگًا**۔ کا انکار کیا توان کے ساتھے اعمال اکارت **(کف)** ہو کے رہ گئے۔ ہم ان کو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں دیں گے۔

یہ حسب عاجلہ کے گرفتاروں کی عام قسم ہے، دنیا میں نیادہ تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو دنیا دی لذتوں اور راحتوں کو اپنا مقصود زندگی بنایتے ہیں اور انہی کے حاصل کرنے اور انہی کی فراہمی میں اپنی زندگیاں گزنا دیتے ہیں۔

لیکن ان کے اندر ایک قسم ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو ان سفیر نفسانی لذتوں اور راحتوں کے مقابل میں بظاہر کچھ بلند مقاصد اور بلند اقدار کے طالب ہوتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ ان کے یہ بلند مقاصد اور بلند اقدار بھی حسب عاجلہ ہی کی ایک قسم

ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ عام قسم کے پست ذہن لوگ اپنے شخصی اغراض اور ذاتی قوائد ہی کے دائرہ کے اندر بند رہ جاتے ہیں، اس سے آگے انہیں ان خوبیوں اور ان کی لالات کو اپنانے کا سوچ نہیں ہوتا۔ اگر ان کو خدا کی نظر میں نہ سمجھی کم از کم سوسائٹی ہی کی نظروں میں کچھ عزت و عظمت دلائیں لیکن یہ گرد چونکہ اپنے اندر کچھ ذہانت رکھتا ہے اس وجہ سے وہ محدود شخصی اغراض و منافع سے آگے بڑھ کر کچھ ایسے کی لالات حاصل کرنے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے جو محمد صب زات کے نسب العین سے بلند ہوتے ہیں مگر اس بلندی کی بساط میں اتنی ہوتی ہے کہ ادمی اپنی ذات اور اپنے نفس کی پرستش سے نکل کر اپنی سوسائٹی کی بندگی اور غلامی میں گرفتار ہے۔

اس طرح کے لوگ بلاشبہ علوم اور کی لالات کے طالب ہوتے ہیں، لیکن یہ انہی علوم کو علوم اور انہی کی لالات کو کمالات سمجھتے ہیں جو وقت کی سوسائٹی میں ان کو عزت اور شہرت دلائیں یا جن سے وہ اپنے دنیاوی مقاصد زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ یہ لوگ واقعیت اپنے وقت کی سوسائٹی کے بندے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی جن چیزوں کو پسند کرے یہ ان کے حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا ازور و ذر صرفت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگرچہ حقیقت کے نقطۂ نظر سے ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور اگر سوسائٹی کے اندر ایک چیز کی مانگ ہو تو وہ اس چیز کی طرف کم بھی طرکے بھی نہ دیکھیں گے اگرچہ وہ چیز آسمان ہی سے کیوں نہ آزی ہو۔ سوسائٹی میں اگر طلب ہو تو یہ سحر و ساحری اور علم فراست الید (PALMISTRY) کو بھی علم لدنی کا درجہ دیں گے، لیکن اگر سوسائٹی میں مانگ نہ ہو تو نہیں اور رسولوں کا علم بھی ان کی نگاہ میں اوہام و خرافات سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے بارہ میں فرمایا گیا ہے:

إِنَّ هُوَ لَهُوَ يُحْبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ دُرَاءَهُمْ رَبُّ مَا تَفِيلَهُ یہ لوگ عاجل کو پسند کرتے ہیں اور اپنے

دُرَاءَهُمْ رَبُّ مَا تَفِيلَهُ آگے ایک بھاری دن کو نظر انداز کریں گے میں

شاد ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حب عاجل کے اس جواب کو جاپ طبع اور جواب رسماں کی اصطلاحات سے تعمیر کیا ہے اور ان دونوں جوابوں کی وضاحت اسی طرح فرمائی ہے:

”تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان کے اندر کھائے پیئے اور جماع کے تقاضے موجود ہیں، علاوہ ازیں اس کا دل مختلف طبیعی تغیرات مثلاً غم، خوشی، غصہ اور خوف سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ بچوں کو ان میں سے ہر حالت اس بات کی مقاضی ہوتی ہے کہ آدمی کا نفس پیئے سے ان کے اسباب کی طرف متوجہ ہو اور اس کی تمام فہرست قوتیں دوسری تمام سماتوں سے مٹکر اس چیز کی طرف مرکوز ہو جائیں اس وجہ سے ان چیزوں میں وہ زیادہ مشغول رہتا ہے۔ بچران میں سے ہر چیز کا اثر انسان کی طبیعت پر بعد میں بھی قائم رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک طویل زمانہ ایسی حالت میں گذر جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو اتنی فرصت ہی نہیں دیتیں کہ وہ ایک اعلیٰ چیز کی طرف متوجہ ہو سکے، بلکہ بہت سے روگ تو اس کی چھپریں اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ انہیں مدت العراس سے نکانا ہی نصیب نہیں ہوتا، کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر ان کا نفس اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ سو سائی کے رسم و آداب اور عقل کی ذمہ داریوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور کوئی علامت بھی ان کو ان کی نفس پرستی سے روک نہیں سکتی۔ اس جواب کو جوابِ نفس کہتے ہیں۔

لیکن جن کے اندر عقل اور ذہانت موجود ہوتی ہے وہ انسانی تقاضوں کے اندر کچھ فرحدت کے ایسے اوقات بھی نکال لیتے ہیں جن میں وہ نفسانی تقاضوں نے سے بچوں ہو کر اپنی متحلی اور عملی قتوں کے سماڑتے سے کچھ ذہنی کمالات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب وہ شروع شروع میں آنکھیں کھولتے ہیں اور اپنی قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسبابِ مشینت کی فراہمی، زینت و اکائش کے اہتمام، فخر و مبارکات کے ہنگاموں اور فضاحتِ فحطاہت اور علوم و فنون کی سرگرمیوں میں معروف ہے تو یہی چیزیں ان کے دلوں کو بھی موہ بیتی ہیں اور وہ بھی انہی چیزوں کے حاصل کرنے میں پوری دلچسپی اور پوری سرگرمی کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اس کو جوابِ کشم اور جوابِ نیا کہتے ہیں اور ایسے کہتے ہیں جو انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کو متوجہ نہیں۔

شاہ صاحب کے اس بیان سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ عمر مادوہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یا تو وہ لوگ ہیں جو ساری ساری زندگیاں اپنے فضائی تقاضوں کی تکمیل ہی میں گزار دیتے ہیں اور ان کو اس سے کسی اعلیٰ و برتر مقصد کی طرف توجہ کرنے کی بھی فرصت ہی نہیں ملتی، یا پھر وہ لوگ ہیں جو اگر کمال حاصل کرنے کی طرف توجہ بھی کرتے ہیں تو میں انہی چیزوں کے حاصل کرتے ہیں اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں جن چیزوں کو وقت کی سوسائٹی کمال سمجھتی ہے اس سے آگے نہ ان کے نزدیک کمال کا کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ان کے سھول کے پیسے ان کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا۔ ان کے حصر لی کمال کی ساری جدوجہد کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اسی طبیب دنیا کے ایک جال سے مکملے اور پھر اُسی کے دوسرے جال میں جا پھنسے۔

**۲- تکبیر** | علم و معرفت کی راہ میں دوسرا بڑا جواب تکبیر ہے۔ تکبیر کی تعریف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں نہایت واضح طور پر فرمادی ہے۔

عبدالله بن مسعود سے ایک روایت ہے:

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم	عنى نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر فردہ بردا بھی	عليه وسلم لا يدخل الجنة
تجبر ہو گا وہ جنت میں نہیں داخل ہو گا ایک شخص	من كان في قلبه مثقال ذرة
نے سوال کیا کہ اُسی اس بات کو پسند کتا ہے	من كبر فقا رجل ان الرجل
کہ اس کے پیروں اچھے ہوں، اس کا جتنا اچھا ہو	يحب أن يكون ثوبه حسنة
تکبیر یہ بھی تکبیر ہے؟ اُپنے فرمایا کہ اللہ خود صاحب	نفعه حسنة فقا ان الله
جمال ہے اور جمال کو پسند کتا ہے تکبیر یہ ہے	جميل ويحب الجمال، الكبير
کہ اُدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر کرے	بطرا الحق و غلط الناس۔

اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر کی اصل حقیقت حق کا انکار اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے یعنی لوگ اپنے اُپ کو اتنی بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے لیے یہ باور کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے کہ جس بات کو وہ جانتے اور مانتے ہیں حق اس کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور ان کے یا ان کے ذمہ کے سوا کوئی اوشخص بھی کسی احترام یا اعتراف کا سحق ہو سکتا ہے، ان کو جو

عترت و نعمت حاصل ہوتی ہے اس کو وہ اللہ کا فضل سمجھتے اور اس کے شکرگزار ہونے کے بجائے اس کو یا تو اپنا پیدائشی اور خاندانی حق سمجھو بیٹھتے ہیں یا اس کو اپنی کوششش اور قابلیت کا ثروت خیال کرتے ہیں اور بچہ را اس پر اتراتے اور فخر کرتے ہیں۔ اسی چیز کو بعض احادیث میں اعجاب المرء بنفسہ (آدمی کی خود فریبی) کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور انسان کے لیے یعنی ہری مملک چیزوں میں سے اس کو سب سے زیادہ مملک شمار کیا گیا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

وَإِمَّا الْمُهْلَكَاتُ فَهُوَ  
مُتَبَعٌ وَشَعْرٌ مَطَاعٌ وَ  
خَابَتْ أَهْلَهُ وَأَنْجَاهُ  
كَيْ أَطَاعَتْ إِذْ تَبَرَّرَتْ  
أَعْجَابُ الْمَرءِ بِنَفْسِهِ وَ  
أَدْرَى فِرْغِيَّةً هُونَا وَدِيَّ  
وَهُوَ أَشَدُّ هُنَّا۔

رہیں ہیں مملک چیزوں تو ان میں سے ایک  
کی اطاعت اور تبرر سے آدمی کا خود اپنے  
اوپر فریفته ہونا اور یہ چیزوں میں سب  
سے زیادہ سخت ہے۔

قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ سب سے پہلے خدا کی نافرمانی شیطان نے ک اور اس کی نافرمانی کی تحریر میں یہی تکبیر کا جذبہ کار فرماتھا پھر اس کے متعلق قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ آئے ہیں آئی واستکبر (اس نے خدا کی اطاعت سے انکار کیا اور تکبیر کی) قرآن مجید نے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کی جو تاریخ بیان کی ہے اس میں بھی جگہ جگہ اس بات کو فرمایا کیا ہے کہ انبیاء کے انتقام میں سب سے پہلے ان کی قوموں کے اسی طبقہ قے سبقت کی جو تکبیر میں بتلا تھا، ان لوگوں کو اول تو یہی بات کچھ عجیب سی معلوم ہوتی تھی کہ خدا کی کسی نعمت کا مستحق ان کے اندر سے کوئی ایسا شخص قرار پائے جو ان کی طرح مالدار اور صاحب اقتدار نہیں ہے اور اگر اس بات پر کسی طرح وہ اپنی طبیعت کو راضی بھی کر لیتے تھے تو بچہ را اس بات کو برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا تھا کہ پھر کسے غریب ساقیوں کو اپنا ساتھی اور اپنا ہمسر بنائیں اور ان کی سمجھتی میں برابر کے آدمی کی حیثیت سے بیٹھیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ کے ارباب اقتدار اور سند شیتوں نے ان کی باتوں کو محض اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ اس سے ان کی علمی و سیاسی برتری کا پندار مجرور حوتا تھا

بعینہ یہی چیز قرآنیکے اکابر کے لیے بھی جواب بنی رہی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب پر کسی کو سرفراز کرنے والا ہی ہوتا تو مکہ یا طائف کے کسی رسمیں کو اس منصب پر سرفراز کرتا۔ محمدؐ چیزے نادار اور قلاش آدمی کو یہ عزت ہرگز نہ بخشتا۔ اور اگر کبھی بادلِ نخواستہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزیز تسلیم کرنے پر آمادہ بھی ہوتے تو اس کے لیے یہ شرط پیش کرتے کہ آپ کے ارد گرد جو غریب اور نادار لوگ زان کے الفاظ میں رذیل اور بیرون قوت لوگ) جمع ہو گئے ہیں پسے آپ ان کو اپسے پاس سے ہٹائیں تب ہم آپ کے پاس آئیں گے۔

بعینہ یہی صورت حال ہمیشہ انبیاء کے علاوہ دوسرے مصلحین اور داعیانِ حق کو بھی پیش آئی ہے۔ ان کی پیشی کی ہوئی صد اقوتوں کو سبب کے پلے اور سب سے زیادہ شدت و قریحے ساتھ انہی لوگوں نے جھلایا ہے جو انتکار کے قتلہ میں بنتے ہیں۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لے کر آج تک جتنے مصلح اور داعی حق پیدا ہوئے ہیں اگر ان کے حالات جمع کیجئے جائیں تو یہ چیز بطور قدیم شرک اس میں ہے گی کہ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی راہ کھونتے کی انہوں نے جو کوشش کی اس میں سبب کے بڑی رکاوٹ یہ تکبریں ہی ہنئے۔ نہ انہوں نے خود اس راہ پر چلنا پسند کیا اور نہ جہاں تک ان کا بس چلا انہوں نے دوسروں کو اس راہ پر چلتے دینا چاہا۔

اس تکبر کے ساتھ اور غصہ کا پایا جانا بھی لازمی ہے جبکہ ایک حقیقت تکبریں کے تکبر کے علی الغمظ تکور میں آنے کے لیے زور لگاتی ہے اور بالآخر تکور میں اگر رہتی ہے تو جو لوگ اس کے دلتنے کے درپے ہوتے ہیں ان پر چھبھلاہٹ بھی طاری ہوتی ہے اور حسد کے دُور سے بھی پڑنے لگتے ہیں، اور اس حسد اور چھبھلاہٹ دلوں کے مرکب سے پھر دوسرا بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ادمی کو حق سے اتنا دور کر دیتی ہیں کہ اس کے لیے حق کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔

## ۳۔ عصیتِ بحاحیت معرفتِ حق کے جوابات میں سے ایک جواب عصیت

بحاحیت بھی ہے۔ عصیتِ بحاحیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص قدیم روایات والوفات، قدیم رسم و رواج اور باب وادا کے طریقہ کے تعجب میں گرفتار ہو جائے کہ نہ ان پر کوئی تغیر و انشت کرنے کے لیے تیار ہو اور نہ ان کی جگہ کوئی اور پیز

قبول کرنے پر آمادہ ہو۔ باپ دادا کے طریقہ اور قدیم روایات سے محبت بجائے خود بڑی چیز نہیں ہے بلکہ بعض انبیاء رات سے نہایت اچھی اور نہایت ضروری چیز ہے لیکن ان روایات کو تنقید سے بالآخر سمجھو لینا اور ان کی جگہ ان سے بہتر چیز قبول نہ کرنا جاہلی عصوبیت ہے ہے جو علم و معرفت اور حق و صداقت کے راستہ میں ہدیثہ رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی پدایت کو ان کی قوتوں نے زیادہ تر اسی تعصیب کی بنیا پر قبول کرنے سے انتکار کیا۔ ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا جو علم و فضل اور اخلاق و عمل میں بہر حال سمجھلوں سے بزر تھے کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کا اختیار کیا ہوا کوئی طریقہ غلط ہو اور بعد والے اگر اس کی اصلاح کریں۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اپنے اسلام کی توہین اور خود اپنی سُبکی نیال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک قدمت بجاۓ خود ان کے عقیدہ و ملک کی صحت و صداقت کی ایک ایسی دلیل تھی جس کو دنیا کی کوئی اور دلیل باطل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے مقابل میں نزدیک غفل کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار تھے نہ کسی وحی کو کوئی اہمیت دیتے تھے، وہ جس راہ پر چل رہے تھے، اس پر پوری طرح قانع اور مطمئن تھے، وہ سمجھتے تھے کہ انسانیت کے لیے جو کچھ بہتر ہو سکتا تھا وہ سب کچھ باپ دادا پر روشن تھا۔ اب اس میں کسی ترسیم یا کسی اضافہ کی گنجائش نہیں ہے ان کے درجہ ناعلیہ اپنکو تا کے نعرہ کے انداز کا ماضی، ان کا حال اور ان کا مستقبل سب کچھ محفوظ تھا، اس وجہ سے وہ اس گفہ سے باہر نکلنے کے لیے کسی طرح بھی مادہ نہ تھے اگرچہ اس گفہ سے باہر نکلنے کے لیے ان کو کوئی نبی ہی کیوں نہ دعوت دے رہا ہو۔

قدم سے محبت اور قدمت کے ساتھ غیر معتدل حسن ظن کا یہی جذبہ ہے جس نے ہمارے یہاں اندھی تقیید کی طرح ڈال۔ اندھی تقیید کا مطلب یہ ہے کہ اگلوں میں سے کسی کے ساتھ اتنا حسن ظن ہو جائے کہ اس کو بجاۓ خود سنہ تسلیم کر لیا جائے اور اس کے کوئی قول یا فعل کو کتاب و مستہ کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جائے پہلاں تک کہ اگر اس کا کوئی قول یا فعل کتاب و مستہ کے خلاف بھی نظر آئے اور کوئی اثر کا بندہ اس کی طرف توجہ بھی دلا جائے جب بھی اس بات پر اصرار کیا جائے جو اس نے کہی ہے اور اس کی حمایت میں یہ دلیل پیش کی جائے کہ وہ کتاب و مستہ کی پچھلوں سے زیادہ جاننے والا ہے اس وجہ سے اس کی بات ضرور کتاب و مستہ کی کسی نہیں دلیل پر منی ہوگی اگرچہ وہ دلیل ہماری سمجھو میں نہ اور ہی ہو۔ اس قسم کی تقیید کتاب و مستہ کو عملی

اعتبار سے بالکل بانجھن کر رکھ دیتی ہے کیوں کہ تقلید زدہ طبقہ اس وہم میں بتلا ہو جاتا ہے کہ کتاب پستت سے تو سکھنے کا لاجاسکتا تھا وہ اسلامت تے اپنی طرح بلوکر نکال لیا ہے اب جو کچھ رہا ہے وہ صرف چھا چھڑی چھا چھڑ ہے۔

## ہم غفلت یا لا ابالی

غفلت اور لا ابالي پن بھی ہے غفلت اور لا ابالي پن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زندگی کے کسی پہلو پر کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہ کرے بلکہ اس کو کسی طرح صرف گزار دینے پر قائم ہو جائے گے۔

صحیح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تسام ہوتی ہے اس ذہنیت کے لوگ کبھی اس سوال پر غور نہیں کرتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے اور جیسے ہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور اگر وہ مقصد ہم نے پیدا نہ کیا تو اس کا انعام کیا ہو گا، یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں سرستے سے پیدا ہی نہیں ہوتے پیدا تو ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ کبھی ان کو حل کرنے میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک یہ معنا نہ کسی سے حل ہوا ہے اور نہ حل ہو گا۔ اس وجہ سے ان کی ساری جدوجہد صرف اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کے عینیں اور ان کی بے نکری میں کوئی خلل پیدا نہ ہونے پائے اگر ان کی اس خراہش اور کوشش کے باوجود کوئی تملیخ تحقیقت سامنے آہی جاتی ہے تو بجا ہے اس کے کہ رو در رو ہو کر اس سے عمدہ برآ ہونے کی کوشش کریں وہ اس کے مقابل میں شتر مرغ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں یعنی وہ اپنا سریت میں چھپا لیتے ہیں اور پھر یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ تملیخ تحقیقت گز رکھتی۔

حدیر ہے کہ جو لوگ اس لا ابالي پن کے مرغی میں بتلا ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان اذائق سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے جن میں وہ بتلا کیسے جاتے ہیں کہ ان کا یہ لا ابالي پن روز برا اور روزہ اپنی زندگی کے سائل پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور سنجیدہ نتائج پر سچنے کی طرف مائل ہوں۔ ان لوگوں کی مثال حدیث میں گھر سے سے دی گئی ہے جس کو اس کا مالک کبھی کھول دیتا ہے اور کبھی باندھ دیتا ہے لیکن اس کو کچھ پرستہ نہیں کر کیوں اس نے اس کو باندھا اور کیوں کھول دیا۔

اس گروہ کے اندر ایک عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کو زندگی کی ابتدائی ضروریات روئی پڑتے ہیں کی فراہمی سے اقل تر اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ کسی اور اعلیٰ اور برتر مقصد کے حاصل کرنے کے درپر ہوں اور اگر فرصت ملتی بھی ہے تو اس کو وہ کسی نہ کسی ایسے مشغله میں صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندگی کی تینجیوں سے کم از کم غافل ہی کر دے۔ اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے کچھ عقل کو مغلوب کر دیتے والی نشیات اور طبیعت کو بدلانے والی دلچسپیاں ایجاد کر دی ہیں جن سے وقتی طور پر ان کو کچھ تفریح حاصل ہو جایا کرتی ہے لیکن جوں ہی وہ ان سے الگ ہوئے اور انہیں کر دیتے والی دو اول کا اثر دوسرے ہوا زندگی کی تینجیوں کی وہ ساری نہیں مزید زد و قوت کے ساتھ پھر عود کر آتی ہے جن سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انہیں کروئیں دو اول کی مدد حاصل کی تھی حالانکہ اگر وہ اپنا یہ تھوڑا اساؤ صفت کا وقت ان فضولیاں پر خالی کرتے کے بجائے زندگی کی اعلیٰ حقیقتوں کو سمجھنے پر صرف کرتے تو اس سے وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں میں بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں ان کا لا ابالی پن اُن کو کسی ایسی پیزی کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتا جس میں کچھ سنجیدگی ہو اور جس کے لیے کچھ قاع و عقل صرف کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

# تصانیف و تراجم

انشیت اکademہ پروفیسر غلام احمد حریری

برائے عام قارئین:

- ۱۔ تاریخ تفسیر و مفسرین :
- ۲۔ تاریخ حدیث و محدثین :
- ۳۔ حدیث رسول کا تشریعی مقام :
- ۴۔ علوم الحدیث :
- ۵۔ علوم القرآن :
- ۶۔ اسلامی مذاہب :
- ۷۔ المنشقی امام ذہبی اور درود رجمہ :
- ۸۔ حیات حضرت امام ابوحنیفہ :
- ۹۔ حیات امام ابن حزم :
- ۱۰۔ حیات امام ابن قریم :
- ۱۱۔ عربی بول چال :
- ۱۲۔ مقالات حریری :
- ۱۳۔ تحریریت و کردار :

## درستی کتب

- ۱۴۔ اسلامی دستور حیات برائے الیف۔ اے سال اول :
- ۱۵۔ تفسیر القرآن برائے الیف۔ اے، سال دوم :
- ۱۶۔ تفسیر القرآن برائے بنی۔ اے، سال اول :
- ۱۷۔ شرح الحدیث والفقہ برائے بنی۔ اے سال دوم :
- ۱۸۔ مخزن اسلامیات برائے بنی۔ اے آپشنل :

ملنے کا پتہ —

**مَكَّ مَسَنْزُ كَارخانہ بازار فیصل آباد**

## آفتابِ علم

جس طرح کسی سرپرزا شاداب باغ پر کوئی آفت ارضی و سمادی نازل ہو جاتا ہے اور وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے جس طرح سماں ہوتی ہوئی کھیتی کو کوئی روگ لگ جاتا ہے جس کے وہ دفعتہ یا آہستہ آہستہ جلس جاتی ہے جس طرح ایک عالی شان غارث نذرِ تغافل ہو جانے کے بعد سے یا کسی زندگی وجہ سے کھنڈر میں نبدل ہو جاتی ہے جس طرح ایک تنومند اور تدرست انسان کسی بیماری کا شکار ہو کر موت کے کنارے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح علم و معرفت کو تباہ کر دینے والی بھی بہت سی بیماریاں ہیں جو اگر اس کی بڑوں کو لگ جائیں تو پھر اس کو ختم کر کے ہی دم بیتی ہیں۔ ان آفتتوں میں سے بعض اپنے مزاج کے لحاظ سے جلد اور تیز اثر کرنے والی ہیں اور بعض آہستہ از نازد ہوتی ہیں۔ بعض انفرادی حیثیت سے نمودار ہوتی ہیں اور بعض و بائی بیماریوں کی طرح پھوٹ پڑتی ہیں بعض عقل اور ذہن کی طرف سے نمودار ہوتی ہیں۔ بعض اخلاق و عمل کی طرف سے، بعض محض کاہل اور بے پرواٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بعض جان، مال یا جامع لفظوں میں دنیا کی غیر معمول محبت کے سبب سے، بعض بزولی، پست سہتی اور خوف کا تیجہ ہوتی ہیں اور بعض مُحمدؑ، غور اور خود پسندی اور اناہیت کا ان اختیارات سے ان کے درجہ اور ان کی نوعیت میں بہت کچھ فرق ہوتا ہے لیکن

بھاں تک ان کے اثر اور نتیجہ کا تعلق ہے یہ سب انسان کو علم حقيقة کی دولت سے محروم کر دینے کی خاصیت میں بالکل بیکار ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر انسان جو ایک مرتبہ علم کی دولت پا کر اس سے محروم ہو جانے کے لیے تیار نہ ہو وہ ان بیماریوں کی نوبت اور ان کے علاج کے طریقیں سے اپنی طرح واقع ہے۔ اپنی صحت کی قدر کرنے والا ایک شخص جتنا اہتمام ان بیماریوں سے واتفاق رہنے کے لیے کرتا ہے جو اس کی صحت کو بر باد کر سکتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ضروری علم حقيقة کے ایک قدر دا ان کے لیے ان افتوں سے با غیرہ ہنا ہے جو اس کے علم کو غارت کر سکتی ہیں۔ شخص اپنے خزانہ کی حفاظت کا اہتمام اس کی قدر و قیمت کے لحاظ سے کرتا ہے مگر ایک شخص اپنی سببی اس کی حفاظت سے قاصر ہے جائے تو اس سے جو تقصیان اس کو پہنچے گا وہ بیشتر اس دنیا کی زندگی تک مدد در ہے گا۔ لیکن اگر ایک شخص علم حقيقة کی نعمت کی حفاظت سے قاصر ہے جائے تو یہ ایک ایسا تقصیان ہو گا جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان بیماریوں کی اہمیت کے سبب سے ہم یہاں ان پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔

**ان بیماریوں میں سب سے زیادہ عام بیماری خلفت اور خلفت اور بے پرواں** بے پرواں کی بیماری ہے۔ انسان کا کچھ خاصہ سلسلہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہو، اس کی قدر آہستہ آہستہ اس کی نگاہوں میں کم ہو جایا کرتی ہے اور جس چیز کی قدر کم ہو جائے لازماً اس کے رکھ رکھاؤ میں بھی فرق آ جاتا ہے جبکہ ایک پرہیز کے رکھ رکھاؤ میں فرق آیا تو پھر ناگزیر ہے کہ اس پر تناقض کا سایہ پڑنا شروع ہو جائے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس پر ایک دن ایسا آئے کہ وہ بالکل ہی عدم کی تاریخ میں پھیپ جائے۔ چنانچہ نبی کریم صل انتہ علیہ وسلم نے نیان کو علم کی سب سے زیادہ عام افت فرار دیا ہے۔

آپ کا ارشاد ہے،

علم کے لیے جو افت بھول جانا ہے۔

آفة العالم النسیان

یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید متعلق (جو علم حقيقة کا خزانہ ہے) آپ نے خاص طور پر یہ امت فرمائی ہے کہ لوگ اپنے قرآن کے علم کو برابر تاذہ کرتے رہیں تاکہ وہ منائع نہ ہونے پائے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں،

فَعَاهِدُوا الْقُرْآنَ فَإِنْ فَانَّ أَشَدُ  
تَفْصِيبًا مِنْ صَدْرِ الرِّجَالِ  
أَوْ أَنْتَ غَلَطْتَ كَمْ سَبَبْتَ سَهْلَكَمْ بَعْدَهُ  
مِنَ النَّعْمَ  
أَنْ سَيِّدَةُ الْأَنْوَارِ قَرْآنَ سَيِّدُونَ  
سَهْلَكَمْ جَاءَكَمْ تَأْمَنَ  
(متفق علیہ)

دوسری روایت میں یہی مضمون ان الفاظ میں بیان ہوا ہے :  
مثُل صاحب القرآن کمثُل صاحب الأبل المعقولة  
اس شخص کی شال حیر کے پاس قرآن کا علم ہو اس شخص کی بے جس کے پاس بندھنوں میں  
بندھے ہوئے ازٹ ہوں اگر وہ ان کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے تو وہ محفوظ رہتے ہیں اور  
اگر وہ ان سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہیں  
کہیں چل دیتے ہیں۔

یعنی علم کے لیے صرف ایک مرتبہ حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو حاصل کرنے کے بعد بار بار اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا بھی ضروری ہے ورنہ اس کی شال ایسی ہو گی کہ ایک شخص صرف کثیر اور اہتمام و استظام کی تمام زحمتیں جیل کر کسی دور دراز ولایت سے ایک قسمی پوامنگوائے یا میک منگوائچنے کے بعد پھر اس کی خبر نہ لے کر وہ کس حال میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پوچھ جس قدر قسمیتی ہوتا ہے وہ اسی قدر رکھ رکھا اور اہتمام کا طالب ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز اس کو حاصل نہ ہو سکے تو پھر اس کا نشوونما پانا تو درکار اس کا محفوظ رہنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔

یہی حال حقیقی علم کا ہے جہاں تک اس کے حاصل ہونے کا تعلق ہے اس کا استہ ہر طالب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سب سے بڑی نعمت بھی برسائی ہے اور اس کے نبیوں اور رسولوں اور اس کے صالح بندوں نے اس نعمت کے تقسیم کرنے میں، تاریخ کے کسی دو دن میں بھی کوئی کرتا ہی نہیں کی ہے اور اس علم کو بقدر استعداد پایا بھی بنتوں نے ہے۔ لیکن جہاں تک اس کی دیکھ بھال اور اس کے رکھ رکھا کا تعلق ہے اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں بہت تھوڑے ہی پوچھے اترے ہیں،

اور درحقیقت بھی تحریر کے سے پورے اترنے والے ہیں جو اس نعمت کے بغیر بیا بیا ہوتے ہیں ورنہ یہ تو کے لیے، جبکہ بعض حدیثوں میں فرمایا گیا ہے۔ یہ علم مفید ہونے کے بجائے ان کے خلاف ایک محنت ہی ثابت ہوا ہے۔

یہی سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص لہذا فرماتے تھے۔ چنانچہ خود قرآن مجید کی بعض آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت جبریلؓ لیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتیں سناتے تو آپؑ اس اندیشہ سے کہ کوئی چیز یاد کرنے سے رہ نہ جائے اس کو بار بار دہراتے اور اس کراچھی طرح محفوظ کرنے کی کوشش فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؑ کو اس فکر سے فارغ کر دینے کے لیے قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری خود لے لی اور آپؑ کو ان الفاظ میں تسلی دی۔

**لَا تُحِرِّكْ يَدَهُ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ** تم اس کو (قرآن کو) جلد حاصل کر لینے کے لیے ڈرانَ عَلَيْنَا جَمْعَةَ دَيْرَهُ اس پر اپنی زبان تھلاؤ، ہماری ذمہ داری قرآن کے فِيَادًا قَرَأْنَا اُہ ہے اس کو محفوظ کرنا اور اس کو سنانا، سو فَاتِيْعُ قُرْآنَهُ لَتَرَانَ جب ہم اس کو سنائیں تو تم اس نامے عَلَيْنَا بَيَانَهُ ہوئے کی پیروی کرو۔ پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی وضاحت کرنا۔ (سورة قیمت)

یہ قرآن کو محفوظ رکھنے کا مقصد ہی ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسے اسلوب میں ڈھالا گیا کہ اس کو بار بار اس کی بار بار تلاوت کا حکم دیا گیا، اور یہ سچ و قوت نمازوں میں اس کی تلاوت کو ضروری قرار دیا گیا۔ علاوه ازیں رمضان کی راتوں میں خاص اہتمام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے یہ بڑے اجر و ثواب کا کام تھیں ایسا کہ مساجد میں قرآن پڑھا جائے اور لوگ اس کو سنیں خود اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرض اور نفل نمازوں کے علاوہ دُوسرے اوقات میں بھی تلاوت فرماتے رہتے تھے۔ یہی حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا، قرآن کا جذبا جتنا حصہ اترتا جاتا اور جس جس کو پہنچتا جاتا وہ اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا۔ بہ اہتمام صرف قرآن کے الفاظ ہی کو محفوظ رکھنے کے۔ یہی نہیں تھا بلکہ الفاظ سے زیادہ اس کے معانی و مطابق کے محفوظ رکھنے

کے بیان میں سرگرمی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ صحابہ اپنے زمانہ میں مختلف علمی مجلسیں قائم کرتے تھے، جن میں قرآن مجید کے معانی و مطالب اور اس کے اسرار و حقائق پر گفتگو میں ہوتی تھیں ان جلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی شرکت فرماتے تھے اور تحقیق قرآن کی ان مجلسوں کو اپنے ذکر و عبادت کی مجلسوں پر بھی ترجیح دیتے تھے۔

قرآن اور علوم نبوی کو محفوظ کرنے کا یہی ذوق و شوق اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی باقی رہا۔ خلفائے راشدین خود اس دلچسپی کو بڑھانے میں بھرپوری لیتے رہے بخوبیت کے ساتھ حضرت عمرؓ نے اس خدمت میں جو حصہ لیا اس کے ذکر سے ان کی زندگی کا ہر ورق نورانی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے آنکے ہوئے علم کے بیان حفاظت کا یہ اہتمام بچھلپی اُمتوں کے زمانہ میں نہ ہو سکا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں کا بہت سا حصہ منائع ہو گیا اور یہ ایسیں اللہ تعالیٰ کی روشنی پانے کے بعد ان سے محروم ہو گئیں۔ چنانچہ یہود کا حال جو ہوا اس کی مثال قرآن نے بیان دی ہے:

<p>مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي أَسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا كَانَ أَضَاءَتْ مَا حُولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ يُنُورُ هِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبَصِّرُونَ ۚ (بقرہ: ۱۴)</p>	<p>ان کی مثال بالکل اس شخص کی ہے جس نے اگ جلا جب اگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، تو اللہ نے ان کی روشنی اپک لی اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا جہاں ان کو کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انہی یہود کے متعلق فرمایا ہے کہ،  
 وَ نَسُوا حَظًّا مَّا ذَرَ كَسْوَةٌ  
 يَلِهُ ۖ وَ لَا نَزَالُ نَظِيمٌ عَلَىٰ  
 خَلَقِنَا ۖ هَنَّهُمْ

اوہس چیز کے ذریعے سے ان کو یاد دانی  
کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے فرموش  
کر دیا اور تم برابران کی کسی نہ کسی خیانت سے  
مطلع ہوتے رہو گے۔ (ماڈہ: ۱۳)

اسی طرح نصاریٰ کے متعلق قرآن مجید میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ انہوں نے

اللہ تعالیٰ کے آنکھے ہوئے علم کا ایک حصہ اپنی ناقدری اور بے پرواں کے سبب سے فراموش کر دیا اس کا تینجھیں ہوا کہ ان کے درمیان اختلاف اور جگہ کے کی مستقل بنیادیں قائم ہو گئیں جن کے رفع ہونے کی اب ان کے پاس کوئی صورت باقی ہی نہیں رہ گئی۔

**دَهْنَ الَّذِينَ قَاتَلُوكُرَأَنَا نَصَارَى** اہدانا لوگوں سے ہنروں نے کہا کہ ہم نظرانی  
 أَخَذْنَا كَعِيشًا فَهُمْ فَتَسْوَا بیہ، ہم نے ان کا عمدیا تو وہ بھلا بیٹھے،  
 حَظًّا مِنْهَا ذَكَرٌ وَرَأْيٌ فَأَغْرَيْنَا ایک حصہ اس چیز کا جس کے ذریعے سے ان  
 كُو يَادِهِنَّ كَلْغَنِي تَهْرِئَنَّ نَهَانَ کو یاد رانی کی لگنی تھی تو ہر نے ان کے درمیان  
 دشمنی اور نفرت کی آگ بھڑکا دی، تیامت لائی توہر القيمة تھے۔

(مامدہ : ۱۵۵) تکن کے لیے۔

## خواہشات نفس کی پیرودی

دوسری چیز بہ علم خیقی سے محروم کرنے والی ہے وہ خواہشات اتباع ہوا ہے۔ اتباع ہوا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کی تکمیل، اپنی خواہشات کے حصول، اپنی شہوات کی تسلیکیں اور اپنے چیزیات کی تسلی کے سوا اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہ رکھے ان کے سوا اس کے سامنے زندگی کا کوئی اور اعلیٰ اور بلند تر مقصد نہ رہ جائے۔ وہ انہی پیغمبروں کو زندگی کا حقیقی مقصود سمجھ بیٹھے اور اپنی تمام قویں اور قابلیتیں اور اپنے تمام ذرائع و وسائل میں انہی کی خدمت اور انہی کی مقصد برداری میں لگا دے۔ ان کی لذتیں اور ان کے نقد منافع اس کو اس طرح مسح کر دیں کہ اس کو یہ سچے کامبھی موقع ہی نہیں سکے کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز چاہنے کی ہو سکتی ہے اور یہ زندگی اس کے حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔

اس اتباع ہوا کا ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات و شہوات کی تکمیل میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ زندگی کے اندر وہ ان کے سوا یا تو کسی اور اعلیٰ اصول اور کسی بڑی قدر کا سرے سے قابل ہی نہ رہ جائے یا قابل تور ہے لیکن اپنے ان نفسانی مطلوبات کے حصول میں ان کا حاجج ہونا کسی طرح گوارانہ کرے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جب اٹھنے تو اس چیز سے بالکل آنکھیں بند کر کے اٹھنے کہ حرام و حلال اور ظلم و انصاف کے پھر معروف

خاپلے بھی ہیں جن کا اس کو احترام کرنا ہے۔ جب اس کے اوپر شہوت کا بھوت سوار ہو تو وہ فتنہ اس بات پر نگاہ رکھے کہ اس کی شہوت کی آگ کجھ تی کس طرح ہے، اس سے بالکل قطع نظر کر کے کہ اس کے لیے خدا اور رسول نے کچھ حدود بھی مقرر کیے ہیں جن سے تجاوز کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ جب اس پر یہ جذبہ غالب آجائے تو وہ اس کے تقاضوں کی رو میں پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کی موجودی کے حوالہ کر دے۔ اس سے اسے کچھ بحث نہ ہے کہ یہ جذبہ ہوا ہے یا اچھا اور اس کے اندر اعتدال اور بے اعتدالی کی حدیں کیا ہیں یا الغرض وہ ایک زیادیہ ایجاد ہے جس کے تو یہ کہ جیوانات کے لیے کچھ جعلی حدود ہوتے ہیں جن کی پابندی پر وہ بجبر ہوتے ہیں اس وجہ سے کسی راہ میں بھی قدرت کی مقرر کی ہوئی ایک متعین حد سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور یہ ایک خود محنتِ املاقو ہونے کی وجہ سے اپنی خواہشاتِ نفس کی پیری میں جس قدر آگے پڑھنا چاہے، پڑھتا چلا جائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارہ میں قرآن مجید میں یا گیا ہے:

**أَوْلَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا نَعَمِهِمْ بَلْ هُمْ يَءُولُو الْعَزَمَ** یہ لوگ پر پاریں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بچکے ہوئے ہیں۔

اس اتباع ہوا کا دوسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ آدمی صرف حلال و حرام کے لیے حدود تو ٹوٹنے پر ہی قناعت نہ کرے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنی خواہشاتِ نفس کی پیری میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ ان کی خاطر تمام اقدار کو تلپٹ کر دینے کے درپے ہو جائے، اس کی کوشش یہ ہونے لگئے کہ معروف، منکر بن جائے اور منکر معروف کی جگہ حاصل کرے جو چیز اب تک نیکی سمجھی گئی ہے وہ بدی سمجھی جانے لگے اور بوجدی ہے وہ نیکی کی حیثیت اختیار کرے، قوم کی روایات قوم کی تہذیب اور قوم کے سارے معیارات یک قلم تبدیل ہو جائیں، دین نہ سب کے نام سے جو چیز موجود ہے اس کا اوقل تو خاتمہ ہو جائے لیکن اگر خاتمہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کی وجہ پر کسی پہلو سے نفس کی آزادیوں میں خلل انداز ہوتی ہیں، مٹادی جائیں، ان میں سے بعض کو ملائیت اور دقیاقہ زیست کہہ کر ختم کر دala جائے ما کچھ پر تحریف کی قیمتی پیچی چلا دی جائے

کچھ پر نتاویل باطل کی سیاہی پھیر دی جائے۔ صرف انہی چیزوں کو باقی رہنے دیا جائے تو نفس کی خواہشوں کے مطابق ہیں یا کم از کم ان سے متصادم نہیں ہیں۔

انسان کی یہ کوشش اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشاتِ نفسانی کی پیروی میں اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں رہ جاتا کہ کسی گوشہ سے اس کے کافی میں ملامت کی کوئی آواز پڑے اس خیال سے وہ یا ان ساری چیزوں کو مشاذ دیتا ہے جو اس کے نفس کو کھلکھلتی ہیں یا ان کو نتاویل و تحریف کے پردوں میں چھپا دیتا ہے تاکہ ان کے بعد اس کی نفس پستی پر اس کا ضمیر کوئی خلش نہ محسوس کرے۔ ظاہر ہے کہ اتنی کثر بیونت اور اتنی کانت چھاث کے بعد مذہب کا کچھ حصہ ان کی زندگیوں کے کسی گوشہ میں اگر بخ رہتا ہے تو اس وجہ سے نہیں بخ رہتا ہے کہ وہ مذہب کا حصہ ہے، یا خدا نے اپنی کتاب میں اس کی تعلیم دی ہے یا رسول نے اپنے قول اور فعل سے اس کو فائز کیا ہے بلکہ اس کے نجی رہنے کی واحد وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتی ہے یا کم از کم یہ کہ ان کے خلاف نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث کی کسی بات کو اس لیے ماننا کریم ہماری خواہشوں کے مطابق ہے، یہ قرآن و حدیث اور رسول کا مانا نہیں ہے بلکہ یہ محض اپنی خواہشوں کی پرستش ہے۔ خدا اور رسول کو ماننے کے لیے توبہ لازمی ہے کہ ان کی ہر بات مالی جائے خواہ وہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہوں یا ان کے خلاف بلکہ ایمان کا حقیقی تقاضا تو خواہشوں کے خلاف ماننے ہی سے پورا ہوتا ہے۔ پچنانچہ ہمارے غمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

لَا يَؤْمِنُ أَحَدٌ كَمَا حَتَّىٰ يَكُونَ  
تَمَّ مِنْ سَعَيْهِ شَخْصٌ اسْوَدَتْ تِكَّ  
هَوَاءٌ تَبِعًا لِمَا جَاءَ  
مِنْ نَبِيٍّ هُوَ سَكَّا جَبَّ نَكَّ كَمَا خَوَاهُ  
بَلْهُ -

انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ اس کے اندر نیکی اور بدی دو نوع طرح کے رسمات و دلیعت کر دیے ہیں۔ جہاں تک اس کی ضروریات و خواہشات کا تعلق ہے وہ تو اس کو پوری طاقت کے ساتھ نفع عاجل اور لذت عاجل کی طرف کھینچتی ہیں اور اسکو

اجازت نہیں دیتی کہ وہ ان کی تکمیل کی راہ میں کسی قسم کی اخلاقی قید و بند کو حاصل ہونے والے لیکن اسی کے ساتھ سانحہ انسان کے اندر کچھ روحاںی تقاضے بھی ہیں جو اس کے ہر غلط اقدام پر اس کو ٹوکنے رہتے ہیں اور اس کی نفسانی خواہشوں کے علی ارغم اس کو نیکی، الفضالت اور حق پرستی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف کھینچتے ہیں۔ انسان کی نفسانی اور روحاںی کشش مکشش کا بھی وہ مرحلہ ہے جس میں انسان کی دست گیری اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے انسان کو علم حقیقی کی روشنی عطا فرمائی ہے اور اس علم حقیقی کو "الْعِلْمُ" کی اصطلاح سے تعبیر فرمایا ہے اور انسان کی سعادت و کامرانی اس بات میں رکھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل میں "اَهُوَ اَكَر" یعنی اپنی خواہشوں، اپنے من گھر نظریات و افکار اور اپنے جی سے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط کی (جو الْعِلْمُ کے خلاف ہوں) پیروی کرتا ہے تو وہ اس قانون کی مخالفت کرتا ہے جو فاطر السماوات والا رض نے انسان کی فلاج و نجات کے لیے بنایا ہے اور اس صورت میں اس کو خدا کے قانون کی مخالفت کے بُرے انعام سے کوئی طاقت بھی نہیں بچپ سکتی۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید کی یہ آیت واضح کر دی ہے:

وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُنَّمْ  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مَنْ  
الْعِلْمُ مَا تَكَوَّنَ مِنَ اللَّهِ مِنْ  
قُرْبَىٰ وَلَا وَاقِعٌ ۝ (رعد: ۲۸)

اس "الْعِلْمُ" اور "اَهُوَ اَكَر" کی طبیعت میں ہر اعتبار سے بالکل تضاد ہے، ایک کا سرچشمہ وحی اللہ ہے اور دوسرے کا فیض انسان کا اپنا نفس، ایک ہمیشہ انسان کو اپدی زندگ کی بلندیوں کی طرف بڑھنے کے لیے اشارہ کرتا ہے اور دوسری چیز اس کو اسی زندگ کی فانی لذتوں کی کچھ میں لست پت رکھنا چاہتی ہے۔ ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان گردی خواہشوں اور لذتوں کی تنگ نائے سے نکل کر روحاںی کالات کے حاصل کرنے کے لیے پرواز کرے لیکن دوسرے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان اسی زمین کا کیرا بنا لے۔ اس کوشش اور خواہش میں کچھ عرصہ تک کشش مکشش رہتی ہے لیکن بالآخر یہ کشش مکشش اس وقت ختم ہوتی ہے جب

الْإِنْسَانُ إِذَا مِنَّا سے کسی ایک کو مستقلًا اپنے لیے انتخاب کر لیتا ہے اگر وہ برابر "العلم" کے مقابل میں "ہوکاء" ہی کو ترجیح دیتا ہے، بلند یون پر چڑھنے کے بجائے پستیوں ہی میں گئے ہوئے رہنے کو پسند کرتا ہے اور خدا کے بجائے اپنے نفس اور اس کی خواہشوں ہی کی راہنمائی پر اعتماد کرتا ہے اور اس پر دناءت اور رذالت اس قدر غالب آجائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شر سے غیر کی طرف اور بدی سے نیکی کی طرف موڑنے کے لیے گھر اور یہاں اور رنج دراست کے جو اختیارات رکھے ہیں ان سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ دونوں ہی صورتوں میں گھٹتے کل طرح زبان نکالے ہی رہتا ہے تو ایسے لوگوں سے "العدل" کی نعمت سلب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خواہشوں اور لذتوں کے حوابے کر دیتا ہے کہ وہ ان کے سچھے ہی جن داریوں میں بھکنا چاہتے ہیں، ابھی طرح بھٹک لیں۔ قرآن مجید نے اسی صورت حال کی تصویر ایک تسلیل کے ذریعہ سے پیش کی ہے۔ اور ویکھیے کس قدر جامع اور خوب صورت تسلیل ہے:

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً الَّذِينَ

كُوْمَنَ نَأْتَيْنَا فَأَنْسَلَهُمْ مِنْهَا

فَأَتَبْعَثُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ

مِنَ الْغَافِرِينَ ۝ وَلَوْرَشَدَنَا

لَرْفَعَنَا هُبَاهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدَ

لَيَ الْأَرْضَ وَأَتَبَعَهُ هَوَاهُ

فَمَتَّلَهُ صَمَّتِلَ الْكَلَبُ

لَمْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَكْفَثُ

أَوْ تَجْرُكُهُ يَلْهَثُ ۝

(الاعراف: ۱۴۶)

یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی مثال بیان کی ہے جن کو "العدل" کی روشنی عطا ہوئی تھی لیکن

کا اور اگر چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رکھے گا۔

انہوں نے اس روشنی کی قدر نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ممکنا کہ شیطان ان کے پیچے لگ گیا اور ان نے ان کو بالکل ہمی ایمان سے محروم کر کے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ان آئیتوں کی کند کا سماں رہے روحانی بلندیوں کے مقامات طے کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں لیکن وہ برابر اپنی ہر ٹھیک نفس ہی سے پچھے رہے، اور ان قدر پست ہمت اور ذلیل ہو گئے کہ نہ خدا کی تسبیبات نے ان پر کچھ اثر ڈالا اور نہ اس کی عنایات نے بالآخر جب وہ اس قدر ذلیل اور پست ہمت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے "العلم" کی روشنی ان سے چھین لی اور ان کو ان کے نفس کے حوالہ کر دیا۔

**عدم احتساب** | عدم حقیقی کو پیدا کرنے والی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی افت  
عدم احتساب بھی ہے۔ عدم احتساب کے معنی یہ ہے کہ آدمی نیکی اور بدی اور حق اور باطل کے معاملہ میں بالکل بے تعلق ہو کر رہ جائے اس سے کچھ بحث ہی نہ رہے کہ دنیا نیکی کی طرف جا رہی ہے یا بدی کی طرف بغیر کی طرف ٹھہر رہی ہے یا اشرکی طرف، معاشرہ بگزدرا ہے یا بن رہا ہے وہ یا تو یہ نظریہ قائم کرے کریے پر اسے جھگٹے ہیں اور پر اسے جھگٹے نہ نہا اس کی ذمہ داری نہیں ہے یا فنا کی اور حالات کی ناسازگاری اس کو اس قدر پست ہمت اور بزدل بنادے کہ صریح سے صریح انحراف کر دیجو کہ جبی اس کی زبان سے کلمہ حق نہ ملکے۔ اگر کسی قوم کے اندر حاصلین علم کی اکثریت یا ان کی پوری جماعت کی جماعت یہی روشن اختیار کرے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ملکتا ہے کہ اس قوم پر باطل کی تاریخی چھا جاتی ہے اور وہ علم حقیقی کے نوٹ سے بالکل ہمی محروم ہو جاتی ہے۔

کسی معاشرے کے اندر جس وقت کسی خرابی کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت یہ خرابی زیادہ طاقت و رہنمی ہوتی اگر اسی مرحلہ میں معاشرے کے ذمہ دار لوگ اس کے احتساب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور بڑائی کے ذمہ داروں کو مناسب تنبیہ ہو جائے تو اس کے مزید پھیلنے کے امکانات کا سد باب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے تفافل بتا جائے تو اہستہ اہستہ وہی صوری سی بڑائی جڑ پکڑ لیتی ہے اور پھر اس کے برگ وبار اس قدر بھیل جاتے ہیں کہ ان پر قابو پاننا لکھن ہو جاتا ہے۔

سچ پسندید گرفتن پر مسیل  
پور پسندید گزشتہن پر پسیل

اس اقتساب کے بیان کی معروف اصطلاح امر بالمعروف اور نهى عن المکر ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نهى عن المکر کے فرض سے خلقت کی جانب توسیع کا پسل امر حله تو یہ سامنے آتا ہے کہ معروف، مکر اور مکر، معروف کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا امر حله یہ آتا ہے کہ طبیعتیں سخن ہو کر بدی کے ساتھے میں اس طرح دصل جاتی ہیں کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نهى عن المکر کے ذمہ دار تھے، وہ علائیہ بدی کا حکم دینے اور نیک سے روکنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا تیسرا امر حله یہ آتا ہے کہ علم خیقی کی روشنی بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے اور تمام معاشرے پر ایسا گھٹاٹ پہ اندر چھیرا چھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے علم رکھنے والوں کی عقل بھی چکر کھا جاتی ہے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اس فتنہ سے بھاگ کے کام جائیں اور کیا کریں؟ ان تمام مراحل کی تصور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرقع پر کھینچ دی ہے، ملاحظہ ہو:

کیف انتہا اذا طعی نسأؤكم	حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
و فتن شیء ابکم و تو کتم بجهادکم	اس وقت تھا را کیا حال ہو گا جب تھاری
قالوا و ان ذلک لکائن بیار رسول	عورتیں سے قاید ہو جائیں گی، تمہارے نزدیک
اللہ قال نعم و الذی نفسی بید	بڑچن ہو جائیں گے اور تمہارا جھوٹ بیٹھو گے
و اشد منه سیئ کون قالوا	لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ کیا یہ بھی ہوتے
و ما اشد منه یا رسول الله	والا ہے، آپ نے فرمایا، ماں خدا کی قسم
قال کیف انتہا اذا تاہرا	جس کے قبضہ میں بیڑی جائیں ہے اس سے
باکم عرف و تنهوا عن المکر	بھی زیادہ سخت مرحلہ آتے والا ہے، لوگوں
قالوا او لکائن ذلک یا رسول	نے پرچا، یا رسول اللہ؟ اس سے زیادہ
الله، قال نعم و الذی نفسی	سخت مرحلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس
بید ک راشد منه سیئ کون	وقت تھا را کیا حال ہو گا جب تم نیکی کا حکم

قَالُوا رَبَا أَشَدُ مِنْهُ ؛ دُرْگَے نہ براہی سے روکو گے، ورنگوں نے کہا یا رسول  
 قَالَ كَيْفَ اتَّهَمَ إِذَا سَأَبَتْ تَعْرِفَ مُنْكِرًا ؛ اللہ بکایا یعنی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا:  
 وَالْمَنْكَرُ مَعْرُوفٌ فَمُنْكِرًا ؛ اس خدا کی قسم ہیں کے تبصرہ میں یہی جان ہے  
 أَوْ كَاشِنْ ذَلِكَ يَارَسُولُ اللَّهِ ؛ اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ سامنے آئے والا ہے  
 أَوْ كَاشِنْ ذَلِكَ يَارَسُولُ اللَّهِ ؛ قَالَوا  
 اللَّهُ ؛ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَشَدُ مِنْهُ ؛ قَالَ  
 مَنْكِرٌ بُنْجِيَّةً ؛ تمارا کیا حال ہو گا؟ جب تم دیکھو گے کہ معروف  
 مَنْكِرٌ بُنْجِيَّةً ؛ مٹکنگوں نے اور منکر معروف بن گیا ہے؟  
 دُرْگَنْ نے کہا، یا رسول اللہ؟ کیا یعنی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، ملاں اور خدا کی قسم  
 دُرْگَنْ نے؟ آپ نے فرمایا، ملاں اور خدا کی قسم جس کے تبصرہ میں یہی جان ہے اس سے بھی  
 زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے، ورنگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ؟ اس سے زیادہ سخت کیا  
 ہو گا؟ آپ نے فرمایا، اس وقت تمارا کیا حال ہو گا، جب تم پڑاں کا حکم دو گے اور بھائی سے  
 روکو گے؟ ورنگوں نے کہا، یا رسول اللہ؟ کیا یعنی بھی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، اور  
 اس خدا کی قسم ہیں کے تبصرہ میں یہی جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت وقت آنے والا  
 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اس وقت میں ان کے یہے  
 ایسا فقرہ برپا کروں گا کہ بڑے بڑے مانش و در  
 بھی چکر میں پڑ جائیں گے۔

اک حدیث سے وہ پوری تدریج سامنے آ جاتی ہے جب تدریج سے احتساب کے فرض سے غلط نمایاں ہوتے ہیں فتنہ کی تاریکی پر صنی شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس طرح چھا جاتی ہے کہ یہ بڑے بڑوں کو بھی نیکی اور سچائی کی راہ سمجھائی نہیں دیتی اور انکھیں رکھنے والے بھی اندھے بن جاتے ہیں۔

**مذکورہ بالاصفرون کی تائید بعض دوسری حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً :**

ان النبی سلی اللہ علیہ وسلم  
قائل والذی نقصی بیلکل تأهن  
بالمعروف و تنهون عن المنکر  
اویسوشکن اللہ ان بیعثت علیکم  
عدا یا من عتدہ ثم لتدعوته  
فلا یستحاب لکھ۔

کل قسم عین کے بغیر میں یہی جان ہے یا تو تم  
نیک کا حکم دو گے اور برائی سے روکر گئے یا  
یہ ہو گا کہ اشر تم پر اپنی طرف سے ایک عذاب  
بھیجے گا۔ پھر تم اس کو پکار دو گے لیکن تمہاری شخصی  
نہیں جائے گی۔

ایک دوسری حدیث میں یہی حقیقت ایک دوسرے اسلوب سے بیان ہوئی ہے:

ما من قوم يعمل فيه  
يالمعاصي ثم يقدرون  
على ان یغیر واثم لا یغير دون  
الا ان یوشك ان یعدهم  
اما الله بعقاب

جس قوم کے اندر برائی پھیل رہی ہو اور اس کے  
اندر ایسے لوگ ہوں جو اس کی اصلاح کر سکتے  
ہوں لیکن وہ اصلاح نہ کریں تو اس کے معنی یہ  
ہیں کہ وہ وقت قریب آ لگا ہے جب  
الله تعالیٰ ان سب کو کسی عذاب میں پکے  
ایک حدیث جو میکٹ ٹھیک قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر ہے اس حقیقت کو  
یوں واضح کر رہی ہے:

ان الله تعالى لا يعذب  
العامنة بعمل الخاصة  
حتى یرو المنکر بین  
نک من انتہی دیتا جب تک ریاست پیدا  
ظہرا یتھر دھرقا درون

انتہ تعالیٰ نخواز سے سے بڑے لوگوں کے بڑے  
اعمال کی پاداش میں دوسروں کو اس وقت  
 حتی یرو المنکر بین  
نک من انتہی دیتا جب تک ریاست پیدا  
ظہرا یتھر دھرقا درون

علی ان یعنکر وہ فلایتکارا  
ہرئے بیکھیں اور وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے  
ذَذْ فَعْلُوا ذَلِكَ عذَاب  
پر قادر بھی ہوں لیکن وہ آواز نہ اٹھائیں جب  
الله العاًمة والخاصة  
وہ ایسا کرتے ہیں توانہ تعالیٰ ان کے بڑوں  
اور بچوں سب کو مزرا میں دیتا ہے۔

اس مابہب میں سب سے زیادہ اہم حدیث، ذیل کی حدیث ہے جو نہایت واضح طور پر  
کھول دیتی ہے کہ اگر کسی قوم کے اہل علم احتساب کے فرض سے غافل ہو جاتے ہیں یا مخفی مناقب  
قسم کے احتساب پر قانع ہو جاتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو علم و ایمان کی نعمت سے محروم  
کر دیتا ہے۔

لما وقعت بتواس ائیل فی  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی  
المعاصی نہ تھم علماء ہم  
اسرائیل گناہوں میں جتنا ہر نے لگے تو ان کے  
علماء نے شروع شروع میں ان کو روکا لیکن جب  
فلح تنتہوا فجایا سو ہم فی  
وہ یا زند آئے تو بالآخر انوں نے ان کے ساتھ  
جھائیا سو ہم اکلو ہم و  
اعلان نے شروع شروع میں ان کو روکا لیکن جب  
شاس بیو ہم فضل رب اللہ  
انہا بیٹھنا اور کھانا پیٹھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ  
تلویب بعضہم ببعض  
نے ان بیس سے ایک گروہ کے دوں کی بیاہی  
فلعنة حم على لسان داؤد و  
دوسروں کے دلوں پر تھوڑ پر دی اور حضرت  
داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے  
شاس بیو ہم فضل رب اللہ  
ان پر لغت کر دی گئی۔

**علم حقیقی کو بر باد کرنے والی چیزوں میں سے ایک پیغمبر بدعت بھی ہے۔**

**بدعت** | بدعت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے وین میں نہیں ہے اور نہ اس کے مزاج  
سے کوئی مناسبت ہی رکھتی ہے اس کو وین میں ٹھونسنے کی کوشش کی جائے۔ شریعت میں  
اصل و اساس کی چیزیت صرف اس پیغمبر کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آماری ہے یا پفری صلی اللہ  
علیہ وسلم سے صحیح طریق پر ثابت ہے اس کے بعد اگر کسی پیغمبر کو شریعت کے اندر سمجھا جاسکتا  
ہے تو اس پیغمبر کو سمجھا جاسکتا ہے جو مذکورہ اساسات سے مستنبط ہوئی یا کہ انکم کم اکثر اشارات

سے سمجھی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز دین میں لا داخل کرنا جو نہ دین کے کسی اصول سے نکھلتی ہو اور نہ اس کے مجموعی نظام ہی سے کوئی جوڑ رکھتی ہو، پدھرت ہے، وہ بالخصوص جس چیز کے بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت موجود ہو اس میں مخفی اپنے ذوق اور اپنی ایجاد سے کوئی اضافہ کرنا یا اس سنت کا پہل پیدا کرنا بدعوت کی نہایت ہی مکروہ قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تمام دینی ایجاد اور بدعوت کے بارہ میں یہ جامع حکم دیا ہے،

**من احادیث فی اهـ تا هذـ اما** جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا چیز بلا  
د داخل کی جو اس سے جوڑ نہیں رکھتی تا سی شے  
لیس صنہ فہوس ڈ۔  
(متفق علیہ) مردود ہے۔

بعض احادیث میں آپ نے بدعوت کی تردید فرماتے ہوئے علم دین کے بنیادی مقدوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان سے ہٹ کر کوئی چیز دین میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا بدعوت ہے۔ اگر کوئی چیزان کے اشارات سے نکل رہی ہو یا ان کے حدود کے اندر داخل ہو یا وہ زندگ کے اس دائرہ سے تعلق رکھنے والی ہو، جس کو اسلام نے ہماری اپنی صواب پیدا پڑھوڑا ہے، تو وہ چیز بدعوت نہیں کہلاتے گی۔

**اما بعده فان خیر الحدیث** آپ نے فرمایا بہترین بات اللہ کی کتاب ہے  
**کتاب اللہ و خیر الهدی هدی** اور بہترین طریقہ محمدؐ کا طریقہ ہے اور بدترین  
**محمد و نئی الامور حذرا ثاتها** چیز وہ ہیں جو ان کے اندر ان سے بے جوڑ  
**و حکل بدعۃ ضلالۃ (مشکوہ بحوالہ)** تھی پیدا کی جائیں اور ہر ایسی بدعوت گرا ہی ہے،  
اس بدعوت کی سب سے بُری قسم یہ ہے کہ کسی جاہل فکر و فلسہ، کسی غیر اسلامی طور طریقہ اور کسی کافرانہ زندگ و حسنگ کو اسلام کے عقائد و ایمانیات یا اس کے نظام معيشت و معافیت یا انظام تہذیب و تہذیک میں گھسانے کی کوشش کی جائے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

**ابغض الناس الى الله ثلاثة** اللہ تعالیٰ کے زدیک تین شخصیت سے  
**ملحد في الحرم و مبذنة** تیادہ قابل نفرت ہیں۔ ایک وہ بوجرم کے

فی الْاسْلَامِ سَنَةُ الْجَاهِلِيَّةِ      اندر کسی بے دینی کا ازٹکاب کر کے دوسرا  
و مطلب دمر اھرء مسلمو      وہ جو اسلام کے اندر جاہلیت کے کسی  
طریقہ کو کسانے کی کوشش کر کے تیسا ر  
لیہریق دھمہ۔  
(مشکوٰۃ بحوالہ زخاری)      وہ جو کسی مسلمان کی جان کے درپے ہتا کر  
اس کا خون بدلنے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمادیا ہے کہ ہر بدعت جو الحجہ  
کی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی سنت کو ضرور ڈھاتی ہے اور جب کوئی قوم سنت کی جگہ بدعت  
کو پسند کرنے لگتی ہے تو ائمہ تعالیٰ اس کو سنت کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، اس پ کا  
ارشاد ہے:

مَا أَحَدَثَ قَوْمٌ بِدُعَةً      جس قوم نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی تو اسی<sup>۱</sup>  
الاَدْرَقُ مِثْلُهَا مِنَ السَّنَةِ      کے انداں کے اندر سے سنت اخھا  
(مشکوٰۃ بحوالہ احمد)      لی گئی۔

**تحریک** | بدعت کے بال مقابل علمِ حقیقی کو تاراج کرنے والی دوسری چیز تحریک  
ہے، بدعت میں غالب پہلو یہ ہے کہ جو پیز دین کی نہیں ہے اس کو دین  
میں شکو نسے کی کوشش کی جائے اور تحریک میں غالب پہلو یہ ہے کہ جو پیز دین کی ہے  
اپنے اغراض و خواہشات کے خلاف ہونے کے بیس سے اس کو دین سے نکالنے کی  
کوشش کی جائے۔ علمِ حقیقی پر یہ آفت متعدد شکلوں میں نازل ہوئی ہے۔

اس کی ایک عام اور معروف شکل تو یہ ہی ہے کہ ائمہ اور اس کے رسول کے کلام  
کی ایسی بن ماں تاویلیں کی جائیں جو اس کلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہ رکھتی ہوں۔ الفاظ  
تو اعدیز بان، بیاق و سباق، نظائر و شواہد اور خود مشکلم کے درمیے اقوال و ارشادات پنج پنج  
کراس نادیل سے اپنی بیزاری کا اعلان کر رہے ہوں، لیکن بعض اپنی خواہشات نفس کی  
اتیاع میں اس تاویل کو کلامِ اللہ پر یا کلامِ رسول پر چکنے کی کوشش کی جائے۔

اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ تاویل و تفسیر کے تناقض میں پڑنے کے بجائے سرے سے

اس چیز ہی کو بدل دالا جائے جو امر حق کی طرف رہنمائی کے لیے نشان راہ ملکام دے رہی ہو۔  
نقی کو اثبات، شک کو نقین، نزید کو بجز اور دل کو رات بن کر اصل حقیقت کی اس طرح قلب  
ماہیت کرو جائے کہ اس کو پہچانا محال یا تقریباً محال ہو جائے۔

اس کی تیسرا شکل یہ ہے کہ فقط یا فقرے کو قرأت اور طرزِ ادا کے تصرفات سے اٹھ  
بدل دیا جائے کہ وہ جس حقیقت کی طرف رہنمائی کے لیے وضع ہوا تھا اس سے ہٹ کر ایک  
بالکل ہری مختلف سمت میں ٹڑ جائے۔

تحریک کی مذکورہ بالائیوں شکلوں کی طرف قرآن مجید نے یہود کے حالات بیان کرتے  
ہوئے اشارہ کیا ہے۔ مثلاً فرمایا ہے:

الفاظ کو ان کی بُجُول سے ہٹاتے ہیں۔ اور انہوں نے اس چیز کا ایک حصہ فراموش کر دیا جس کے ذریعہ سے ان کی یادِ بانی الگ گئی خنی اور تم علماں کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہو گے۔	۴۰۷۷ وَمَنْ حَرَّقَ قُوَنَ الْكَلَحَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا أَمْمًا ذُكِرُوا يٰهُ وَلَا تَرَالُ نَطْلِعُ عَلَى حَدَائِثِهِ مِنْهُمْ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**دوسری جگہ ہے:**

اور یہودیوں میں سے وہ بھی ہیں جو کھات کو ان کی بُجُول سے ہٹاتے ہیں اور کتنے میں سخا و عیناً اور آسخ غیر مسح "اور" راعنا" اپنی ریاضی مذکر اور دین کی تربیت کے لیے۔	۴۰۷۸ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحرِقُونَ الْكَلَحَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا حَصَبِيَّتَا وَاسْمَعْ غَيْرَ صَمِيمٍ وَلَا عَنَا لَيَكُمْ بِالسِّتِّيْهِ وَطَعْنَاتِ الدِّينِ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یہود و نصاریٰ کے اندر تحریک کی یہ عینوں تھیں، پائی جاتی تھیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے  
ان کو علم حقیقی کی روشنی سے بالکل ہی محروم کر دیا۔ مسلمانوں کے اندر جو گمراہ فرقے اُٹھے وہ تحریک  
کی پلی اور دوسری قسم پیدا کرنے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب و سنت  
کی لفظی تحریک میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر خاص فضل  
ہے۔

**کائن حق** اسی سلسلہ کی ایک ابھم پیغمبر کیمان حق بھی ہے۔ کیمان حق کا مفہوم یہ ہے کہ ایک امر کو جانتے ہوئے اور اس کے اظہار کی ضرورت موجود ہوتے ہوئے کسی طبع یا خوف کے سبب سے اس کے اظہار سے گریز کیا جائے۔

حق کی شہادت دینا اس امت کا تحقیقی فرضی مضمونی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد کے دین اور اس کے آثار سے ہوئے علم کو صاحبہ کو پہنچایا۔ اسی طرح اس امت کے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس علم کو رسول تک پہنچائیں:

كَذِيلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا  
تَتَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  
وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
شَهِيدًا۔

اسی فرضیہ کی ادائیگی کا مطابقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے ان الفاظ میں فرمایا ہے:

بَلَغُوا عَنِّي وَلَوْا يَهْ

تم میری طرف سے لوگوں کو علم حق پہنچاؤ،  
اگرچہ ایک آیت ہی سی۔

اسی تحقیقت کی طرف حضور مجتبی نے ان الفاظ میں ترجیہ دلائی ہے،

أَشْرَقَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي  
رَكَّبَهُ جِنْ نَفَرَهَا دَادَاهَا

نصر اللہ عبدًا سمع مقالتی رکبے جس نے میری بات سنی، پھر اس کیا دادا۔

اور جو رُگ علم رکھتے ہوئے اس کو چھپاتے ہیں ان کو حضور مجتبی نے یہ دعید سنائی ہے:

بِلِحَاجَةٍ مِنْ نَكِيرٍ

من سئل عن علم علمه ثم جس سے علم کری ایسی بات ہرچی کئی، جس کتمہ الْجَحَدِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ کروہ جاتا ہے لیکن اس نے چھپائی تو اس کو تیامت کے دن آگ کی رکام لگائی جائے گا اس فرض سے عموماً دو پیغمبر یہ مانع ہوتی ہے ایک طبع دوسری خوف۔

ادمی ان لوگوں کے سامنے اظہارِ حق سے لازماً بھجکتا ہے جن سے اس نے کوئی طبع والبت کر رکھی ہو، ایسوں کے سامنے دین کی وہ باتیں تو کہی جاتی ہیں جو ان کو پسند ہوں۔ یا کہم از کم ان کو ان سے اختلاف نہ ہو لیکن وہ باتیں کہنا بخواہی کی خواہشوں کے خلاف ہوں اور جن سے ان کی بداغایا ہے لفاب ہوتی ہوئی، کہم از کم اس شخص کے یہ نامکن ہے جو ان سے اپنی کوئی دنیوی غرض رکھتا ہو۔ حضرت عبید اجبار نے حضرت عمرؓ کے ایک سوال کے جواب میں اسی حقیقت کو یوں اشارکارا کیا ہے:

ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ  
قال لکعب من ارباب العلم قال  
الذین يعلمون بما يعلموں قال  
فما اخرج العلم من قلوب العلماء  
قال الطمع - (مشکوٰۃ بحوالہ دارمی)

پوچھا کر اب علم کون رک ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، انہوں نے پھر پوچھا کہ علم کو علمائے کے سینتوں سے نکالا کس چیز نے؟ انہوں نے جواب دیا، لائچ نے

یہی صاحبِ طبع اور خوشامدی گروہ ہے جس نے اپنے اغراض کے لیے اربابِ اقتدار کی ہر بے راہ روی اور گمراہی کو دین ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس طرح وہ خود بھی ذیل ہوا اور اس نے دین کو بھی ذیل کیا۔ انہی لوگوں کے متعلق حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا ارشاد ہے:

قال لوان اهل العلم صانعوا  
العلم و وضعوا عند اهله  
لساس وابه اهل زمانهم  
ولكنهم بذلك اهل الدنيا  
ليتنا لوابه اهل الدنيا فهاقعا  
عليهم

فریما کہ اگر اب علم اپنے علم کی قدر کرتے اور اس کو اس کے حق داروں کے سامنے پیش کرتے تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے زمانے کے لوگوں پر سرداری کرتے، لیکن انہوں نے دنیا داروں سے صلح حاصل کرنے کے لیے اس علم کو ان کی مقصد برپا یوں کے لیے استعمال کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نگاہوں میں ذیل ہو کے رہ گئے۔

اسی قسم کے اقتدار پرست اور دین فروشن گروہ کا ذکر حضورؐ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ نَهَىٰ عَنِ الْمُحْبَرِ فَإِنْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَجْتَنِي  
 مِنْ الْفَتَادِ إِلَّا الشُّوْكَ  
 كَذَلِكَ لَا يَجْتَنِي مِنْ قَرْبِهِ  
 (مشکراۃ بحوالہ ابن ماجہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ  
 علیہ وسلم ان انسان انساً من  
 امته سید تفہومون فی الدین  
 دیقرون القرآن یقولون  
 نساق الاحراء فنصیب من  
 دنیا هم و نعتز لہم رب دیننا  
 شیں ہے جس طرح بہول کے درخت سے  
 سامنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا،  
 اسی طرح ارباب اقتدار کے ذراؤں کا خیال  
 ہے گئے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

اسی قسم کے خوشامدی اور ارباب اقتدار کی عبادت کرنے والے دین فردشون کے متعلق  
 حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ائمہ کے سب سے زیادہ مبغض ہیں اور یہی اس قسم کے لوگ  
 پیدا ہونے لگیں گے تو دین کی ساری حقیقت مدھ جائے گی۔ صرف کچھ رسم اور الفاظ باقی رہ  
 جائیں گے حضرت کا ارشاد ہے،

انْ مَنْ أَيْغَضَ الْقِرآنَ إِلَى اللَّهِ  
 تَعَالَى الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأَهْلَءَ  
 يُوْشِدُونَ بِأَنَّ بِيَقِنَّا عَلَى النَّاسِ  
 زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْقِرآنِ  
 إِلَّا دَرْسَهُ.  
 (مشکراۃ بحوالہ سہیقی)

خدا کے زدیک سب سے زیادہ بڑے  
 وہ دیوان علم قرآن ہیں جو ارباب اقتدار  
 کے تقرب کے لذب گار ہیں ترقی ہے  
 کہ وہ زیادائے گا کہ اسلام میں سے صرف  
 اس کا نام باقی رہ جائے اور قرآن میں سے  
 صرف اس کے الفاظ۔

دوسری چیز جو اظہارِ کلڑ حق سے مانع ہوتی ہے وہ خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف مختلف چیزوں  
 کا ہوتا ہے کبھی اس امارت و بیادت کے چھپنے جانے کا ہوتا ہے جو آدمی کو حاصل ہوتی ہے کبھی عوام  
 کی بہی اور غشیگی کا اندیشہ ہوتا ہے، کبھی ارباب اقتدار کے غصہ و غضب اور اس کے لازمی

نتیجہ کے طور پر کسی ازماش کے پیش آجائے کا خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کو قرآن نے متعدد مقامات پر بڑی وفاہت کے ساتھ منافقین کی صفات میں سے گنایا ہے اور اپنے مسلمانوں کی تعریف اس کے مقابل میں یہ بیان کی ہے:

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ رِيقَوْمٌ  
يُحِبُّهُمْ حَرًّا وَ يُحِبُّونَهُ أَذْلَلَةً  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَلُهُ عَلَى  
الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَهُدُونَ فِي سَيِّئَاتِهِ  
مِنْ جَهَدِهِمْ كَمْ فُونَ لَوْمَةً لَكَائِرٍ  
اللَّهُوَكَلَا يَخَا فُونَ لَوْمَةً لَكَائِرٍ  
كَمْ سُخْنَتْ هُرُونَ گَرِيْبَةَ رَاتِ  
مِنْ جَهَدِهِمْ كَمْ فُونَ لَوْمَةً لَكَائِرٍ  
مِنْ جَهَدِهِمْ كَمْ فُونَ لَوْمَةً لَكَائِرٍ  
(ماہہ: ۵۳)

اسی حقیقت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے:

لَا يَنْعِنَ أَحَدٌ مِنْ كُمْ صِيَّبَةٍ  
النَّاسُ أَنْ يَقُولُوا بِحَقٍّ أَذَا  
نَّهَ كَمْ بَيْبَ كَمْ دَهَ اَسَ كَرْ جَانَاهُوْ.  
عَلَيْهِ

اسی چیز کو اس مشہور حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔

أَفْضَلُ الْجَهَادِ كَلَةٌ حَقٌّ  
سَبَقَ زِيَادَه بَارِكَ جَهَادُ كَسِيْعٍ سَعْيٍ سَعْيٍ  
صَاحِبُ اقْتِدَارٍ كَمْ سَانَهْ كَلَهُ حَنَّ كَمْ  
عَنْدَ سُلْطَانٍ جَاهَرٍ.

کہنا ہے۔

اگر تم کے اندر اظہار حق کا یہ جو ہر باقی نہ رہے اور مدعاہت اور کتمان حق کی بجاہی پھیل جائے تو پھر اس کی سزا اس قوم کو یہ ملتی ہے کہ اس کے اندر سے علم حق غائب ہو جاتا ہے۔ پھلی امتیوں میں سے یہود و نصاری اس کی نہایت بورت انگریز شاہ موجود ہیں۔

**اس شتعال بالادنی** | علم حقیقی کی نعمت سے محروم کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ درستے حقیقی علوم کو اس علم پر تزییغ دی جائے اور آہستہ آہستہ یہ بدعتاتی اس قدر بڑھ جائے کہ پھر طبیعت کے اندر اعلیٰ اور حقیقی علم کے لیے سرے

سے کوئی رغبت، ہی باقی نہ رہ جاتے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے پڑھنے پڑھانے سے ذمہ داری منفعتیں اور غرائزیں حاصل ہو سکتی ہیں یا جن چیزوں کا علم وقت کی سوسائٹی میں شہرت اور حصول مقاصد کا ذریعہ بن سکتا ہے یا جن چیزوں کا مطالعہ لذت اور بے فکری کے ساتھ اوقات گزاری کا سامان فراہم کر سکتا ہے، طبیعتیں انہی کی طرف مائل ہوتی ہیں اور یہ میلان اس قدر غالب اور ہمہ گیر ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے سوانح یا توانے سے قدامت پرست ہوں یا زمانہ کے روحانیاتِ عام بلکہ اس کی وباۓ عام سے لے کر چینے کا دم داعیہ رکھتے ہوں اور کوئی بھی اس بابت کی بحث نہیں کر سکتا کہ اپنا اور اپنی اولاد کا وقت ان چیزوں کے سیکھنے سکھانے پر صائم کرے جو حقیقت کے نقطہ نظر سے خواہ کتنی ہی قدر و قیمت کی حالت ہوں لیکن وہ کے بازار میں ان کی کوئی مانگ نہ ہو۔

پچھلی ملتوں میں سے یہ دلیل کے متعلق صفات قرآن بیان ہوا ہے کہ جب ان کے اندر کلدانیوں کے علوم، سحر و ساحری اور صوفیاتہ قسم کے علوم مثلاً علم خواص کلمات اور عملیاتِ حجہ و بعض اور تفسیرِ خلافت و شیاطین کا زور ہوا تو ان میں وہ اس قدر منہج ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب پیش کیے پھر یہ پھینک دی، اس کے سیکھنے سکھانے کے لیے ان کے اندر سے سے کوئی میلان باقی ہی نہیں رہ گیا۔ چنانچہ قرآن نے ان کا حال یہ بیان کیا ہے :

وَكَتَبَ جَاءَ هُنْهَرَ رَسُولُ مِنْ  
عَنْهُدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَهِمْ  
نَبَأَ فَرِيقٌ مِنْ الظَّرِينَ  
أُوْنُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ  
وَرَأَءَ ظَهُورَ هُنْهَرَ كَانُوكُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ هَوَ أَتَبْعَوْا مَا  
تَتَلَوَّ الشَّيَّاْ طَبِيعَنْ عَلَى مُلْكِ  
سُلَيْمَنَ ط

اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اور  
کی طرف سے بھی ثابت کرنے والا ان  
پیشیں گروں کو جوان کے پاس موجو دھیں  
تو ان لوگوں کے اندر سے ہن کرتا بھی  
تھی ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پرو  
پشت ڈال دیا، اگر یادہ اس سے رافت  
ہی نہیں اور پھر یہ پڑ گئے، ان چیزوں کے  
جرتیاں سیمان کے زمانہ میں پڑھنے پڑتے

پھر اسی سلسلہ میں فرمایا ہے

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا  
يُفِرِّغُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَةِ  
وَرَجْلِهِ وَمَا هُمْ بِضَارٍ إِذْ  
يَهُنَّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِمَا ذُنِّ  
اللَّهُ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا  
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۔

پس ان سے سیکھتے تھے وہ علم جس کے  
ذریعہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان  
جدال کر اسکیں حالاں کہ اس کے ذریعہ سے  
وہ خدا کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں  
پہنچا سکتے تھے اور وہ سیکھتے تھے وہ علم  
جو ان کو نقصان پہنچا تا ست ۔ نفع نہ پہنچا

(بقرہ : ۱۰۲) تھا ۔

یہی صورت مسلمانوں کے اندر اس وقت پیش آئی جب یونانی علوم کا فتنہ پھیلا۔ عبادیوں کے  
زمانہ میں جب منطق و فلسفہ اور دوسرے یونانی علوم کی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور مسلمانوں نے ان کا  
پڑھنا پڑھانا شروع کیا تو تھوڑے ہی عرصہ میں یہ حال ہو گیا کہ بہتر سے بہتر دینی حلقوں میں بھی قرآن اور  
حدیث کا علم محض برائے تبرک رہ گیا۔ یہ پہنچیزوں وقت کی سوسائٹی کے دل و دماغ پر اس قدر  
چھا گئیں کہ وہ شخص پڑھا کر ہا نہیں سمجھا جاتا تھا جو ان پہنچیزوں کے اندر کچھ دخل نہ رکھتا ہو۔ اول  
تروگوں میں دین کو پیش کرنے کا دلوں ہی سرد پڑ گیا لیکن اگر کچھ باقی رہا جی تو اس کی جگات بہت کم  
لوگ کر سکتے تھے کہ دین کو براہ راست کتاب و سنت کے واسطہ سے پیش کریں بلکہ وہ مجبور ہوئے  
کہ انہی بویسوں اور انہی اصطلاحات میں بات کریں جو منطق و فلسفہ کے رعب و اثر نے زبانوں پر  
چڑھا دی تھیں۔ تیسیوں یہ ہوا کہ دین کے پیش کرنے کا اصلی ذریعہ علم کلام بن گیا جس کو مذہب کی بگڑی  
ہوئی شکل کرتا تو اس کی عزت افزائی ہرگز البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فلسفہ اور منطق اور یونانی  
علم مناظرہ کی ایک منع شدہ شکل ہے ۔

اسی طرح ارباب تقویت نے اشراقیت اور دیدائیت سے بتوماں قبول کیا تو اس راہ  
سے بہت سے فتنے ایسے گھس کرے جو علم حقیقی کی راہمناگی سے محروم کرنے والے ثابت ہوئے  
اور بعد کے زمانوں میں تو ان لوگوں کا بیشتر اعتقاد صرف گندوں، توبیدوں اور تنفس و تائیر کے غلیات  
پر رہ گیا۔ جس نے ان پہنچیزوں میں کچھ دخل حاصل کر لیا اس کا کار و بار چل گیا اور جو اس میں پہنچے رک

وہ بالکل ہی ناکام ثابت ہوئے۔ بہت ہی تھوڑے سے لوگ ایسے نسلے جو اس روشنی عالم سے ہٹ کر چلتے کی جرأت کر سکے۔

اب اس دور آخر میں اس فتنہ کا بھو جال ہے اس کا اندازہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کر سکتا ہے کہ ہر علم، علم ہے، ہر چیز کے پڑھنے پڑھانے والوں سے مدرسے اور کالج بھرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ گندے سے گندے رسائے اور ناپاک سے ناپاک افساتے بھی لاکھوں کی تعداد میں اس عکس کے اندر پھیتے اور پکتے ہیں اور لوگ ان کو خریدتے اور پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پڑھنے پڑھانے والے مفقود ہیں تو یہ دہ علم ہے جس کو ائمہ اور رسول ﷺ کا علم کہا جاتا ہے۔

يَادَ دِتْ إِنَّ قَوْهِي أَتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔

## بیماریوں کا علاج

### إشتغال بالادنی کے اسباب اور اس کا علاج

پہچلی دو فصلوں میں ہم نے ان بیماریوں کی نشان دہی کی ہے جو علم و معرفت کے لیے جملک ہیں یہ بیماریاں یہ توہین سی ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے صرف دس ایسی بیماریوں کا پتہ دیا ہے جو بڑی کی چیزیں رکھتی ہیں اور جن میں سے ایک ایک کے اندر سے صد ہزار دھانی و اخلاقی بیماریوں کی شاخیں بھوٹی ہیں۔ ان میں سے چار بیماریاں توجیہ کر ہم نے بتایا ہے ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اس کے اندر حق طلبی اور حق شناسی کا داعیہ ہی سرے سے مردہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے حالات پر ایسا قافع، اپنے علم پر ایسا مطلع اور اپنے ماحول میں ایسا مست یا غافل ہوتا ہے کہ نہ تو خود اس کے اندر سے کسی قسم کی طلب یا پیاس اُبھرتی ہے اور نہ کسی کے توجہ دلاتے ہی پر اس کے اندر کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے بلکہ بعض حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی ہمدرد ذخیر خواہ اس کی بے حسی یا بے راہ روی پر اس کو ٹوک دے تو وہ اس کی اس ہمدردی کی قدر کرنے کے بجائے اُٹا اس کے سر ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کو کیوں ٹوکا ہے وہ اپنے آپ کو سر یعنی سمجھنے میں اپنی ہتک محروم کرتا ہے؛ اس کو اس تصور سے بھی غفرہ آتا ہے کہ کوئی شخص خود اس کے اندر بھی کسی مردن کی نشان دہی کر سکتا ہے یا اس کا علاج

کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہ صرف تند رست و تو انا خیال کرتا ہے بلکہ بعض حالات میں وہ دوسروں کا معاون اور طبیب بھی بتا بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ کس طرح گوارا کرے کہ دوسرے اگر اس کے پندارِ حذ انت کو مجرّد حکم کریں اور وہ ان کے مشورے سے قبل کر سکے دوسروں کی نظر وہ سے اپنے آپ کو گرانے اور اپنی جمی جمالی دکان ختم کر دے۔

اسی طرح ہم نے بتایا ہے کہ ان میں سے چھو بیماریاں ایسی ہیں جو اگر کسی صاحبِ علم و معرفت کو لگ کر جائیں تو اس کی نامہ حاصل کردہ دولتِ معرفت برپا ہو جائیں کرتی ہے۔ علم دایاں کا جو ذخیرہ اس نے مجع کیا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ تربیتِ اخلاق اور ترقیتِ نفس کے جو صراحت وہ طے کر چکا ہوتا ہے وہ سائے کے سائے نام طے کردہ بن کے رہ جاتے ہیں، وہ جہاں سے اس راہ میں چلا ہوتا ہے وہیں پھر ملپٹ جاتا ہے بلکہ بسا اوقات اس سے بھی پچھے پینک دیا جاتا ہے، بیان تک کہ اس کے یہے توفیقِ خیر کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں اور وہ سعفۃ الرحمۃ علیہ السلام کے یقین نہ صرف اتنے اسی سے موجود کریں جاتا ہے جو اس سے بخشنا گیا تھا بلکہ وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے جو اس کے اپنے پاس موجود ہوتا ہے۔

ہماری بھماں بیماریوں میں جواہمیت و دق اور سلہ کوڑھر اور حندام وغیرہ کو حاصل ہے اس سے زیادہ اہمیت ہماری روحانی و اخلاقی بیماریوں میں ان امراض کو حاصل ہے۔ اس وجہ سے ہم صرف ان کے بیان کر دیئے ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنے علم کی حد تک کتاب و مستحبت کی روشنی میں ان میں سے چند اہم بیماریوں کے اسباب اور ان کے ازالہ کی تبلیغ پر بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

**اعلیٰ کو چھوڑ کر اولیٰ کے اختیار کرنے کے اسباب** | اولیٰ اور شریف

۱۵۳ ہم نے صرف چند ہی بیماریوں کے اسباب اور ان کے علاج پر گفتگو کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی بیماریاں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور خاص توجہ کی ستحت ہیں۔ دوسری بیماریوں پر جواہمی بحث ہم نے پھر دو فصول میں کی ہے وہ ان کے اسباب و علاج پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔

کو نظر انداز کر کے کسی تغیر و رذیل کام کو انسان میں یہ بھی نہیں اختیار کر لیتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے پست اور رذیل نہیں بنایا گیا ہے کہ خواہ مخواہ پستیوں ہی کی طرف چکے اور گھبیا با توں ہی کو پسند کرے اپنی فطرت کے لحاظ سے تروہ حق طلب، خیر پسند اور اعلیٰ اقدار کا قدر دان پیدا کیا گیا ہے لیکن کچھ خاص اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بسا اوقات اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ اور خوب کو نظر انداز کر کے ناخوب کو اختیار کر لیتا ہے اور پھر اسی کے چھپے اپنی بیش قیمت زندگی گتو ابیٹھتا ہے۔ ہم یہاں ان اسباب کا کھوج لگائیں گے، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی اُن کے دور کرنے کی تدابیر کی طرف بھی اشارے کرتے جائیں گے۔

اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کے اختیار کرنے

### وقت کی قدر و قیمت سے بے خبری

وگ وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اصلی دولت وقت ہی ہے۔ جس نے وقت کو ضائع کر دیا اس نے سب کچھ ضائع کر دیا، قدرت نے انسان کے ہر لمحہ زندگی کے ساتھ ایک اہم فرض باندھ رکھا ہے جس کی ادائیگی ہی میں اس کی زندگی کی سادی عظمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر وہ اپنی زندگی کے کسی لمحہ میں بھی اس فرض کو پہچاننے یا ادا کرنے میں کوتا ہی کر جائے جو اس لمحے کے ساتھ مخصوص ہے تو پھر اس فرض کا وقت زندگی میں کبھی بھی نہیں آتا کیوں کہ اس کے بعد اس کو زندگی کے جو لمحات بھی میسر ہوتے ہیں وہ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں ساتھ لاتے ہیں، اس وجہ سے جو فرض رہ گیا وہ گریا ہمیشہ کے بیٹے رہ گیا۔ اگر اس کو اس کے اصل وقت کے بعد پورا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بغیر اس کے ملک نہیں ہے کہ اسی کے مساوی یا اس سے بھی زیادہ بھاری و دیر کسی فرض کو اس کی خاطر نظر انداز کیا جائے جس نے یہ کہا ہے کہ :

یک لحظہ غافل بودہ اسم حمد سالہ را ہم دوڑند

اس نے محض ایک شاعرانہ خیال ہی نہیں ظاہر کیا ہے بلکہ زندگی کی ایک نمایت اہم حقیقت سے پر وہ اٹھایا ہے۔

وقت ایکسے گراں یا یہ دولت ہے اور اس دولت کی فطرت یہ ہے کہ پور کو چھوٹنے

کی پیشتر نہیں ہے، یہ بہت کے تواریخ کی طرح ہر وقت چھٹی رہتی ہے، اگر انسان اس سے پوری مستعدی کے ساتھ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ بہت جلد پانی کی روافی کے ساتھ بہر جاتی ہے اور انسان اپنی غذیت اور بد بجھی پر ہاتھ مtarہ جاتا ہے۔ پھر اس کی یہ بھی فطرت ہے کہ یہ ایک ششیروں دوام ہے جس کی کاش در طرف ہے اگر آپ اس کو اپنے حق میں استعمال نہ کر سکے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ اس پر کے خلاف استعمال ہوا اگر اس کے ایک ایک لمحے کے پدال میں آپ نے اجر نہیں کایا تو صرف یہی خسارہ نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے سرمایہ سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کا اصل در دنیجہ زندگی ہے کہ صائع شدہ زندگی کا ایک ایک پل آپ کے لیے وہاں بناء یہ رائیگاں جنے وال زندگی صرف رائیگاں ہی نہیں جاتی بلکہ انسان پر ایک ابھی لعنت بن کر مسلط ہو جاتی ہے۔ سورہ در العصر میں اسی تجھیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ سورہ وہ سورہ ہے جس کی نسبت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر قرآن میں سے اور کچھ نہ اترتا، صرف یہی سورہ اترتی تو ہمارے لیے کافی تھی۔ فرمایا،

وَالْعَصْرِ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي  
زَمَانٍ شَاهِدٍ ۗ هُوَ  
خُسْرٌ ۚ إِلَّا كَمَا الَّذِينَ أَمْنَوْا  
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ وَتَوَاصَوْا  
بِالْحَقِيقَ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّمْبَرِ ۚ

یہ سورہ جہاں اور پر کے حتائقی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو یہیں ایک اور بار ایک نکتہ کی طرف بھی اس سے راستہ ناہیں مل رہی ہے وہ یہ کہ انسان کے اس خسارہ کی وجہ پر ہے کہ وہ وقت اور اس کے صرف دو لوز کی قیمتیوں میں موازنہ نہیں کرتا، اس کا تجھیہ یہ ہے کہ وہ اثر فیاض تو ٹھاتا ہے اور کوئی لوں پر صفر کرتا ہے۔ جو اہرات دیتا ہے اور سنگرینے سے خریدتا ہے، کافیوں کو چلتا ہے اور بھپولوں کو بھینکتا ہے۔

اگر ایک انسان کے پاس ایک ہی روٹی ہو اور غوداں کو اور اس کے بچپوں کو فاقہ دریش ہو تو بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ اگر ایک مسافر کے پاس پانی کی ایک ہی چھاگل ہو اور اس کو صحرہ کا سفر درپیش ہو تو وہ اس پانی کو پاؤں وصولے پر کبھی صائع نہیں

کرے گا بلکہ اس کا ایک ایک قطرہ اپنی زندگی بچاتے کے لیے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا اگر کسی کے ترکش میں ایک ہی تیر ہو اور راستے میں اسے شیر یا بھیر بے سے دوچار ہونے کا اندریشہ ہوتا تو وہ یہ حقیقت کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس ایک ہی تیر کو گیدڑوں اور لامڑیوں کے شکار پر ضائع کر دے، بلکہ وہ اس کو اصل خطرہ کی مانع کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بھرت ہے کہ درہی انسان جو اپنی ایک روٹی، اپنے ایک چھاگل پانی اور اپنے ترکش کے ایک تیر کے معرفت کو متعین کرنے میں اتنا محتاط ہے جب اس کے سامنے خود اپنی زندگی جیسی بیش قیمت پریز کے معرفت کے متعین کرنے کا سوال آتا ہے تو وہ بالکل ہی نادان بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے حصے میں ایک ہی زندگی کی اُلیٰ ہے کہی زندگیاں نہیں آئی ہیں۔ اسی زندگی کے بعد میں ہم پا تو ابدی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یا ابدی خسروان، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ابدی کامیابی حاصل کرنا کوئی بچپن کا کھیل نہیں، یہ پریز حق خواہش کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لیے انسان کو تدم قدم پر محنت سر کرنی پڑتی ہیں اور زندگی کے ہر ٹوٹ پر معز کے جنتے ہوتے ہیں۔ بغیر ان معز کوں کے جنتے اور ان محنت کو سر کیے انسان ابدی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس واضح حقیقت کے باوجود دنیا میں اکثریت اُن لوگوں کی ہے جو اپنی زندگیاں نہایت حیثیت مقصداً پر ضائع کرتے ہیں، اس کی وجہ جیسا کہ بیان ہوئی بھی ہے کہ انہیں اس زندگی اور اس تدبیر چیات کی حقیقی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے جو ان کے حصہ میں آئی ہے وہ اس کی سیماں فطرت سے واقع ہیں، نہ اس کی رو طرفہ کاش کو جانتے ہیں اور غیر یہ جانتے ہیں کہ یہ خود تو اگرچہ عارضی اور فانی ہے لیکن وہ ایک ابدی اور لازوال زندگی کی قیمت بن سکتی ہے بشرطیکہ انسان اُس کو حقیر شکوں میں ضائع کرنے کے بعد اسے اسی صرفت میں صرفت کرے جس پر اس کو صرفت ہونا چاہیے۔

**اپنے مرتبہ سے بے خبری**

اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کی طرف مائل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اُس درجہ اور مرتبہ سے غافل ہو جاتا ہے جو قدرت نے اس کو بخشتا ہے۔ انسان اس تمام کائنات کی تجلیتوں کا مقصد اور موجود نہیں ہے۔ دنیا کی ساری پریزوں اس کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن وہ ان پریزوں میں سے کسی کے لیے

بھی نہیں بنایا گیا ہے۔ کائنات کی برقیز اس کے لیے سخر کی گئی ہے لیکن وہ کسی کے لیے بھی سخر نہیں کیا گیا۔ وہ ہر چیز کو استعمال کرتا ہے اور کر سکتا ہے لیکن اس دنیا میں کسی کا بھی یہ درجہ اور مرتبہ نہیں ہے کہ خود اس کو استعمال کر سکے۔ سب کے لیے فنا ہے لیکن انسان فنا ہو کر بھی باقی رہنے والا ہے۔ اس کی صد حیثیتیں اور قابلیتیں غیر محدود ہیں اور اس کے درجہ کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا اگر اس کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کر سکے تو دوسری مخلوقات تو درکنار فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ زمین میں خدا کا خلیفہ اور اس کا نائب ہے اور خدا کے سوا کوئی بھی اس سے بڑا نہیں ہے پورتہ ایک ایسا اونچا مرتبہ ہے کہ اس سے زیادہ اپنے مرتبہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ خدا نے اس مرتبہ کا انسان کے اندر شعور بھی دیعت کیا ہے اور اس مرتبہ کی انتہائی بلندی پر تک پہنچنے کے لیے اس کو قوتیں اور قابلیتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اگرچہ اپنے اس شعور کو زندہ رکھنا یا نہ رکھنا اور ان قوتوں اور قابلیتوں کو استعمال کرنا یا نہ کرنا خود اس کی اپنی آزادی رئے اور اپنی پسندیدیا ناپسند پر منحصر ہے اور یہ اختیار و آزادی بھی غور کیجیے تو اس کے عزت و شرفت ہی کا ایک پہلو ہے کیونکہ خدا نے اپنی مخلوقات میں سے انسان ہی کو اس شرط سے نزاکت ہے کہ وہ اپنی راہ اور منزل خود اشغال کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے اس اشغال میں لپٹے منصب اور مرتبہ کا لحاظ رکھتا ہے تو جس فطرتِ شاہینی کے ساتھ خدا نے اس کو پیدا کیا ہے وہ ظہور میں آتی ہے لیکن اگر وہ اپنے مرتبہ اور مقام کو جھوٹ جائے تو پھر وہ شاہین ہر کتنی بک فرد یا اور شیر ہو کر گرہ مسکین کی فطرت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کی طرف سرده و المیں میں اشارہ فرمایا ہے:

**لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ تَحَرَّدَ إِذْ لَهُ  
أَسْفَلَ سَكَافِلِنَ ۖ**

(سورة المیم) جہنوں نے ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیا

کی۔

اس احساسِ ثرث سے محروم ہو جانے کے بعد انسان جس طرح گرتا ہے اور اپنے اپ کراپیٰ تھیر در ذیل خواہشون کے جس طرح حوالہ کر دیتا ہے اور پھر اس کے لازمی تیجہ کے طور پر وہ جس درجہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی پُری تصور فرقہ مجید نے اعواف کی اس آیت میں کھینچنے کے رکھ دی ہے:

دَاتُلُ عَلَيْهِ حُدُنْبَاَ الَّذِي  
أَتَيْتَهُ أَبْيَتَنَا فَأَنْسَدَنَا هِنْهَا  
فَأَنْبَتَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ  
الْخَارِقِينَ وَلَوْ شَتَّنَا لَرَفَعْنَاهُ  
بِهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحْلَدَ إِلَى  
الْأَكْرَصِ وَاتَّبَعَ هَوَّاهُ  
فَمَنَّهُ كَمَنَّ الْكَلْبِ  
إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ  
تَنْزِلْهُ يَلْهَثُ .

ان لوگوں کو اس شخص کی سرگزشت سناؤ جیں  
کوہم نے اپنی آئیوں سے فواز اتواس نے  
یخلعت اماڑھنیکی جس کا تیجہ یہ ہوا کہ شیطان  
اس کے درپے ہو گیا اور وہ گمراہوں میں  
سے بن گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آئیوں  
کے ذریعے سے اٹھاتے لیکن وہ پستی  
ہی کی طرف مائل اس اپنی خواہشون ہی کے  
پیچے پڑا رہا تو اس کی شال کتنے کی ہو گئی  
کہ اگر اس کو دھنکا رہ جب بھی زبان نکالے  
رہتا ہے اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو  
جب بھی زبان نکالے ہی رہتا ہے۔

پیشہ سمجھتی و بے صبری اور مشقت طلب، صبر آزماء اور عنوانکروں سے کیسے ہیں ان کو انجام دینے کے لیے انسان کو ایک پڑھائی سی چڑھنی پڑتی ہے۔ برعکس اس کے گھبیا قسم کے جو کام ہوتے ہیں وہ نہایت سهل، بے مشقت اور نفسانی تقاضوں کو فوری تسلیکین ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انسان کو کوئی چڑھائی پڑھنے کی بجائے صرف نیچے کی طرف رٹھک جانا ہوتا ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ نماز اور تلاوت کے مقابلہ میں کب پشپ کرنا، مطالعہ کرنے کے بجاۓ سورہنما، فلسفہ پڑھنے کے بجاۓ ناول اور افسائے پڑھنا، ضبط نفس اور تربیت دفتر کیہ کا در در سر مول لینے کے بجاۓ اپنے اپ کو خواہشاتِ نفس

کی روپ پر چھپوڑ دینا، عامم ادمیوں کے لیے نہایت سهل اور لذتیز کام ہیں۔ میدان میں ڈٹ کر رونے کے بعد اسے اگر فرار اختیار کرنا ہو اور موجود اور با دمغافل سے نبرد آزمائی کی جگہ، کشتنی کو موجود ہی کے سوال کے کر دینا ہو تو آخر اس کے لیے ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر دینے کے سوا اور کس سلیقہ یا محنت کی ضرورت ہے؟ اعلیٰ کاموں کے مقابل میں ادنیٰ کاموں کی یہی فطرت ہے جو ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچ دیا کرتی ہے جو اپنے اندر ہمت اور اور العزم نہیں رکھتے اور جو محنت و مشقت کے بعد اسے کامل اور سلسلہ پسندی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ اور ادنیٰ کے اسی فرق کو ایک حدیث نبوی میں اس طرح واضح فرمایا گیا ہے کہ حفت الجنت نہ یا الْمَكَامُ الْمَحْفُظُ و حفت النَّاسُ بِالشَّهْوَاتِ جس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ کمال کی منزل مشکلات و مصائب سے گھری ہوئی ہے اور اہلِ خردان کی منزل خواہشات نفس سے گھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص بیشتر حاصل کرنا چاہے تو اس کو بے شمار مشکلات و مصائب سے لڑنا اور ان پر غالب آنا پڑے گا برعکس اس کے اگر کوئی شخص دوزخ میں گزنا چاہے تو اس کا معاملہ نہایت سہل ہے وہ کسی مزاحمت کا مقابلہ کیجئے بغیر اپنی خواہشات کے بیزبانیوں میں پھرتا پھرانا دہانک پہنچ جاتا ہے۔ نیکی اور بدی کے مزاج کا یہی اختلاف ہے جس کے سببے انسان نیکی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، کیونکہ اس راہ میں اس کو گھائیاں پار کرنی پڑتی ہیں اور قدم قدم پرانے نفس کی خواہشوں سے لڑنا ہوتا ہے میچانچہ خود قرآن نے اس راہ کے سفر کو «اتقىام عقبہ» سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی گھائی کو پار کرنا فرمایا ہے:

وَهَدَىٰ يَنَانَا إِلَى الْجَدِيدِينَ ۖ فَلَمَّا  
أَفْتَحَ حَرَّ الْعَتَّبَةَ ۖ وَمَا أَدْرِكَ  
مَا الْعَقِبَةَ ۖ ذَلِكَ رَمَبَّةٌ ۖ أَوْ  
إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذُو مَسْعَيَةٍ  
تَبَيَّنَمَا ذَامَقْبَلَةٌ ۖ أَدْهَسِيَكُنَّا  
ذَامَتَرَبَّةٌ ۖ ثُمَّ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ  
أَهْنُوا ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّدْرِ ۖ وَ

جو ایمان لائے اور جو ایک درس سے کوچھ  
غلام کو آزاد کرنا یا بیوک کے دن کسی قربت  
مند میریم یا کسی فاک نشین سیکھن کو کھانا کھلانا  
علاوہ ازیں ان لوگوں کے زمرہ میں سے بننا

تَوَاصُوا بِالْمَرْحَمَةِ وَأُولَئِكَ اور ہمدردی کی فضیلت کرتے رہے ہے یہی لوگ  
آتَحْبُ الْبَهْمَةَ -

بعنکس اس کے جو شخص بدی کے گڑھے میں گرنا چاہتا ہے وہ اپنی منزل بڑی تیزی سے طے  
کرتا ہے وہ بدکی کارڈ کرتے ہی خود بخوبی رکھتا ہوا اپنے پسند کردہ قعر ندلت گی گمراہیوں میں  
پہنچ جاتا ہے اس کا اشارہ شرس ددناؤ اسفل سافل سافلیوں میں "سافلیوں" کے لفظ سے  
ٹکل رہا ہے۔ اس کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہشاتِ نفس کے پیروں کو اس کی خواہشات  
کے خواہ کر دیتا ہے اور وہ رکھ رکھتا ہوا اخلاقی پستی کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔

اس موقع پر نفسِ انسانی کی اس خصوصیت کو بھی نکاہ میں رکھنا چاہیے جس کی طرف  
حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اشارہ فرمایا ہے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کو خلافت کی ذمہ داریاں  
پسرو کرتے وقت جو قسمی نصیحتیں فرمائیں فرمائیں ان میں ایک نصیحت یہ بھی نکھی کہ اس بات کو یاد رکھنا  
کہ نفس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی اگر ایک ناجائز خواہش پوری کر دی جائے تو پھر وہ دوری  
کے لیے باختہ پاؤں پھیلایتا ہے یعنی ایک کمزوری دوسری کے لیے اور ایک براں دوسری  
براں کے لیے خود را کھول دیتی ہے۔ اس وجہ سے یہ تری اسی میں ہے کہ نفس کو اس جانب  
ڈھیل ہی نہ دی جائے در نہ اگر ایک مرتبہ وہ اس راہ پر چل پڑا تو پھر اس کو اس سے مدد نہ آن  
نہیں رہے گا۔ ایک پڑا گاہ کے بعد دوسری پڑا گاہ اس کے سامنے آتی رہے گی اور وہ  
اگے ہی پڑھتا چلا جائے گا۔ پہاں تک کہ وہاں پہنچ جائے کا جہاں پہنچ کر واپس آنا ناممکن  
ہو جاتا ہے۔

## ادنی پرستوں کی کثرت

اعلیٰ کے مقابل میں ادنیٰ کے تزیع دینے کی ایک بڑی وجہ دنیا میں  
سلامتی دیکھتا ہے جو قافلہوں سے بھری ہوئی ہو جس کام کو اکثریت کر رہی ہو اس کے کرنے کے لیے  
صرف یہی نہیں کہ دل میں تحریک پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ چیز اس کے ایک اعلیٰ اور عمدہ کام ہونے کی  
ایک نہایت قویٰ دلیل بھی بن جاتی ہے۔ تاریخ کے ہر دوسرے میں جس چیز کا بھی زور ہوا ہے اس نے  
وابستے عام کی طرح ہر شخصی کو کچھ زندگی پر خود ممتاز کیا ہے اور اس تاثر میں اول تو اس کی راونگی قدر قوت

پرہبتوں کی نئے غور کیا ہے اور اگر کچھ لوگوں نے غور بھی کیا تو بالآخر انہیں بھی وقت کی عام پدماتی  
کے آگے پسروں والی پڑی۔ بنی اسرائیل کے بیگانے کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان  
فرمائی ہے کہ جب ان کے اندر خرابیاں پھیلنی شروع ہوئیں تو ابتدا میں ان کے علاوہ نے ان کو  
ان سے روکنا چاہا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وقت کے زمانہ عام کے آگے ان کے بیے  
بند بامدھنا مشکل ہے تو وہ خود بھی اسی زمانہ عام کی رد میں بنتے کے لیے تیار ہو گئے جس کی رزا  
ان کریمہ علی کہ اللہ تعالیٰ نے بگڑے ہونے لوگوں کے دلوں کی سیاہی ان کے دلوں پر بھی تھوڑے  
دی خود ہماری اپنی تاریخ پر بھی غور کیجیے تو کچھ بھی صورت حال یہاں بھی نظر آئے گی۔ صدر اول  
کو چھوڑ کر جس میں زندگی کے ہر شعبہ میں اعلیٰ اقدار کا حقیقی احترام باقی رہا، بعد کے ادواد کو دیکھیے تو  
علوم ہو گا کہ جس میں دُور میں جو چیز بھی ذہنوں اور دماغوں پر چھاگئی ہے اسی کا کلمہ سب پڑھنے لگے  
ہیں۔ جس دور میں شعر و ادب کا زور ہوا سب اسی رنگ میں مست نظر آتے لگے، جب یونان  
علوم کی گرم بازاری ہوئی تو ان علم کے آگے سارے علمیں بھی ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کے  
اعزاز و احترام میں کتاب و سنت کی بساط بھی پیٹ کر کھو دی گئی۔ اسی طرح جب تصرف  
کا چرچا پھیلا تو کتاب و سنت کی تعمیریں بھی اسی کی روشنی میں کی جانے لگیں، گویا یہ اصل ہے اور  
کتاب و سنت اس کی فرع ہیں۔ اب اس زمانہ کو دیکھیے تو مغربی علوم و فنون نے ہر شخص کو اس طرح  
سحود کر لیا ہے کہ کسی کو ہوش ہی نہیں کہ ان کے سوا کوئی اور علم بھی ہے جس کے سیکھنے سکھانے  
کی ضرورت ہے اور زندگی میں اس کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے۔ حالانکہ ہر چیز میں حق و باطل کے  
درمیان امتیاز کی کسری وہی ہے جس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے بغیر تو یہ سارے علوم و فنون  
انسانیت کے حقیقی فائدہ کے نقطہ نظر سے مزدروں زیادہ اور غنیدہ بہت کم رہ جاتے ہیں لیکن  
ہماری تاریخ میں بہت تھوڑی تعداد اپسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس ہمہ گیر فتنہ کے اندر اپنے ذہنی  
توازن کو تباہ کھا اور جو نہ توزمانہ کا ساختہ دیتے ہوئے اتنے عاجز اور بے بس ہوئے کہ وقت  
کے سیلااب میں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں اور نہ اتنے چاہدثابت ہوئے کہ سیلااب ان کے  
اوپر سے گزر جائے اور وہ اپنی جگہ ہی پتھر کی طرح پڑے رہ جائیں۔ درحقیقت یہی گنتی کے افراط  
ہیں جنہوں نے تمام طوفانوں اور تجدیدیوں کے اندر امانت کے سینہ کی ناخداں کی ہے اور اس کے

عزم ہونے سے بچا پایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے یہ معلوم کرتا بھی شکل ہوتا کہ ہماری تاریخ کماں سے شروع ہوئی اور کہاں پر جا کر ختم ہوئی، ہم صحرائیں ایک کھوئے ہوئے قافلہ کی ہاند ہوتے ہے کچھ پتہ نہیں کہ کہاں سے آئے ہیں، اور کہ چھڑ جانا ہے۔

**علم** اعلیٰ کر چکور کر ادنیٰ کے اختیار کرنے کے ان چاروں اسباب پر نگاہ ڈالیے تو ان کی تسلیم یا تو شور کی کمی نظر آئے گی یا ہمت کی۔ جو لوگ وقت اور زندگی کی ناقدری کے سبب سے یہ روشن اختیار کر لیتے ہیں ان کے اندر شور اور پیداواری کا نقدان ہے اور جو لوگ مشکلات کا ریا ہوئے گیر بکار ہے سے مرعوب ہو کر دیانتے عام میں مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر عزم اور یقین ناپید ہے۔ شور کو بیدار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز صاحبِ طبع ہے کام طالع اور فی شور لوگوں کی صحبت ہے، آدمی کو برابر ایسی چیزیں پڑھتے رہنا چاہیے جن میں زندگی کی حقیقتی سے پروہ اٹھایا گیا ہے جو لوگ کو بیدار کرنے والی اور کافی اور الحکومی کھوتے والی ہیں جو عقل کو چلا دیتی اور روح کو گرفتی ہیں، جن سے ایمان کو غذا ملتی ہے اور اس عالم قانون کی جگہ عالم باقی کی محنت پیدا ہوتی ہے، جن کے اندر معرفت کا نور اور علمِ حقیقی کی روشنی ہے۔ ایسی چیزوں میں سب سے اوپر درجہ کتاب اثر احادیث رسولؐ کا ہے۔ ان کے حدود حروف اور سطر کے اندر خالص حقیقت اور بالکل بے امیز علم ہے، ان کے بعد زبور، انجلی، امثال سیماں اور صالحین و مصلحین امت کی لکھی ہوئی چیزوں ہیں یا پھر ایسے جیجوں اور فلسفیوں کی چیزوں ہیں جنہوں نے فی الواقع زندگی کےسائل پر خود کیا ہے اور اس کے حقائق سے پروہ اٹھانے کی کوشش کی ہے ان چیزوں کے اندر کچھ خاڈیں اور امیرنشیں بھی ہیں اور جگہ جگہ ان میں فکر انسانی کی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں لیکن جو لوگ ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں وہ نہایت آسانی سے ان کے حق و باطل میں خود انتیاز کر لیتے ہیں۔

ہمت اور عزم است پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے اکثر قوایسی ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے اور ہم ان کی تفصیل آگے چل کر تذکریہ عمل کے باب میں کریں گے یہاں جس بات کا بتانا مناسب اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک حقیقت، جیسی کچھ بھی وہ ہے، پہلے آدمی کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لینی چاہیے۔ ایک حقیقت کو ٹھیک ٹھیک

سمجھ لینا ان تیاریوں میں بہت معین ہوا کرتا ہے جو ادمی کو اس سے عمدہ برآ ہونے کے لیے کرنی پڑتی ہیں۔

اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ جتنی بھی اعلیٰ قدریں ہیں وہ فطرت کو محروم ہونے کے باوجود اجنبی کا عرض کیا گیا ہے، مشقت طلب اور صبر ازما ہیں، پتال پنجہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ان کے چاہئے والے تو ہمیشہ زیادہ رہے ہیں لیکن عملًا ان کے اختیار کرنے والے ہمیشہ تھوڑے ہیں لیکن، ان کی خوبیوں اور برکتوں کے گون تو بزرگوں اور پرست ہمتوں نے بھی گائے لیکن ان کے حاصل کرنے کے لیے جن قربانیوں کی ضرورت تھی، ان کے پیش کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ اس صورتِ حال کی وضاحت اس راہ کے داعیوں نے ہمیشہ خود ہی کر دی ہے تاکہ درہی لوگ اس میں قدم رکھیں جو اس کی شکلات سے بعده برآ ہونے کے لیے اپنے اندر کچھ دم خمر رکھتے ہوں بخوبی اس وادی پر خار کی صوبتوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے، بہتر ہے کہ وہ اس کا رُخ ہی نہ کریں ۷۴

جس کو ہو جان دل عزیز اس کی گل میں جائے کیوں؟

حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے گئیکی کی راہ تنگ ہے اور اس کے چلنے والے تھوڑے ہیں اور بدی کا راستہ فراخ ہے اور اس کے پیلنے والے بہت ہیں ۷۵

اسی حقیقت کو قرآن نے اپنے الفاظ میں اسی طرح بیان فرمایا ہے:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنَّهُمْ كُوَافِرٌ  
كَيْلَوْنَ نَسْنَسَ الْجَنَّاتَ  
أَنْ يَقُولُوا أَمْتَازَ هُنُّ كَا  
يُفْدَنَوْنَ هَذِهِ فَدَنَّا  
الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَلَمْ يَعْلَمُنَّ  
اللَّهُ أَلَّا الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَمْ يَعْلَمُنَّ  
الْكَارِذِينَ

کیا لوگوں نے گان کر رکھا ہے کہ وہ مخفی  
یہ کتنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان  
لائے اور ان کی جائیج نہیں ہوگی ۷۶ حالانکہ  
ہم نے ان لوگوں کو جانچا جو ان سے پہلے  
گز سے تو اس ضرور چھانٹے گا ان لوگوں  
کو جنہوں نے سمجھ کیا اور ان لوگوں کو جو

چھوڑتے ہیں۔

(عنکبوت: ۳۰-۳۱)

قرآن مجید نے اس حقیقت کو بھی نہایت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اس دنیا میں اگرچہ

خوبیت اور نہاشت پسندوں کی اکثریت ہے اور یہ اکثریت کمزور اور سپتہ بہتر کرنے کی تھی  
پسندوں کی پر اکساتی بھی ہے لیکن خدا کی میزان میں یہ حال و زان طیب ہی کا ہے اور فلاح پانے  
والے وہی ہوں گے جو خوبیت کی اس کثرت سے مروء ہوں بلکہ طیب کو اختیار کریں، اگرچہ یہ  
خود بھی کم ہوا اس کے لیے بازیاں کھینچنے والے بھی کم ہی ہوں۔

**قُلْ لَا يَسْتَوِي الْجِنَاحُ دَالْطَّيْبٌ كَمْ دَوْخَدَكَ مِيزَانٌ مِّنْ خَيْرٍ وَأَنْ طَيْبٌ  
دَلْكُو أَنْجَدَكَ كَمْ ثُرَّةُ الْخَيْرٍ بِرَبِّنَيْنِ ہوں گے، اگرچہ خوبیت کی کثرت  
فَإِنْ قُوَا اللَّهُ يَعْلَمُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ تُمْ كَرْكَنَا ہی فَرِيقَتَہ کیوں نہ کرے تو اشہر سے  
(مائدہ: ۴۰) ڈستے رہو، اے عقل رکھنے والو۔**

ان تسبیبات کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص حیثیت کو جیسی کچھ وہ ہے، اچھی طرح سمجھنے کوئی  
شخص اس غلط فہمی میں بتلانا رہے کہ ادنیٰ کے مقابل میں اعلیٰ کی طلب کوئی انسان بازی ہے جس کے  
ہر شخص کھیل سکتا ہے، اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ چاہئے کی چیز اگر کوئی ہے تو یہی ہے، کرنے  
کا کام کوئی ہے تو یہی ہے۔ کامیابی اور فلاح کی راہ ہے تو یہی ہے، انسان کے شرف و عزت  
کے مطابق اور اس کے مرتبہ اور درجہ کے ثابتان شان کوئی پیڑھے تو یہی ہے لیکن اس میں بھی  
شبہ نہیں ہے کہ اس راہ کے خطرات کا مقابلہ کرنا اور اس کی مشکلات سے عمدہ برآ ہونا ہر لوگوں  
اور ہر مدغی کا کام نہیں ہے، اس میں کامیابی انہی کو حاصل ہو سکتی ہے جو ایک عاشق صادق  
کا جنون اور ایک مرد مجاہد کا عزم و حوصلہ رکھتے ہوں۔

اس صورت حال کو سمجھ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی جس کام کے لیے اٹھے اگر  
اس کے تقاضوں اور اس کے نتائج سے پوری طرح باخبر ہو اور اس کے لیے اپنے عزم و ارادہ  
کو اچھی طرح تول کے اٹھے تو مشکلات سے رُٹنے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت اس کے  
اندر ہست بڑھ جاتی ہے لیکن اگر اس طرح کے کسی معركے کے لیے وہ بالکل بے خبرانہ اٹھ کھڑا  
ہو تو پہلی ہی پرست میں وہ ہست ہار بیٹھتا ہے۔ اگر ایک شخص شیر کے شکار کے ارادہ سے  
نکلے اور اس کو شیر سے سابقہ پیش آجائے تو وہ خطرات میں اپنے حواس بچا رکھنے کی کوشش  
کرتا ہے اور بسا اوقات اس میں وہ کامیاب بھی ہو جانا ہے لیکن اگر کوئی شخص گیدڑ کے شکار

کے لیے نکلے اور اس کو سابقہ پیش آجائے شیر سے تو وہ کس طرح اپنے اوسان قائم رکھ سکتا ہے؟

اس حقیقت نفس الامری سے کا حقہ واقعیت کے علاوہ دوسری چیز جو ادمی میں عزم و ہمت پیدا کرتی ہے وہ مردان حق کی معیت درفاقت ہے۔ یہ معیت درفاقت ذہنی طور پر بھی حاصل کی جاتی ہے اور عملی طور پر بھی۔ ذہنی طور پر اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی سیرتوں کا برابر مطالعہ کیا جاتا ہے جنہوں نے راہِ حق میں صیحتیں جھیلی ہیں جنہوں نے اعلیٰ اقدار کی طلب میں دنیا کی جہودی عزتتوں اور شہرتوں کو نہایت خقارب سے ٹھکرایا ہے، جو نیک اور سچائی کی راہ پر چلتے کے لیے بیکہ وتمہا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے عزم و حوصلہ سے انہوں نے دوسروں کے لیے اس راہ پر چلنے آسان کر دیا ہے، جنہوں نے جمل کی خلک میں علم کے دیبے جلانے پیں اور ان کو باذخواست سے محفوظ رکھا ہے، جنہوں نے باطل کے خوغائے عام میں حق کا انفرہ مرتانہ بلند کیا اور پھر یا تو باطل کو مغلوب کر دیا ہے یا اس سے رُختے شہید ہو گئے ہیں اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے اپنا نقش قدم ایک نشان ہمت کی چیزیت سے یادگار چھوڑا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ ادمی کے اندر ہمت پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا شدہ ہمت کو پرقرار بھی رکھتا ہے۔

عملی طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ایسے لوگوں کی بستجو کرنی پڑتی ہے جو اس راہ میں اس کی راہ نمای کر سکیں اور اگر راہنمائی نہ کر سکیں تو کم از کم رفاقت ہی کا حق ادا کر سکیں یہ دنیا جب تک قائم ہے اس میں جس طرح بُرے لوگ موجود رہیں گے، اسی طرح اپنے لوگ بھی موجود رہیں گے۔ اگر بُرے کو لیدر بھی مل جاتے ہیں اور ساختی بھی میسٹر آجاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک شیر کے طالب کو ساختی اور راہنمائی مل سکیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آدمی خلوص کے ساختہ غلاش کے اور جب پا جائے تو ان کی معیت درفاقت حاصل کرنے کے لیے ہر قیمت دینے پر تیار ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے لیے آدمی کو گھر بار اور ملک وطن بھی چھوڑنا پڑ جائے تو یہ بازی بھی وہ بھی کڑا کر کے کھیل ہی ڈالے۔ یہ خدا کی راہ میں اس کی ہجرت ہو گی اور ہجرت کی راہ آدمی کے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے۔ ہجرت کا اصل مقصد ہو یہ

یہی رہا ہے تھوڑا ایک اعلیٰ فضیل الدین کی فاطر ایک ناسازگار ماحول کی چوری کی وجہ سے اس کے ماحول زندگی کے بنا و اور بگاڑی میں بڑا موثر عامل ہے جس کو کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ماحول ناسازگار ہو تو بسا اوقات بڑی اعلیٰ صلاحیتیں بھی برہاد ہو کے رہ جاتی ہیں اور اگر ماحول سازگار مل جائے تو معمولی صلاحیتیں بھی چلا پا کر ذرہ سے آنکاب بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی کرامت کا یہی حال رہا ہے کہ انہوں نے اچھے ماحول، اور اچھے ساتھیوں کے لیے دعائیں کی ہیں اور ان کے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی بازیاں کھیل ہیں۔ حالانکہ انبیاء علیهم السلام اپنی عزیمت و استقامت کے اعتبار سے بجا ٹھے خود ایک عالم رہے ہیں، انہوں نے دوسروں کو اپنی حرارت سے گرمی پہنچائی ہے، کبھی دوسروں سے حرارت حاصل کرنے کے محتاج ہیں ہوئے اور اپنی ذات سے اپنے ماحول کو روشن کیا ہے، کبھی ماحول سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ان کو نہیں پڑیں گے۔

اس میں شبہ نہیں کہ آدمی کی صلاحیت اگر قوی ہر تو بسا اوقات وہ تاریخی سے بھی روشنی حاصل کر لیتا ہے اور راہ کی ٹھوکر دل سے بھی اس کو راہ نمائی مل جاتی ہے۔ علامہ احمد بن حببل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشورہ ہے کہ رہ ابوالیثیر نامی ایک چور کے لیے اکثر دعا نے بغیر فرماتے رہے۔ جب اُن سے پوچھا گیا کہ آپ ایک چور کے لیے دعا نے بغیر کیوں فرماتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اہل کے زمانہ میں اس نے اپنے عمل نور نے سے مجھے نہایت قیمتی درس دیا تھا۔ چب مجھے تیر کیوں میر جگڑا کر اونٹ پرسوار کر کے لے جایا چاہا تو یہ شخص ایک جگہ راہ میں مجھے ملا اور اس نے مجھے سے کہا اُن حبل چوری کے جو میں مجھے اتنی بار قید و بند کی میں بھلی کی پڑی ہیں اور اتنے سو درے میری پیشی پر بر سے ہیں، تاہم میں اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا۔ اگر میں شیطان کی راہ میں یہ مصائب جیل کر اس طرح استوار رہ سکتا ہوں تو یہ ہے اگر تم خدا کی راہ میں ان مصائب کو پاروں سے نہ روانش کر سکو۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ اس کی اس جرأت و صلابت سے مجھے بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ اسی طرح جو لوگ اپنے اندر اعلیٰ صلاحیتیں رکھتے ہیں، ان سے یہ ترقی بعید نہیں ہے کہ وہ ان جان بازیوں سے راہِ حق کے لیے درس حاصل کریں جو آج بالکل کے علم بردار باطن کو سر بلند کرنے کے لیے دکھار سے ہے ہیں۔ لیکن ایسے غیر معمولی عزم و حوصلہ کے لوگ

نیادوہ نہیں ہو سکتے، زیادہ لوگ تو ایسے ہیں ہو سکتے ہیں، ہجت کو اپنے ساتھی ملیں تو اپنے بن سکتے ہیں، لیکن اگر بزرے ساتھی مل جائیں تو اندر یہ ہے کہ ان کی برائیاں ان پر غالب آجائیں۔ اس وجہ سے انسان کی عام فطرت کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اپنی خوبیوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہوں وہ سازگار ماحول اور اپنے ساتھیوں کی تلاش سے غافل نہ رہیں۔

آخری چیز جو اس مقصد کے بیسے اکیرہ کا حکم رکھتی ہے وہ بندے کا اللہ کے ساتھ گمراہی ہے اگر دل کا سفیدہ اس نگر کے ساتھ بندھا ہوا ہو تو خواہ کیسی ہی باونمائی چلے اور کیسی ہی خطرناک مصیب اٹھیں لیکن کشتی ہچکرے کھا کر بھی سلامت رہتی ہے اور طوفانیں کے اندر سے گزرتی ہوئی ساصل مراد پر پہنچتی ہی جاتی ہے۔ راہنمای غلطی کر سکتے ہیں اور رفقا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن خدا کبھی ان لوگوں کو نہیں چھوڑتا جو بہر حال اور بہر صورت خدا کو پکڑتے رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے خود فرمایا ہے کہ جو لوگ میری راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میں ان کے لیے مشکلات کے اندر سے راہ پیدا کرتا ہوں۔

اَلَّذِينَ جَاءُهُدْرِيَّةً سَكَنَهُدِيَّةً هُوَهُدِ سُبِّلَنَا۔

اور اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی بتاویا ہے کہ جو لوگ اس راہ کی مشکلات کے مقابل میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب وہ میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط و استوار رکھیں اور میری یاد سے غافل کبھی نہ ہوں۔

وَمَا أَصْبَرْتُكَ إِلَّا كَمَا يَأْتِ اللَّهُ.

اور تم ثابت قدم نہیں حاصل کر سکتے مگر افسر کے تعلق سے۔

## کہتے ہیں علم کے اس بارے اس کا علاج

علم، خواہ ہمارے اپنے تجربات کا حاصل کردہ ہو یا خدا کا نازل کردہ، بندوں کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ہر نسل اس کی پوری پوری حفاظت کرے، اس سے کا حصہ فائدہ الحفاظ ہے، اس کو اپنے امکان کی حد تک ترقی دے۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ پوری اعتقادی دوستی کے ساتھ اس کو اپنے بعد آئے والی نسلوں کی طرف منتقل کرے۔ اسی دریافت دارانہ تربیث و توارث پر اس دنیا کی تمام مادی و روحانی خوشحالیاں اور ترقیاں مبنی ہیں۔ اگر اس میں خلائق اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا مادی اعتبار سے جو باغ و بہار نظر آ رہی ہے اس کا نسبت بھی ہے کہ پچھلی نسلوں نے جو تجربات جمع کیے تھے وہ ہم تک منتقل ہوتے رہے اور ہم نے ان سے فائدہ میں اٹھایا اور ان کو ترقی بھی دی۔ اگر یہ ہم تک منتقل نہ ہو پاتے یا ہم نے ان کو حاصل کرنے یا ان کو ترقی دیتے کا اہتمام نہ کیا ہوتا تو یہ دنیا آج ہے اس سے بہت پیچھے ہوتی۔

اسی طرح ضروری ہے کہ جو روحانی اور اخلاقی علوم اللہ تعالیٰ نے آثار سے ہیں وہ بھی صحیح طور پر ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتے رہیں اگر ان کے منتقل ہوتے رہتے کہ مسلم منقطع ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ روشنی کی جگہ تاریخی نے اور اسلام کی چیز چاہیتے نے

اپنا تسلط جمالیا۔ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امانت کو بھی اپنی شریعت کا علم دیا اس پر جہاں یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرے، وہیں یہ ذمہ داری بھی ڈالی کہ وہ اس کو پوری دیانت کے ساتھ بعد کی نسلوں کی طرف منتقل بھی کرے۔ چنانچہ اہل کتاب کو عجب اللہ تعالیٰ نے اس علم کی امانت سونپی تو ان سے یہ حمد لیا کہ :

**لَتُبَدِّلْنَاهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُونَكُمْ** تم اس کو لوگوں پر کھولی کر واضح کر دے گے، اور  
اس کو جھپٹا دے گے نہیں۔ (آل عمران: ۸۲)

اسی طرح انہیں یہ حکم بھی دیا گیا:

**وَلَا تَنْكِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ** حق کو باطل کے ساتھ گذشتہ کرو یعنی کرچا نہ  
**وَقُلْكُلُوكُمُ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** کے لیے درآئیا کیونکہ تم جانتے ہو۔

یہود نے جب اس حمد اور اس تبیہہ کی کلی پر دائر کرتے ہوئے مخفی طمع دنیا میں خدا کے اس علم کو جھپٹایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی،

**إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ** جو لوگ ان واضح آیات اور اس ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے آماری ہیں، بعد اس کے کر ہم نے ان کو کتاب میں کھول کر لوگوں کی یہ بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جو لوگ اس چیز کو جھپٹاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں سے آماری ہے اور اس کے عوض میں حیرت قیمت وصول کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے میثیوں میں آگ کے

**يَكْتُمُونَهُ رَبُّهُمْ إِلَّا النَّارُ**۔ (بقرہ: ۱۵۹) **إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هُنَّ أَنْجَلُوا** انتَلَىَ اللَّهُ هُنَّ الْكِتَابِ وَلَيَسْتَرُونَ  
**رَبِّهِ تَمَّا قَلِيلًا أَوْ لِكَثِيرٍ فَإِنَّا لُطُوفُونَ** رُفِّ بُطُونَهُمْ إِلَّا النَّارُ۔

(بقرہ: ۱۶۳) سرا اور کچھ شیں بھر رہے ہیں۔

اور ان سے یہ امانت پھین کر امانت مسلم کے سپرد کی اور اس پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ جس طرح اللہ کے آخری رسول نے ان کو خدا کا یہ دین پہنچایا ہے اسی طرح یہ اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں چنانچہ اس امانت کو مخاطب کر کے فرمایا:

وَكَذَلِكَ بَعْلَمُكُمْ أَمْلَهُ دَسْطَكَ چنانچہ ہم نے تم کو وسط شاہراہ پر قائم رہنے  
لَهُ كُوؤُمْ شَهَدَهُ عَلَى النَّاسِ والی ایک انتہا بنایا تاکہ تم لوگوں پر اعلان  
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کے دین کی گواہی دو اور رسول تم پر اس میں  
کی گواہی فیضے۔ (البقرہ : ۱۵۳)

اب بیر اس امانت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم پر خود بھی عمل کرے اور وہ سردی پر بھی تیار  
تک اس کی شہادت دیتی رہے اور اگر اس میں کوئی کوتا ہی کرے تو عند اللہ اس کے نتائج بھگتے  
کے لیے تیار رہے۔

اس ذمہ داری سے فرار اختیار کرنے یا اس میں کوتا ہی کرنے کے بھی کچھ خاص اسباب  
یہیں بوجہم یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ اسباب بجاۓ خود ایسے ہیں کہ ان کے نتائج ہوں  
کہ سامنے آجائے کے بعد توقع ہے کہ ہر شخص جس کے اندر ایمان کی کوئی رمن ہے وہ ان سے  
بچپنے کی کوشش کرے گا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اسباب کا جان لینا ہی ان کے  
علاج کے لیے کافی ہوتا ہے بشرطیکہ کوئی شخص صحت کا سچا طالب ہو۔

### معاشرہ کی ذمہ داری سے بے خبری

اس کو ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ مرے سے معاشرہ  
کی اصلاح و درستگی سے متعلق اپنی کوئی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ان کے نزدیک ادمی پر جو کچھ بھی  
ذمہ داری ہے وہ صرف اس کے اپنے نفس کی ہے، اگر اس کو اس نے ٹھیک رکھنے کی کوشش  
کی ہے تو اس نے دین اور علم دین کا حق ادا کر دیا، اس بابت نے اس کی دینداری میں کوئی  
فرق واقع نہیں ہوتا کہ جس معاشرہ میں وہ رہ رہا ہے اس کا کیا حال ہے اور اس کو دین سے باخبر  
رکھنے میں اس نے کوئی حصہ لیا ہے یا نہیں، وہ اس کو ایک پرایا جھگڑا سمجھتے ہیں جس میں اپنی  
ٹانگ نہ پہنانا ہی ان کے نزدیک تقویٰ ہے، بعض لوگوں کے اندر تو یہ تصور اس طرح جنم جاتا  
ہے کہ وہ زندگی کا ایک بالکل ہی راہبانہ نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں اور معاشرہ کے بڑے  
اور بھلے سے ایک قلم کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس حد تک تو معاشرہ سے بے تعلقی  
ہیں اختیار کرتے لیکن وہ بھی اس ذمہ داری کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو حق الواقع دین میں اس

کہ ہے، ان کے نزدیک اگر یہ نیکی ہے تو ایک نفل نیکی ہے جس کے کرنے سے ادمی کے اجر و ثواب میں کچھ اضافہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ذکرے تو اس کو کوئی گناہ لازم نہیں آتا اس طرح کے کسی کام کو اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس کو وہ خود اپنے فرائض کا کوئی جزو نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کے فرائض کا ایک حصہ سمجھتے ہیں جس کو تبرکاتیہ انعام دے رہے ہیں۔ یہ رائے رکھنے ہوئے ظاہر ہے کہ ذائقہ کوئی شخص معاشرہ کی جمالت اور اس کے بھائڑ کا حقیقتی دکھ محسوس کر سکت اور ذمہ دوں کے ذہن و فکر اور ان کے اعمال و اخلاق کے بد نئے کے یہے کوئی موثر اور نتیجہ نہیں تھا جبکہ ہمی کر سکتا ہے، اول تو وہ کچھ کرے گا ہی نہیں اور اگر کرے گا بھی تو اس کی نوعیت مخفی چھٹا اتارنے کی ہوگی۔ وہ لوگوں کو ان کی حقیقتی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے اور ان کے بھائڑ کے اصل اسباب سے پردہ اٹھانے کے بجائے ہمیشہ کچھ اور پری قسم کی لیس پت کر کے اپنی مصلحت کی وصولی جانا چاہے گا۔ ایسے شخص کے یہے یہ نہایت مشکل ہے کہ وہ لوگوں کی کسی ایسی براں کو براں کرنے کی جرأت کر سکے جس کو لوگ بھائڑ بنانے ہوئے ہیں اور جس کو براں کرنے سے دہ مختسب ناک ہوتے ہوں، باخصوص ان برائیوں کو براں کرنا تو ایسے شخص کے یہے بالکل ہری محال ہے جن کے چواز کافتوںی وقت کے ارباب اندار نے دے رکھا ہو، جن کو وہ عمل اپنائے ہوئے ہوں۔ ایسے لوگ قرآن بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث بھی سکھاتے ہیں اور فقہ و تصورت کے روز بھی بتاتے ہیں اور یہ سب کچھ بظاہر وہ علم دین کی اشاعت ہی کے یہے کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں وہ اس طرح سکھاتے اور پڑھاتے ہیں گیا یہ ماعنی دعید کی حکایتیں ہیں جو کوئی حدت بھی حال پر منطبق نہیں ہوتا۔

بہت سے لوگ جان پوچھ کر یہ روشن اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بچانے کے یہے اختیار کرتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگ معاشرہ سے متعلق اپنی ذمہ داری کی حقیقتی نوعیت سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام نے ہر شخص پر اصلاح کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ ایک خود اس کی اپنی ذات سے متعلق ہے اور دوسری اپنے علم و استعداد کی حد تک، اپنے کنبہ، اپنے تعیلہ اور اپنے معاشرہ کی اصلاح سے متعلق ہے اور اس ذمہ داری کی اہمیت اس قدر ہے کہ ایک شخص

خود اپنی تعلیم و تربیت سے بے پرداں کی سزا جس طرح دنیا میں بھگتا ہے اور آخرت میں بھگتے گا، اسی طرح اگر وہ معاشرہ کی اصلاح اور اس کی تعلیم و تربیت سے بے پرداں اختیار کرے تو اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی۔ ہم یہاں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے اس فرض کی خلائقی اہمیت واضح ہو گی۔

”ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ جو شخص بھی تم میں سے کوئی بچکاڑ دیجئے تو اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کرے اگر اس کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر ہاتھ سے اس کی اصلاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کی امداد کی رشیش کرے اگر زبان سے بھی اس کی اصلاح کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو کم از کم دل سے اس کو زرسیجھے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ (مسلم)“ این مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے پیغمبر بھی مجھ سے پہلے گز سے ہیں، ان کی اسوئی میں ان کے جان شمار اور ان کے صحابی ہوتے رہے ہیں جو ان کی سنت کی پیریوں اور ان کے احکام کی انتداب کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین پیدا ہوئے جو کتنے تھے وہ کچھ بچھتے نہیں تھے اور کرتے تھے وہ کام جن کام کو حکم نہیں ملا ہوا تھا تو ابیوں سے جس نے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن۔ جس نے ان سے دل سے جہاد کیا وہ مومن اور جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا وہ مومن، اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ رائی کے دائرے کے برابر بھی نہیں ہے۔“ (مسلم)

”عنان بن بشیر سے روایت ہے کہ ثوبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدودِ الہی کے معاملہ میں سُستی کرنے والے اور ان کے اندر جا پڑنے والے کی شال بالکل ایسی ہے کہ کچھ لوگ ایک کشتی کے اوپر اور نیچے کے حصوں پر قرعداً الیں کچھ کے حصے میں نیچے کا قرعداً نکلے اور وہ نچلے حصہ میں بیٹھیں اور کچھ اس کے اوپر والے حصے میں بیٹھیں، نیچے والوں میں سے کسی کو پانی کی ضرورت پیش آئے تو اس کو اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑے، جس سے اوپر والے تخلیف محسوس کریں یہ ویجہ

کوئی نیچے والامکھاڑا اٹھا کر کشتی کے پندرے ہی میں سوراخ کرنا شروع کر دے۔ جب اور پروائے اگر پوچھیں کہ پہ کیا، تو وہ جواب دے کہ ہمارے اور پر جانے سے آپ رگوں کو تخلیق ہوتی ہے اور ہمارے بیسے ناگزیر ہے تو اس کے سوایا چارہ کا رہا۔ اب اگر اور پروائے اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو اس کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اور اگر اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو اس کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ (بخاری)

”ام المؤمنین ام سلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ حاکم بنائے جائیں گے جن سے معروف اور منکر دونوں طرح کی بائیں صادر ہوں گی تو جس نے ان کی بڑی باتیں کو رُبِّ ایکھا تو وہ تو بھی ہرا اور جس نے ان کی بڑی باتیں کے خلاف اداز اٹھائی وہ سلامت رہا، البتہ ان کی خیر نہیں ہے جو راضی رہا اور جس نے ان کی پیروی کی۔ (مسلم)“ حدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم نیکی کی طرف دعوت دیتے رہنا اور بُرائی سے روکتے رہنا، ورنہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے اور پھر تم اس کو پکارتے رہو یہیں تمہاری کوئی شکوہی نہ ہو۔“ (ترمذی)

”ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جہاد کسی حق سے ہے ہر بے پادشاہ کے سامنے انہیں کی بات کہہ گزنا ہے۔“ (ابوداؤد و ترمذی)

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے لوگوں کا تم اس آیت کا حوالہ دیتے ہو: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا عَلَيْنَاكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ كُفُّرُ مِنْ ضَلَالٍ إِذَا اهْتَدَى يَتُّمَّ لَهُ (یعنی اس آیت سے تم یہ غلط استلال کرتے ہو کہ اوری پر اپنے ہی نفس کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، دُوسری کی کوئی ذمہ داری اس کے سر نہیں ہے)“

یہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تھا ہے کہ جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں لیکن اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان پر کوئی ایسا مذاب بیخ دے جس کی پسیش میں سب ہی آجائیں۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے علم کی کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا ہے لیکن اس نے چھپائی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی رنگام لگائی جائیگی۔  
(احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

ان حدیثوں پر ایک نظر وال کہ سب شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ دین کی باتوں کو آنکھدار کرنا، لوگوں کی بحالت کو دور کرنا، مخالفتِ اسلام حرکتوں کے خلاف نظرات سے بے پرواہ رکارہ اور اٹھاتے رہنا اور جو کچھ حق ہے بے خوف و مترد اُنہم لوگوں کو بتاتے رہنا، صرف ایک نفلی نیکی نہیں ہے بلکہ ہر شخص پر اس کی استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے یہ فاصلہ ہے۔ اگر کوئی شخص علم اور صلاحیت رکھتے ہوئے برائیوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ جو انہیں اس کی مزا دوں میں اصلی مجرمین کا شریک ٹھیکرے گا اس سے مستثنی صرف وہ شخص ہو گا جو ہاتھدا اور زبان سے اصلاح کی سر سے سے طاقت ہی نہ رکھتا ہو، ایسے اشخاص کے اسلام کا کم سے کم مطالبہ ہے کہ وہ بُرانی کو بُرانی سمجھتے رہیں اور اپنے آپ کو اس سے ودود رکھیں۔

بہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھیں چاہیے کہ کوئی شخص محض نیالی انہیں بھی ایسا معمول مشکلات و نظرات کا بہانہ بنانے کا اپنے آپ کو اصلاحِ معاشرہ کی ذمہ داریوں سے برمی نہیں ٹھیکر سکتا، اس میں شبہ نہیں ہے کہ بعض اوقات معاشرہ اس قدر بچکڑ جاتا ہے کہ اس کی اصلاح ناگزیر ہو جاتی ہے ایسی صورت میں اگر ایک شخص اصلاح کی کوشش نہ کرے تو اس کو معذور کر جا سکت ہے لیکن معاشرہ کا ہر درجہ کا بچکڑ وہ بچکڑ نہیں ہے جس کی آڑے کر ایک شخص کھر میں بیٹھ جائے اور یہ اعلان کر دے کہ لوگوں کے حالات اس درجہ خراب ہو چکے ہیں کہ ان کی اصلاح و تعلیم میں وقت خنائع

لہ اے اباں والو اتم اپنے کپ کو سنجاوو، اگر تم راہ یا بہ بروڑہ لوگ تیس نقصان نہیں پہنچا سکتے جو گراہ ہوئے۔

کرنے کے بھائے اب خانہ نشین ہو جانے اور صرف اپنے ایمان و اسلام کے سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے، اسلام نے معاشرے کے بخار کی وہ حدود بتاوی ہے جس کے بعد ایک شخص کے لیے بیان جائز ہوتی ہے کہ وہ عوام کی اصلاح کی ذمہ داری سے کفارہ کش ہو کر صرف اپنے ہی دین و ایمان کو بچانے کی غلکری ہے، وہ حدیب ہے کہ معاشرے میں سرے سے دین کی کوئی ر حق باقی ہی نہ رہ گئی ہو، شرعی حقوق ادا کرنے کے بجائے حکم طمع کو معمود بنانے میٹھا ہو، شریعت کے بھائے بر جگہ خواہشات کی پیری ہی ہو رہی ہو، ہر جگہ دین پر دنیا کو تزییح دی جا رہی ہو، ہر شخص اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے غیال میں ملک ہو اور کسی کی بعترے سے بہتر بات بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو، یہاں تک کہ بیرونی بنا بات واضح طور پر نظر آنے لگے کہ اب اس معاشرہ کو بدلتا تو ممکن نہیں ہے البتہ یہ تنظیرہ نہایت قوی ہے کہ آدمی اگر اس کے اندر پڑا رہا تو خود تہذیب ہو جائے گا، الیسی صورت میں ایک شخص کے لیے بیٹک بیرونی بات جائز ہے کہ وہ لوگوں کو چھوڑ کر صرف اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث ملاحظہ ہو جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے:

ابو عبد الله سے عَلَيْكَ كُمَّ أَنْفَسَكَهُ لَا يَضُرُّ كُمَّ مَنْ حَنَّ إِذَا هُنَدَيْتُمْ  
والآیت کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہذا کی قسم میں نے اس آیت کے باصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا (سؤال غالباً یہی ہو گا کہ لوگ عام طور پر اس آیت سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ ہر آدمی پر صرف اس کے اپنے ہی نفس کی ذمہ داری ہے) تو اس آیت کے فرمایا کہ یہ غیال بالکل غلط ہے۔ صحیح ردیہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو معرفت کی تعلیم دو اور منکر سے روکو، ماں جسپ و بھجو کو بخیل مسلط ہو جکا ہے، خواہشات کی پیری ہو رہی ہے دنیا کو تزییح دی جا رہی ہے، ہر صاحب رائے اپنی رائے پر فریقیت ہے اور تمیں یہ بھی صاف نظر آنے لگے کہ اب تمیں خود اپنے ایمان کے بچانے کے لیے پچھنہ کچھ کرنا ناگزیر ہو گیا ہے تو اس اپنے کو بچاؤ اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔

ایک اور حدیث میں یہ حقیقت اس الفاظ میں واضح کی گئی ہے:

”عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب تمیں ایسے لوگوں کے اندر زندگی گزارنی پڑے گی جو بالکل چپوک کی مانند ہوں گے، وہ ان کے اندر عمد کا کوئی احساس ہو گا نہ انت کا، اور ان کے اندر جگڑے اور اختلافات برپا ہو جائیں گے جیسے کہ سبب سے وہ اس طرح رہا تھا کہ اشارے سے آپ نے سمجھایا (ہو جائیں گے ہے) عبداللہ بن عمر نے پوچھا، ایسے حالات کے لیے آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو یہ معروف ہے اس پر عمل کرو اور جو منکر ہے اس سے بچو، اپنی ذات کی فکر کرو اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔“ (ترمذی)

اس مفسون کی مقدود حدیثیں ہیں جن میں یہی بات احوال اور تفصیل کے مختلف اسلوبوں سے بیان ہوئی ہے، ان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آدمی کو عوام کی اصلاح سے بے تعلق ہونے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے کہ اب لوگوں کے اندر کوئی اچھی بات سننے اور قبول کرنے کی سرے سے کوئی صلاحیت باقی ہی نہیں رہ گئی ہے اور ان کو پانے کی کوشش میں اندریشہ ہے کہ کہیں وہ خدا اپنے آپ کو نہ کھو بیٹھے۔ اور پرانی حدیث میں مختار کا فقط استعمال ہوا ہے جو چپوک، چھلکے، بھوسی اور ایسی تذکر چیز کے بیسے استعمال ہوتا ہے جیسے اب کچھ حاصل ہونے کی توقع نہ ہو، یعنی لوگ بالکل ہی بے جان اور بے روح ہو کر رہ گئے ہوں۔

**خوف اور طمع** | دیتی ہے وہ طمع یا خوف ہے، جن لوگوں سے آدمی اپنا کوئی دشیری مفاد والبستہ کر لیتا ہے یا جن سے اس کو یہ اندریشہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی خواہشات کے خلاف اس نے کوئی بات زبان سے نکالی تو وہ اس کو نقصان پہنچا دیں گے، ان کے سامنے کسی ایسے حق کا اظہار جو ان کو پسند نہ ہو ایک کمزور آدمی کے لیے نہایت دشوار ہے۔ ہمارے اندر کئے واعظ اور غلطیب ہیں جو مسجدوں کے منبروں پر چڑھ کر گھصہوں را درخواست دیتے ہیں،

لیکن وہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالنے کی جرأت نہیں کرتے ہیں کوئی ان کے سامنے پسند نہ کرتے ہوں، اگرچہ دین کے اندر وہ بات کم تھی ہی پسندیدہ اور مسلم حیثیت کیوں نہ ہو۔ کتنے عالمانِ دین ہیں جو دین کی فروعی باتوں پر تو زور مباشی اور مناظرے کے موضوعے قائم کرتے چھرتے ہیں، لیکن جانتے ہو جھتے ان مخالفت دین بلکہ ہادم دین سرگرمیوں کے مقابل میں بالکل گونگے پہرے بن جانتے ہیں جن کے متعلق ان کو انداز بخشہ ہو کہ اگر ان کے خلاف زبان ہلاکی تواریخ باب اقتدار کی ناراضگی مولیینی پڑے گی، کتنے دینی مدارس ہیں جو کھوئے تو جانتے ہیں دین کی تعلیم و تبلیغ کے نام پر لیکن وہ اصل دین کے علاوہ ان لوگوں کی خوشنودی اور رضا جوئی کا اہتمام کرتے ہیں جو ان کو چندہ دیتے ہیں اور ان کی سرپرستی کرتے ہیں، یہی حال عام طور پر مصنفوں اور موتکفوں کا ہے۔ یہی رنگ ایمپیوں، شاعروں اور انجیار نویسوں کا ہے، حدیہ ہے کہ یہی انداز عام طور پر تذکیرہ نفس کرنے والے مذکیوں اور صرشندوں کا بھی ہے، وہ بھی اپنے روحانی مریعوں کے علاج اور پرہیز دونوں میں استیصالِ مرمن سے زیادہ مریعوں کی پسند و ناپسند اور ان کی خواہشوں کا لمحاظہ کرتے ہیں اور ان پاتزوں کو بیماری کرنے کے بجائے صحت ہی کتنا پسند کرتے ہیں، جن کو بیماری کہنا کم از کم ان کے مالک اور با اثر مریدوں کو ناگوار ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام صورتوں میں حق پوشی کی اصل وجہ صرف طبع ہے۔ پچانچوں حضرت کعبہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ علاء کے سینوں سے علم کو کس پیغام نے نکالا؟ انہوں نے جواب دیا کہ طبع نے۔ (مشکوٰۃ بحوالہ دار علی)

اس تمام کتابِ علم کو مصلحتِ عین پر محول کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس جمل وفا کے زمانہ میں لوگوں کو سارے دین بتانے کی کوشش کی جائے تو لوگ اس کا بوجھ سوارنہ سکیں گے بلکہ اندازی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی حبوبہ مٹھیں۔ بعضوں کے نزدیک دین کے ان اجزاء کا بیان کرنا جن کو ارباب اقتدار پسند نہیں کرتے ان سے لٹک دینے کے ہم مخفی ہے اور یہ ایک کھلی ہوئی خارجیت ہے۔ بعض حضرات کا نظر یہ ہے کہ جن امور میں مسلمان ایک خاص پہلو پر جم چکے ہیں اگرچہ وہ غلط ہی سی اب ان پر کلام کرنا لوگوں کے ذہنوں کو تشویش میں ڈالنا ہے۔ الغرض مختلف مصلحتیں ہیں جن کو اس علم پوشی کے لیے بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہی جھوٹی مصلحت پرستیاں اور بہانہ بازیاں ہیں جنہوں نے معاملہ کر اس حد تک

خوب کیا ہے مصلحت کی اہمیت سے ہم کو انکار نہیں ہے لیکن دین کی مصلحت اور اپنی ذاتی مصلحت میں بڑا فرق ہے، دین کی مصلحت پر لگاہ رکھنے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی ہر بیان بھر حال ہیں لوگوں تک پہنچانی ہے، البتہ یہ لحاظ رکھنا ہے کہ ہر بیان صحیح و قوت پر صحیح طریقہ سے، صحیح مذاہب کو پہنچے لیکن جو لوگ صرف اپنی ذاتی مصلحتوں کو مدنظر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ کن باتوں کا بتانا اور سکھانا ہمارے صالح کے موافق ہو گا اور کن باتوں کے اظہار سے ان صالح کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ روشن خدا کے دین کے ساتھ صریح چالیازی ہے اور اگر کوئی شخص اس کی مصلحت کے لفظ سے تغیر کرتا ہے تو درحقیقت صریح منافعت کو مصلحت کا نام دینا چاہتا ہے۔

مسلمانوں سے اثر کے رسول نے ہم باتوں پر حمد لیا ہے، عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق ان میں ایک نہایت اہم بات یہ بھی شامل ہے کہ:-

وَعَلَى أَنْ نَقُولُ بِالْحَقِّ أَيْنَا  
كَنَا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْفَةً  
مِنْ كُسْبَنَا جَهَنَّمَ كُبِيسَ بُجُيَّ هُوَ اللَّهُ كَبِيرٌ  
مِنْ كُسْبَنَا لَمَسْتَ كُرْنَى وَأَنْتَ كَيْ پُرْ وَانَّ  
لَائِحَرَ.

(ریاض الصالیحین، بحوارہ سلم و بخاری) کریں۔

اس حدیث کی روشنی میں فرا اپنے معاشرہ کے ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجیے جن پر حق کے اظہار و اعلان کی اصلی ذمہ داری ہے کہ وہ کس حد تک اس کو نیاہ رہے ہے میں یہ حدیث تو منبر سے لے کر دار تک اور مدرسہ و مسجد سے لے کر بادشاہوں کے دربار تک پہنچدے حق کے اعلان کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن یہاں حال یہ ہے کہ لوگ دین کے معاملہ میں بڑی بڑی دعائیاں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ وحاذی ہے، تظلم ہے، ابہتان ہے لیکن ان کے خلاف مخف اس اندیشہ سے زبان نہیں کھو لتے کہ کیسی اپنے گروہ اور برادری سے خارج نہ کر دیے جائیں یا اپنے علاقہ کے لوگوں کے طعن و تشتیع کا ہدف نہ فٹا پڑے۔

مشکوہ میں حضرت ابو سعید خدیجیؓ کے داسطہ سے ایک ملویں حدیث ترمذی کے حوالہ سے نقل ہوئی ہے جس کے مدد و مددی فیل الفاظ ملاحظہ ہوں:-

وَلَا يَمْتَعِنُ أَحَدًا مَنْ كَحَهُ      بَنِي كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرَ مِنْ يَأْكُهُ جَبَ تِمْ  
 هِبَةُ النَّاسِ إِنْ يَقُولُ      اِيْكَ سَقْرُ كَوْجَانْتَتِهِ هُرْتُزُ لَوْگُونْ كَا خُوفَ اُور  
 رَعْبَ كَمِيزْ اِسْ كَيْ اَخْمَارَسَ سَيْ مَانْغَ نَهْ هُوا اُور  
 بَحْقَ اَذَا عَلَمَهُ -      بَعْبَ كَمِيزْ اِسْ كَيْ اَخْمَارَسَ سَيْ مَانْغَ نَهْ هُوا اُور  
 وَفِي سَرْوَابِيَّهُ اَنْ رَأَى هَنْكَلَ      دُوْسَرِيِّ رَدَائِيَّتِيْ مِيزِيْهِ الْفَاظَهُرِيْنِ كَهْ جَبَتِمِيْ  
 اَنْ يَغْيِيرَهُ - فَيَكُنْ اَبُو سَعِيدَ  
 وَقَالَ قَدْ سَأَلْيَنَا فَمَنْعَقْتَنَا  
 هِبَةُ النَّاسِ إِنْ تَتَكَلَّمُ  
 بَيَانَ كَرَكَ رَوْنَےِ لَكَهُ كَهْ اَعْهَمْ هَمْ مَنْكَرْ بَاتِمِيْ  
 دَيْكَهُ دَهْسَهْ بَيْنِ نِيكَنْ لَوْگُونْ كَيْ خُوفَ نَهْ بَيْنِ  
 اَنْ كَيْ بَارَ سَيْ بَيْنِ زَبَانَ كَهُونَسَ سَيْ رَدَكَ  
 دَيَاَهُ -

حضرت ابوسعید رض اس زمانہ کے حالات پر لٹکاہ کر کے رونے لگے جبکہ حق کی پامال اور فظاوی کے راقفات کمیں شاذ زنا درہی مشاہدہ میں آتے تھے اور اگر آتے بھی تھے تو جان کی بازیاں کھیل کر اس حق کی حمایت و نصرت کے لیے اٹھو کھڑے ہونے والے بھی معاشرے میں کم نہیں تھے جو امیریہ کے دور میں بعض سفاکوں کی خود آشامی ضرب الشلل رہی ہے میکن سوپنچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حق کے لیے اتنے بے شمار سر کشئے کے لیے موجودہ ہونے تو ان سفاکوں کی خود آشامی کو یہ شہرت و دام کمال سے حاصل ہوتی ہے البتہ رونے کا زمانہ آج ہے جبکہ حق پرشی ہی کو دین بنا پایا گیا ہے اور مطعون دہ نہیں کیجئے جاتے ہو حق کو تسلی کرتے یا اس کو پھپاتے ہیں بلکہ وہ لوگ کیجئے جاتے ہیں جو حق کے انکھار و اعلان کی جرأت کرتے ہیں۔

**بَلْيَهْ جَمِيلَتِي**      کتمانِ علم یا کتمانِ حق کا ایک سبب بے چیختی اور بے نیزتی بھی ہے حق اور علم کی خاطرات اور ان کی حمایت و نصرت کے لیے بغیرت و چیختت ہوئی چاہیے۔ اللہ اور رسول نے علم و عقنان کے جو چراغ جلاسے ہیں وہ بلا تخصیص و امتیاز سب کی پداشت دراہنماں کے لیے ہیں۔ اس وجہ سے اگر انہیں سے کوئی چراغ بھی گلی کیا جائے ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ

سب کو دشمنی سے مودوم کیا جا رہا ہے۔ پس ہر شخص کا فرق ہے کہ ان پر انہوں کی حفاظت کرے اور اگر دیکھئے کہ کوئی شخص ان کو بھل کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ گریا اس کے اپنے ہی گھر کا دیا گل کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حقوق قائم کر دیے ہیں، وہ حدود مقرر کر دیے ہیں اور ہماری سلطنت کے لیے ہے تو قوانین بناؤ دیے ہیں وہ سب بھی متشرع مشترک کی ذمیت رکھتے ہیں۔ ان کی بقاعیہ سب کی بقیہ اور ان کی برپادی میں سب کی برپادی ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص کا فرق ہے کہ اپنے امکان کی حد تک ان کی حفاظت کرے اور ان کو کوئی نقصان پہنچانے والے۔ اگر ایک شخص کامال لٹتا ہے لیکن پاس پڑوں کے لوگ اس کی حالت کے لیے نہیں اٹھتے، ایک شخص اگر قتل کر دیا جاتا ہے لیکن علم رکھنے والے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی مدد نہیں کرتے، اگر ایک حقیقت کی آبرو سیر بازار لٹھتی ہے لیکن دیکھنے والے دم سادھیتے ہیں، وہ مظلوم کو پہنچانے کے لیے اٹھتے ہیں اور نہ ظالم کے مقابل میں شہادت ہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگر دین و شریعت کے اصول کی بھروسی مجلس میں توہین ہو رہی ہے اور ان کا مذاق اُڑایا جا رہا ہے لیکن مجلس کے بڑے بڑے ثقافت کے کاؤن پر بھی غیرت کی جوں نہیں ریکھتی تو صاف الفاظ میں اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے اندر خود اپنی غیرت، خرو اپنے ناموس اور خود اپنی جان و مال کے لیے بھی کوئی احساس غیرت باقی نہیں رہا ہے اور وہ اس بات پر راضی ہیں کہ خود ان کی ماوں یا بینوں پا بیٹھیوں کی محنت و آبرد خود ان کے سامنے گئے اور وہ اس تماشہ کو دیکھیں۔ قرآن نے حق کے متشرع مشترک ہونے کے اسی اصول کی بنیاد پر یہ فرمایا ہے کہ،

**أَتَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ اِسْكَانَهَا** جس نے کسی شخص کو قتل کیا بغیر اس کے نہیں آؤ فسادِ فِي الْأَرْضِ فَكَانَهَا کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہر بملک میں قَتَلَ النَّاسَ بِجَمِيعِ عَمَّا دَهَنَ فساد بپا کیا ہو تو گریا کہ اس نے سب کو انجیاہا فَكَانَهَا أَجْيَسَا تقل کر دیا اور جس نے اس کو زندہ کیا تو گریا اس **النَّاسَ بِجَمِيعِ عَمَّا** (مائدہ: ۳۶) نے سب کو زندہ کیا۔

غور کیجیے کہ قاتل اگر کسی کو ناجتن قتل کر دیئے ہیں کامیاب ہو جائے ہے تو وہ سب کو کس طرح قتل کر دیتا ہے اور اگر ایک شخص کسی کو ناجتن قتل ہونے سے بچا لیتا ہے تو وہ سب کو کس

طرح زندہ بچا لیا ہے؟ وہ اسی طرح کو درحقیقت حرمتِ جان کے اس مقدس اور اپدی قانون کو قتل کر دیتا ہے جو سب کی جانوں کا محافظ ہے اور ایکس پرچار لیتے والا اس قانون کی حفاظت کرتا ہے جس کی حفاظت میں سب کے لیے امان ہے اس سے یہ بات لازمی طور پر نکلتی ہے کہ کسی معاشرہ کے اندر ہر قتل، ہر بے آبروئی اور ہر ظلم کو انفرادی حیثیت میں دیکھنے کے بجائے اس کو اجتماعی حیثیت میں دیکھا جانا چاہیے، گویا ہر شخص قتل ہوا، ہر شخص کی بے ناموسی ہوئی، ہر شخص پر ظلم ہوا اور پھر اسی حیثیت سے اس کے خلاف پڑے معاشرے کے اندر ایک کھلبیل پائی جائی چاہیے۔ اگر یہ کھلبیل نہ پیدا ہو تو یہ پھر ہر سب سے معاشرہ کی بے حصی اور بے حقیقی کی دلیل ہے۔ اور ایسے معاشرہ کے اندر شکی اور سچائی کے تمام نشانات یکے بعد دیگرے معدوم ہو کے رہتے ہیں اور پھر سب کے سب ظلم، جہالت اور تاریکی کے گٹھاؤ پر انہیہرے کے اندر لگھ رہتے ہیں۔

یہ بے حقیقی مختلف صورتوں میں معاشرہ پر چھاتی ہے۔ اس کی ایک شکل قریبہ ہے کہ معاشرہ میں بگھاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ بتدریج ہر شعبۂ زندگ پر چھاتنے لگتا ہے لیکن وہ لوگ جو بگھاڑ کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے انفرادی ترکیب میں لگے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ہر طرح کے فتن و فجور کے ہنگامے پر پایا ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے سند و سجادہ کے عدووں سے باہر جا لک کر بھی دیکھنا گزاراندیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی شریعت کی ہر جگہ علامینہ یہے حرمتی ہوتی ہے لیکن یہ اپنے حال میں مست پڑے رہتے ہیں، ان کی پیشائی پر غیرت کی ایک لمبی نہیں اُنستی۔ بہبی معاملہ اس حد کو پسخ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے معاشرہ پر اپنا غصب نازل فرماتا ہے اور پھر اس وقت جس طرح اصلی مجرمین پر خدا کا غصب بھڑکتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ان تقیاء و زہاد پر یہ غصب بھڑکتا ہے جن کی ناک کے نیچے پرسار انساد پر ورش پاتما رہا اور وہ گونگے پرے بننے ہوئے اس کا تماشہ دیکھتے رہے، ایک حدیث ملاحظہ ہو:

عن عابر قال قال رسول الله ﷺ حضرت جابرؓ سے حکایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

اللَّهُ عَزَّ وَجْلَ الْمَلَائِكَةِ  
عَلَيْهِ الْسَّلَامُ أَقْدَبَ مَدِينَةَ  
كَذَا وَكَذَا بَا هَلَهَا - فَتَأَلَّ  
يَارَبِّ أَنْ قِبَلَهُمْ عَبْدُكَ  
فَلَانَ الْحَرْ يَعْصِيَ طَرْفَةَ عَيْنٍ  
قَاتَلَ فَتَأَلَّ أَقْدَبَهَا عَلَيْهِ وَ  
عَلَيْهِمْ فَأَنْ دِجَهَهُ لَهُ يَتَعَزَّزُ  
فِي سَاعَةٍ قَطْ

نے جبریلؑ کو حکم بھیا کہ خلاں بستی کو اس کے  
باشندوں سبیت گالت دو، جبریلؑ نے  
خرف کی کہ اسے رب، اس میں تو تیرا خلاں بندہ  
بھی ہے جس نے کبھی ایک کو کے یہے بھی  
تیری نافرمان نہیں کی، حکم ہوا کہ اس پر اور تمام  
دوسریں پر اس کو گلت دو کیوں کہ اس شخص کا  
چہرہ بھی پرسرے دین کبے ہوتی پر تھوڑی چیز  
کے یہے سمجھا تھا نہیں۔

اس کی دوسری صحت یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوتے دیکھ کر جو لوگ اس کی ہلاک  
کی صلاحیت رکھتے دا لے ہوتے ہیں وہ اصلاح کے یہے اٹھتے تو یہیں لیکن ان کے اندر وہ لگن  
نہیں ہوتی جو اس میدان میں اترنے والوں کے اندر ہوں چاہیے۔ وہ اس راہ کی مشکلات کے  
 مقابلہ کے یہے اپنے اندر وہم دا یہہ نہیں رکھتے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی اصلاح  
تو ہر لیکن اس طرح کہ نہ تو کسی کی ناراضگی مول لیتی پڑے اور نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ سائب  
کو تربا ناچاہتے ہیں لیکن اس کے یہے اپنی عصائی مقدس کو فربان نہیں کرنا چاہتے، ان کی عام  
روش یہ ہوتی ہے کہ وعظ کی مجلسوں میں وہ وعظ فرمادیتے ہیں، درس کے حلقوں میں قرآن و حدیث  
کا درس دے دیتے ہیں، معاشرہ کی بڑائیوں پر کبھی کبھی سچبیتے ہوئے، کچھ مظہر بھی فرماجاتے ہیں  
کبھی کبھی مرشدانہ انداز میں کچھ درمندانہ تسبیحیں بھی سنا جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے  
اسی روی میں بھے چلے جاتے ہیں جس روی میں سب پہنچ رہے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پہنچنے اور  
دوسروں کے پہنچنے میں اگر کوئی فرق ہوتا ہے تو یہیں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پوری لیکروں کے ساتھ  
اپنے آپ کو پہاڑ کے دُڑھ پر ڈال دیتے ہیں اور یہ پہنچنے والوں کے ساتھ ہوتے ہوئے کبھی کبھی  
یہ بھی یاد دہان کرتے جاتے ہیں کہ "ہم کتنے نہ تھے کہ یہ تم غلط سمت میں بھے جا رہے ہو ہے ظاہر  
ہے کہ اگر اصلاح کی محض خواہش ہی خواہش ہو، پہاڑوں کے خلاف حق کی حیات کے یہے  
وہ پہنچتے ہو، جو ادمی کو اس بات پر بھور کر دے کہ اگر لوگ غلط سمت میں پگٹ

چلے جا رہے ہیں تو وہ هذا فراق بیدنی کر کر اپنی راہ پہلے اور اس بات کی پکھ پروار نہ کر سے کہ اس کے کن کن مقامات پر زد پڑتی ہے تو اس خراہشِ اصلاح کا کیا تیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟ اور وہ اپنے آپ کو اس انعام سے کس طرح بجا سکتا ہے جو اس طرح کے بجاڑ کے لیے مقدار ہے؟

اس حقیقت کو مندرجہ ذیل حدیث سے سمجھیے۔

”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں بجاڑ کا انغاز اس طرح ہوا کہ جب کوئی شخص کسی ایسے شخص سے ملتا ہو کسی بڑائی کا ازٹکاپ کر رہا ہوتا تو وہ اس سے کہتا کہ اسے فکاں، اللہ سے ڈر دو اور یہ چوپ کچھ تم کر دے ہے ہو اس سے باز آؤ، یہ بات تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ دوسرے دن اس سے ملتا اور دیکھتا کہ وہ اپنی اسی روشن پر قائم ہے تو اس کے اندر اتنی غیرت پڑیا ہوتی کہ وہ کھانے پینے اور مل بیٹھنے میں اس کا ساختی بنتے سے انکار کر دے۔ جب لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے دل کی سیاہی دوسرے کے دل پر بھی عخوب پ دی۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

لَعْنَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ  
إِنَّمَا كَعْبَلَ عَلَى الْإِسَانِ دَاءِهِ  
وَرَعْسَهُ إِنْ هُنْ يَحْدُثُونَ  
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ  
لَا يَتَّقَنُونَ عَنْ مُهْنِكِهِ فَعَلُوْهُ  
لِيَسَّرَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَتَرَى  
كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّنَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا لِيَسَّرَ مَا قَدَّمُتْ  
لَهُمْ أَنفُسُهُمْ... رَأَى فَوْلَهُ  
نے کفر کیا، کیا ہی رہا ہے وہ تو شہ جوانی کی

فَأَيْمَنُونَ۔ اپنے یہے فراہم کیا۔

لقولہ "فاسقوں" تک حضور نے یہ آیت پڑھی۔ پھر اپنے نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، یا تو یہ ہو گا کہ تم نیکی کا حکم دو گے، بُرائی سے روکو گے، ظالموں کا ہاتھ پکڑو گے اور انہیں حق پر قائم رہنے پر مجبور کر دو گے یا یہ ہو گا کہ تم میں سے ایک کے دل کی سیاہی دوسرے کے دل پر بھی چھا جائے گ۔ پھر اشد تم پر بھی اسی طرح لعنت کرو گا جس طرح ان پر لعنت کی ہے:

یہ ابوداؤد کے الفاظ ہیں، یعنی حدیث ترمذی میں بایں الفاظ وارد ہوئی ہے:

"جب بُنی اسرائیل برائیوں میں بستکا ہونے لگے تو شروع شروع میں ان کے علماء نے ان کو روکا یہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو باز ہی نہیں اُستے تو انہوں نے ان کی مجلسوں میں اٹھنا عیّضاً اور ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا تراثہ اور ان کی ایک گروہ کے دلوں کی سیاہی دوسرے گروہ کے دلوں پر بھی تھوپ پری اور ان کی نافرمانی اور زیادتی کی پاداش میں داؤد اور علیسی بن مریمؑ کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ شیخ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں لگائے ہوئے تھے، یہ فرماتے ہوئے آپ اللہ پریٹھے اور پھر اپنے نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اس خدا کی قسم جس کی مشھی میں میری جان ہے جب تک تم انہیں حق کی طرف موڑنے دو اس وقت تک تم خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے"

ان حدیثوں سے صاف واضح ہے کہ جس طرح وہ شخص بے حریت اور خدا کی لعنت کا مستحق ہے جو سب سے معاشرے کے اندر اُبھرنے والی برائیوں کے خلاف زبان ہی نہیں کھولتا اسی طرح وہ شخص بھی بے حریت اور غصبِ الہی کا مستحق ہے جو زبان تو برائیوں کے خلاف کھولتا ہے یہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تنقیدیں لوگوں کا رُخ پھیرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں تو وہ بجا ہے اس کے کہ نیزت کا ثبوت دے اور ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے، انہی کا ہم نوازہ وہم پایاہ بن جاتا ہے، اس طرح کے لوگ حق کا اظہار تو وہی زبان سے کرتے ہیں لیکن باطل کی تائید اپنے کھلے عمل سے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا کے ہاں انکی

ان بے جا تنقیدوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بلکہ ان کا شاربھی کاتمینِ حق ہی میں ہزنا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جتنا کتنا حق اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے اتنا شاید و دوسریں کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے۔

**لماہنت** کتنا حق کا چوتھا سبب مذاہنت اور حشیم پوشی ہے، ادمی جن لوگوں سے قربت و رشتہ فاری رکھتا ہے، جن سے اس کے دوستانہ روابط ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے خاندان اور برادری کا سمجھتا ہے یا جن کے لیے اس کے دل میں احترام و عقیدت کا جذبہ ہوتا ہے، بسا اوقات ان کے سامنے وہ انہمار حق میں کمزور پڑ جاتا ہے، وہ ایک معاملہ میں صاف جانتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن بعض اس وجہ سے وہ پیشہ شاد دیتے ہے یا تو کرتا جاتا ہے یا صریح جھوٹ بول دیتا ہے کہ معاملہ اس کے کسی عزیز و قریب یادوست یا خاندان کے ادمی کا ہے۔ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے ایک کھلی ہوئی کمزوری بلکہ صریح نافرمان اشہد اور رسول کی دیکھتا ہے لیکن چُپ سادھے رہتا ہے کیوں کہ معاملہ اس کے اپنے بیوی بچپن اور عزیز وال کا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ صاف جانتا ہے کہ فلاں معاملہ میں اس کے شیخ یا استاد یا مرشد سے ہر بھی زیادتی ہو رہی ہے لیکن وہ بعض اس وجہ سے ٹوکتے کی جو اُت نہیں کرتا کہ اپنے استاد یا مرشد کو کیا کہے اور کیسے کہے۔

اس طرح کے لوگوں کے ذہن کا اور ان کے اس طرزِ عمل کا تمثیل کیا جائے تو چند باتیں نہایت اشکارا ہو کر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے لوگ سچی خیر خواہی اور جھوٹی محنت میں انتیاز نہیں کرتے، دوسری یہ کہ یہ خدا کے مقابل میں شیطان پر زیادہ سجدہ سے رکھتے ہیں، تیسرا یہ کہ یہ ارادت و عقیدت کے تقاضوں کو حق سے بھی بالآخر سمجھتے ہیں۔

ایک شخص اگر اپنے کسی بچے یا کسی عزیز میں ایک خطرناک مرض کے اثر پار ہا ہو لیکن وہ بعض اس خیال سے اس کو زبان پر نہ لائے یا اس کے علاج کی نظر نہ کرے کہ یہ چیز اس کی طبیعت پر پار ہو گی اور اس کو نجکشی اور آپریشن کے تکلف وہ مراحل سے گزارنا پڑے گا تو اس میں شبہ نہیں کہ یہ بیت کھانے کھانا تو ہے لیکن یہ بعض ایک جھوٹی بیت

ہے جس کے نتائج نہایت خطرناک ہیں سچی مجتہد یا بالفاظ دیگر سچی خیر خواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلہ میں اس کا نوش بیا جائے، اور قبل اس کے کہ اس کی بیماری لا علاج ہو جائے اس کا علاج کروالا جائے۔ اگرچہ یہ علاج کتنا ہی تکمیل وہ اور ناگوار کیوں نہ ہو۔ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح سمجھا یا ہے کہ بجاۓ اس کے تمہاری مذاہشت اور حشمت پوشی سے بگڑ کر تمہارے اہل دعیاں خدا کے سخت گیر ملائم کی گرفت میں آئیں اور دوزخ کا ایندھن نہیں تمہاری سچی خیر خواہی اور سچی مجتہد کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود ہی اپنے اختساب اور اپنی تادیب کے نتیجے رکھ کر ان کو خدا کی رحمت کا مستحق بناؤ۔

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَنْفَسْكُمْ  
وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاتِمُ  
وَالْحِجَارَةُ، عَلَيْهَا مَلِئَكَةٌ  
غَلَظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ  
مَا أَهْرَهُ هُمْ وَلَا يَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمِنُونَ۔ (تحریم - ۹)**

اسی طرح اگر کسی شخص نے خدا اور اس کے قانون سے فرار اختیار کیا ہے تو بجاۓ اس کے کہ ہم اس کے معاملہ میں جھوٹی شہادت دے کر یا سچی شہادت کو چھپا کر اس کو اللہ سے اور دور کر دیں اور خدا کے جو مر کی حیات کر کے خود ہمارے یہے بھی یہ ہے کہ ہم اس کو خدا اور اس کے قانون کے حوالہ کریں۔ اگر ہم اس کو خدا کے قانون سے بچانے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہم اس کے معاملے میں خدا سے زیادہ شیطان کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کو شیطان کے حوالہ کر رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل آیت کے الفاظ پر خوب اچھی طرح غور کیجیے تا یہ حقیقت واضح ہو کر رسانے آجائے گی۔

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْدُوْنَ  
فَوَارِصِينَ بِالْفِسْطِطِ شَهَدَاءَ اللَّهَ  
وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنَ**

وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ تَيَكُنْ عَنْ بَيْتِهِ  
أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِهِمَا  
فَلَا تَنْتَهِي إِعْلَمُ الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا  
وَإِنْ تَكُونُوا أَوْ تَعْرِضُوا فِي كَانَةِ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
جَهْنَمَ بِمَا سَبَقُوا  
وَاللَّهُ خَبِيرٌ  
اپنی ذات کے یاتمارے والدین کے یاتمارے  
رسشہ داروں کے خلاف ہی پڑے، کرنے  
شخص امیر ہو یا غریب، اشہر کا حق ان روزیں  
پسپ سے زیادہ ہے، تو خدا ہش کی پریزی  
کر کے انصاف سے نہ ہٹاگر تم کسی کی ملن  
درکھنے والا ہے۔

یعنی تماری شہادت بالکل بے لگ پڑت ہوئی چاہیے۔ اس میں اس وجہ سے کوئی فرق  
ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص تمہارا عزیز اور رشہ دار ہے اور دوسرا شخص نہیں ہے یا  
ایک شخص غریب ہے اور دوسرا مالدار ہے، کوئی شخص یا کائنہ ہو یا بیگناہ، امیر ہو یا غریب،  
خدا کا حق دونوں پر یکساں ہے اور یہ حق دوسرے تمام حقوق پر مقدم ہے، اس وجہ سے بجا گئے  
اس کے کو غربت و امارت اور یکانگی و بیکانگی کا سحافظ کر کے کسی پر خدا کا قانون چلا یا جائے  
شہادت حق کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پر اس کو یکساں چلا یا جائے کیوں کہ خدا کے قانون کے  
تحت مر جانا اس جیتنے سے کہیں بہتر ہے جو خدا کے قانون کے تحت نہ ہو۔

یہی حقیقت مخدود یہیہ عورت کے اس واقعہ سے واضح ہوتی ہے جس کا ذکر احادیث میں  
ہے رحمت عالیہ رضی اللہ عنہا فرمات ہیں کہ جب مخدود یہیہ عورت نے چوری کی، تو قریش کو اس کی  
بڑی فکر ہوئی، وہ اس امر پر غدر کرنے لگے، کہ اس کے بارے میں کوئی شخص رسول اللہ سے  
گفتگو کرے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھلا ایسے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھیتے  
اسامین زید کے سوا کس کی مجال ہے کہ حضورؐ کے سامنے کچھ کہنے کی جو اُن کر سکے پہنچانے پر  
رحمت اسامہؓ نے حضورؐ سے گفتگو کی حضورؓ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک  
حد کے باپ میں سفارش کرنے آئے ہو، اس کے بعد آپؐ نے ایک خطبه دیا جس میں فرمایا  
کہ تم سے پہلی اُمتوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ جب ان کے اندر کوئی معتزل اُدمی چوری کرتا

تو اس سے حشمت پر شنی کر جاتے اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر چد جاری کر تے لیکن خدا کی قسم میں تو اگر فاعل نہ ہست محمدؐ بھی پچوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔“

(مسلم و بخاری)

اب ان لوگوں کے معاملے کو بھی یہ شیخ یا استاذ یا مرشد یا یا مدرس کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی کمزوریوں اور غلطیوں کو جانتے پر جھتنے نظر انداز کرنے کی چند وہیں ہو سکتی ہیں اور ان میں سے ہر دوسرے بھر کیجیے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک سے ایک بڑھ کر افسوس ناک بلکہ شرمناک ہے۔ ایک وجہ تیر ہو سکتی ہے کہ آپ محسوس کریں کہ اپنے شیخ یا استاذ یا یا مدرس سے خلافت سخت قسم کی زیادتی ہو رہی ہے لیکن بعض اس کا لحاظ اور احترام آپ کے کیجیے اس زیادتی کے خلاف زبان بخوبی سے مانع ہو۔ اگر یہ صورت ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ آپ استاذ یا شیخ کا احترام حق سے بھی زیادہ کرتے ہیں اور شیخ اور استاذ کے احترام کے تقاضوں کو خدا کے اور رسولؐ کے صریح مرطابات سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کسی بزرگ میں کوئی غلطی صریحاً دیکھ تر ہے ہیں لیکن آپ کی کوئی چھوٹی یا بڑی عرض اس بزرگ سے والبستہ ہے جس کے بعد سے آپ کے منزہ میں لگام لگی ہوئی ہے اور آپ اس کو ڈونکنے کی جرأت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ وجہ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنی عرض اور اپنے مطلب کو حق اور سچائی اور خدا اور رسولؐ کی سب پر مقدم رکھتے ہیں تیسرا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے شیخ یا استاذ کے علم اور تقویٰ پر اتنا بھروسہ اور اس کی رائے پر اتنا گہرا اعتماد ہے کہ آپ محسوس نہ کرتے ہیں کہ اس کا خلاں فعل یا فلاں قول بالکل حقیقت کے خلاف ہے لیکن بعض اس خیال سے اس کو ڈونکنے سے احتراز کریں کہ ایک ایسا صاحب علم و تقویٰ کوئی غلط کام کس طرح کر سکتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلطی پر ہوں اس وجہ سے خاموشی ہی بھر ہے۔ اگر یہ وجہ ہے تو یہ وہی اندھی تقلید ہے جس میں مبتلا ہو کر لوگوں نے اپنے بزرگوں اور مشائخ کو ہمراپر خدا یا بالفاظ ویکھا ارباباً من دون اللہ بناؤ لا اور اس کے تقبیح میں حق تناہی کی نعمت سے ایسے محروم ہوئے کہ سوچ کی طرح چکتا ہوا حق بھی ان کو نظر نہ اسکا۔ اس کی چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے یا مرشد کی غلطی اور کوئی تباہی جاننے کے باوجود مخفی سهل امتحان کے بعد سے حق نفیحہ سے

تفاہل برہت رہے ہوں۔ اگر یہ سبب ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کا حق اپ پر بے ہوا ہے آپ اسی کے معاملے میں مجرمانہ غلطیت برہت رہے ہیں، ایک شخص نے آپ کو تعلیم دی، آپ کی تربیت کی، آپ کو راہ پر لے گایا میکن جب اس نے خود کیمیں مخوک کھائی تو بجا ہے اس کے کہ آپ اس کو دلہ کر سنبھالنے اور چھپٹ کر اٹھاتے اس کو چھوڑ کر چلتے ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی ناپاسی اور احسان فراموشی ہے۔ پانچویں اور آخری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے مخوک کھا کر گرنے ہی کے متینی رہے ہیں اور جب کہ وہ گرچکا ہے تو بجا ہے اس کے کہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے اس کی پھر میں لست پت اور دل میں پھنسا ہوا دیکھ کر آپ مطلع ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو یہ ایک پدرین خیانت اور سنگین ترین بے وفائی ہے جو کوئی شخص اپنے کسی بزرگ یا اپنے لیڈر کے ساتھ کر سکتا ہے۔

بہر حال ان میں سے جو وجہ بھی ہو اور انہی میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ہر وجہ نہایت افسوسناک اور نہایت خشنناک ہے، بلکہ یہ کتنا بھی شاید مبالغہ نہ ہو کہ ان میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے ان کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں اور اخلاقی گراؤٹ کے پہلو سے دیشیت ہے پھر جب آدمی ان پر اس پہلو سے نکاہ ڈالتا ہے کہ ایک مرشد یا ایک پیشو اور لیڈر کی خلطی محض ایک شخص ہی کی خلطی اور کوتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہزاروں اور لاکھوں کی خلطی اور خرابی کی وجہ ہے، اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، جامعتوں کی جاہتیں گمراہی کے راستے پر چل پڑتی ہیں، اور بالآخر قوم کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں تو ان کی سنگینی تو گئی بلکہ ہزار گئی پڑھ جاتی ہے۔

## بدعہت اس کے اسباب اور اس کا علاج

**بدعہت کی تعریف** | بدعہت نام ہے اس پھر کا کہ ہجو دین کل نہیں ہے وہ دین میں لا گھائی جائے۔ کسی پھر کے دین کی پھر ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ قرآن میں بیان ہوئی ہو۔ اگر قرآن میں تربیان ہوئی ہو تو کسی قابل اعتماد حدیث ہی میں آئی ہو، اگر حدیث میں بھی ذہن تکمیل کیا جائے۔ اب اس طرح کا کوئی تعلق بھی اس کا تاب و سنت سے موافق ہے اور مناسب ہی رکھتی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی تعلق بھی اس کا تاب و سنت سے ثابت نہ پایا جائے تو پھر یہ بات دین کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر دین کے ساتھ اس کا خراہ مخراہ جوڑنا نے کی کوشش کی گئی تو یہ بدعہت ہو گی اور اس طرح کی ہر بدعہت مظلالت اور گراہی ہے۔

اس امر کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بات بدعہت اسی صورت میں قرار پائے گی جبکہ اس کا پیوند دین سے لگانے کی کوشش کی جائے اگر دین سے اس کا بڑھنہ ملایا جائے تو اس پر بدعہت کا اطلاق نہ ہو گا۔ فرض کیجیے ایک شخص گھاٹا نہیں ہے لیکن وہ اس بات کا مدعا نہیں ہے کہ یہ پھر دین کا کوئی جز عہد ہے یا معرفت الہی کا کوئی ذریعہ ہے یا شریعت

سے یہ ثابت ہے تو اس کے اس فعل کو بدعت نہیں کہیں گے کیونکہ اس نے اس پیغمبر کا بھروسہ دین سے نہیں ملایا ہے۔ اس کو شریعت کے احکام کی روشنی میں جانچیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس کا یہ فعل جائز ہے یا ناجائز ہے تو کس درجہ میں ناجائز ہے لیکن اگر وہی شخص اپنے اسی گافنے سنتے کے متعلق یہ دعوے کر رہی ہے کہ یہ معرفت الہی کا کوئی ذریعہ یا ترکیبی شخص واصلاح باطن کا کوئی نہ ہے تو اس سے سوال ہو گا کہ اس نے کتاب و سنت کی کس دلیل ریان کے کس اشارہ سے یہ بات اخذ کی ہے ؟ اگر وہ کسی شخص یا اشارہ کا حوالہ دے گا تو اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ ہو گا اور اگر وہ کوئی حوالہ نہ دے سکے بلکہ محض اپنے وجدان یا ذوق یا تجربہ کو اس کی دلیل تھی رائے تو یہ بدعت ہو گی کیونکہ وہ دین کے حرم میں ایک ایسی پیغمبرگر خسارہ ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔

یہاں سے یہ بات اپ سے اپ سے تکلی کر جانا تک دنیا کا تعلق ہے اس میں کوئی اضافہ یا ایجاد یا کوئی نئی راہ نکالنا یا نئی طرح ڈالنا بدعت کے تحت نہیں آتا۔ اس دائرے میں ہم آزاد ہیں کہ جو چاہیں اتنا فریض کریں اور جس طرح کی چاہیں کیاں کریں۔ لیکن یہاں معایب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں دین اور دنیا کی اس قسم کی کوئی تفریق ہے بھی ؟ اگر ہے تو ان کے درمیان دو خلافاً فاصل کیا ہے جس سے ایک شخص بعض کسی اشتباہ کے معلوم کر سکے کہ دین کے حدود ہیں اور یہاں سے دنیا کی حدیں شروع ہو جاتی ہیں۔

### دین اور دنیا کے حدود

اس سوال کے پلے حضرت ہاجر اب تریے ہے کہ اسلام تفریق نہیں ہے جس معنی میں عیسائیت میں ان کے درمیان تفریق ہے کہ شخصی زندگی کے ایک نابہت محدود گوشے کے سو ایقیب ساری اجتماعی و سیاسی زندگی دین کے دائرہ بحث سے خارج ہے۔ اسلام اس پہلو سے تو ایک کلیت پسند دین ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے ہر حصے سے بحث کی ہے خواہ وہ انفرادی ہو یا سماجی یا سیاسی لیکن اس پہلو سے اس میں بھی دین اور دنیا کی تفریق موجود ہے کہ وہ ہمارے ہر گوشہ زندگی کی ساری تنصیلات و جزئیات سے بحث نہیں کتا بلکہ صرف ان کے چاروں گوشے متعین کروتا ہے، ان کو متعین کر دیجئے

کے بعد ہمیں آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ ہمیں طرح چاہیں ان کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی رائے اور حکم کی آزادی استعمال کریں اور اپنی قوتِ ایجاد و اختراع کا مظاہرہ کریں۔

اس بات کو چند مشاہد سے بحث کیجئے:

ہماری زندگی سے ایک بڑا قریبی تعلق رکھنے والا مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اس میں اسلام نے دخل تو دیا ہے لیکن اس داخل کی نوعیت یہ ہے کہ پہلے ساری کھانے پینے کی چیزوں کی تفصیل سنائی ہو، پھر یہ بتایا ہو کہ ان میں سے کیا کیا پھیزوں جائز ہیں اور کیا کیا پھیزوں ناجائز۔ پھر ان کے پیدا کرنے، ان کے سنبھالنے اور ان کے پکارتے اور محفوظ رکھنے کی تدبیریں بتائی ہوں۔ اسلام کو ان تفصیلات سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اس نے صرف یہ کیا ہے کہ چند متعین چیزوں کو حرام ہیں بتا دیا کہ یہ حرام ہیں، ان کو کھانا بینا ناجائز ہے، اب جو چیزوں ان کے حکم میں آتی تھیں وہ آپ سے آپ ان کے تحت حرام یا مکروہ ہو گئیں۔ اس کے بعد اس سلسلہ کی ساری چیزوں کو انسان کی طلب، اس کے ذوق اور اس کی قوتِ اکتساب دایجاد پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی طبعی ضرورتوں اور اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرے۔

اسی طرح ہمارے بیاس کا مسئلہ ہے۔ اس بارے ہیں اس تھے کہ کیا کہ چند اخلاقی نوعیت کی حدیں مقرر کر دیں مثلاً یہ کہ بیاس ساز ہو۔ مرد سرفائد بیاس شلاریشم کا استعمال نہ کریں۔ بیاس سے شہد پین اور غندہ پین کا اطعمہ نہ ہو مثلاً تندیر یا شلوار نہیں پہنچنے ہوئی یا شخصوں سے نیچنے ہو۔ سورتیں مردوں کا ساء، یا مرد عورتوں کا سا بیاس نہ پہنچنے۔ بس اس طرح کی چند شرطیں عائد کر کے ہیں آزاد چھوڑ دیا کہ ہم جس طرح کے کپڑے چاہیں ایجاد کریں۔ جس طرح کے چاہیں سلوائیں، اور جس طرح ڈھپے کے انہیں چاہیں پہنچیں۔ ان سارے امور کا اختصار ہمارے ہاتھ کی آپ دہرا، ہماری قومی روایات، ہمارے فطری ذوق اور انش اور ہماری قابلیت، اختراع دایجاد پر ہے۔ مذہب ان چیزوں میں کوئی داخل نہیں دیتا۔

اسی طرح ہمارا معاشرہ مسئلہ ہے اس میں بھی اسلام نے چند اصول دے دیے ہیں مثلاً کہ اس کی بنیاد جائز رسم و رشته منکحت پر ہو، اس میں مرد کی قوامیت کے ساتھ عورت

اور مردوں کے بیس حقوق اور دلوں کے اور پر فقرہ داریاں ہوں، اولاد کی پرورش و تربیت۔ ایک مشترک ذمہ داری ہو، اگر اس رشتہ کو توڑنے کی ذہبت آئے تو وہ بیوی واقع نہ ہو جائے بلکہ طلاق، عقدت، حصر اور رہنا صحت کے چند متعین متوابط کے تھت ہو۔ عورتوں اور مردوں کو آزادانہ اختلاط کی اجازت نہ ہو بلکہ گھروں کے اندر بھی اور گھروں کے باہر بھی چند معلوم حدود کی پایندی کی جائے۔ ان چند اصولی باتوں کے بعد ازدواجی زندگی کو خوشگواری کے ساتھ گزارنا اور اجمالی میں تفصیل کا زانگ بھرتا یا اور بیوی کا اپنا کام ہے، اسلام اندر وہ خانہ کی روزمرہ زندگی کی جزویات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔

اسی طرح ہماری سیاسی زندگی کا معاملہ ہے اس کے متعلق بھی اسلام نے چند بنیادی باتیں طے کر دی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اسلام کا نظام حکومت خدا کی حاکیت کے نظر پر پرستی ہو۔ اس میں قانون کا اخذ خدا کی شریعت ہو، اس کے چلانے والے تقویٰ اور صلاحیت کے اوصاف سے تصفیت ہوں جہاں شریعتِ الہی کی کوئی واضح ہدایت موجود نہ ہو، وہاں سائے معاملات شہزادی کے ذریعے سے طے کیجئے جائیں، یہ اور اسی طرح کے چند بنیادی اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک سیاسی نظام کو بنانا اور چلانا اور زمانہ کے حالات اور تقاضوں کے مطابق اس کو دھاننا اور ترقی دینا ہمارا اپنا کام ہے۔ اسلام ان تفصیلات میں نہیں پڑتا ہو بلکہ انتظامی نوعیت کی ہیں اور جن کا شعور ہر معاشرے کی فطرت کے اندر ورثیت ہے۔

یہ چند چیزیں محض بطور مثال ذکر کی گئی ہیں۔ ہمارا مقصود یہاں نہ تو نماں شعبہ ہائے زندگ کا استفصال کرنا ہے اور نہ ان اصولوں کی تفصیل کرنا ہے جو ان شعبہ ہائے زندگی سے متعلق اسلام نے دیے ہیں۔ یہ چیزیں ہر صاحب علم، قرآن اور حدیث سے اخذ کر سکتا ہے، ہم تو یہاں صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام اگر ایک کلیت پسند دین ہے تو وہ کس معنی میں کلیت پسند ہے۔ وہ کلیت پسند توبے شک ہے، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا، اس کلیت پسندی کا مفہوم صرف یہ ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق وہ بنیادیں متعین کر دیتا ہے جن پر اس کو بنی ہزا چاہیے۔ یہ سبی اس کلیت پسندی کے نہیں ہیں کہ وہ شعبہ زندگی سے متعلق ساری جزویات و تفصیلات بھی بتانا ہو۔ بھی نقیبیت ہے جس کو ہمارے فقہاء اس طرح تغیر

کرتے ہیں کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے یعنی ہر شعبہ زندگی کے اندر اسلام کچھ صد و تین کروپتا ہے، اس کے بعد ہمیں آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ ان حدود کا پورا پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنے لکڑو عمل کی وہ صلاحیتیں استعمال کریں جو ہمارے اندر و ویعت ہیں۔

حد بندی اور اباحت، پابندی اور آزادی کا یہی وہ انتزاع ہے جو اسلام کو نہ صرف دوسرے مذاہب پر فقیرت بخشتا ہے بلکہ اس کو ایک ابدی دین کا مقام عطا کرتا ہے۔ ہمارے ہر شعبہ زندگی کو چند پابندیوں کے ساتھ یہ چرباندھ دیا گیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خواہ اس پر کتنے ہی تغیرات اور حادث طاری ہوں لیکن وہ ان حقائق سے محفوظ نہ ہونے پائے جو فعلت کے اٹل حقائق ہیں۔ یہ حقائق اگر قائم ہیں تو زندگی کا ہر تغیر اسلام ہی کے تحت ہے اس تغیر سے معاشرہ یا تذکرہ یا سیاست میں کسی فساد کے پیدا ہونے کا کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن اگر وہ حقائق اپنی جگہ قائم نہ رہ سکیں تو پھر ہماری زندگی اس جہاز کے مانند ہے جس کا انگر ٹوٹ چکا ہے، اچھے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس چیزان سے چاگکرا ہے۔ اور یہ جو ایک ویسیع دائرة آزادی کا رکھا گیا ہے جس کے اندر ہم خود اپنی فکری و عملی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں تو یہی وہ چیز ہے جو اسلام کے اندر وہ چک پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ زمانہ کے ہر اس صالح تغیر کو اپنالیتا ہے جو اس کے بنیادی اصولوں سے یہے جوڑ نہیں ہوتا۔ یہ چیز اپنے موسمیت میں پائیں گے اور نہ مسیحت میں اور نہ دنیا کے کسی اور نہ ہب یا وصرم میں۔

اس روشنی میں خود کیجیے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ اسلام ایک طوف تو ہماری ساری زندگی پر حاوی بھی ہے اور دوسری طرف اس میں دین اور دنیا کے الگ الگ دائرے بھی ہیں، ان میں سے ایک دائرة کے اندر ہم پابند ہیں اور دوسرے دائرة کے اندر ہم آزاد۔

یہی دائرة جس کے اندر ہم آزاد ہیں، قرآن کے بعض مقامات اور متعدد احادیث میں دنیا کے نظر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دنیا کا لفظ یوں عام طور پر تو آخرت کے مقابل میں آتا ہے اور اس وقت اس سے عالم باقی کے مقابل میں عالم فانی مراد ہوا کرتا ہے لیکن جبکہ اس خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے تو یہ لفظ دین کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔

اور اس وقت اس سے مراد ہماری زندگی کا وہ دائرة ہوا کرتا ہے جس کی چاروں حدیں  
تعمیق کر دیتے کے بعد ہمیں اس میں آزادی بخشی گئی ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ  
أَنْ تُشْرِكَ كَرِيمُ مَا لَكُمْ  
لَكَ يُهْرِبُهُ عِلْمٌ فَلَا  
تُطْعِهُمَا وَصَارِحُهُمَا فِي  
الذُّنُكَ مَعْرُوفًا  
اد راگر تمہارے والدین اس بات کے  
درپے ہوں کہ تم کسی ایسے کو میراثرک  
بناؤ جس کے حق میں تمہارے پاس کوئی  
دیل نہیں ہے تو تم ان کی بات نہ مانیوں گی  
دنیوی معاشرت کے دائرة میں ان کے  
ساتھ دستز کے مطابق سلک کرتے  
رہنا۔

اس آیت میں فی الذُّنُكَ کا الفظ دو دین " کے مقابل میں استعمال ہوا ہے اور  
اس سے مراد ہماری معاشرتی زندگی کا وہ دائرة ہے جس کے اندر خدا نے ہمیں آزاد چھوڑا  
ہے کسی حکم یا ممانعت کے ذریعہ سے ہماری آزادی پر کوئی پابندی عاید نہیں کر دی ہے  
اس دائرة میں ہمیں ہدایت ہے کہ ہم والدین کے ہر حکم کی اطاعت کریں یہوں کہہ بیاں ان  
کی اطاعت اور خدا کی اطاعت میں کسی تصادم کا اندیشہ نہیں ہے: تابیر نخل والی مشہور  
حدیث میں حضور نے یہ ہجہ ارشاد فرمایا:

أَنْتَ أَعْلَمُ بِآمُوسٍ تُمْ أَپْنِي دُنْيَا كَمْ  
جَانِتَهُ هُو.

تو اس سے ہماری زندگی کا یہی دائرة مراد ہے۔

اب مذکورہ بالا سوال کے دوسرے حصہ پر آئیے ہیں اس سوال پر کہ ہمارے دین  
اور ہماری دنیا کے درمیان وہ حدِ فاصل کیا ہے جو ان دونوں دائروں کو اس طرح ایک  
دوسرے سے نمایاں اور ممتاز کر دے کے درنوں میں کوئی التباس اور اشتباہ باقی ہی نہ رہ  
جائے تاکہ ہم اپنے اختیار اور اپنی آزادی کے استعمال میں حدود انشہر سے تجاوز کرنے کے

مجرم نہ چھریں بلکہ تھیک اسی دائرے کے اندر اپنی آزادی استعمال کریں جس کے اندر ہیں اس کے استعمال کا حق ہلا ہے ۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا سے مراد وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم خدا اور رسول کی طرف سے نقی یا اثبات کی صورت میں کوئی ہدایت وہ دی گئی ہو اور دین سے مراد وہ امور و مسائل ہیں جن میں خدا اور رسول کی جانب سے نقی یا اثبات کی صورت میں کوئی ہدایت وہ دی گئی ہو ۔ یہ ہدایت خواہ قرآن کے فریبے سے دی گئی ہو یا حدیث کے فریبے سے یا قرآن و حدیث کے کسی اشارے سے یا کسی اجتہاد و استنباط سے نکلتی ہو ۔ جب طرح کی بھی ہدایت ہو، وہ جس امر سے متعلق موجود ہو وہ دین کا دائرہ ہے، اس میں ہمارے فکر و عمل کی آزادی بس اس حد تک ہے کہ ہم اپنی طرح جانچ پر کھ کر دیکھ لیں کہ جو شخص ہے وہ اپنے منہوم و مدعا میں واضح ہے یا نہیں ۳) جو حدیث ہے وہ ثابت ہے یا نہیں اور جو استنباط و اجتہاد نہیں کیا گیا ہے وہ اپنی کوئی اساس رکھتا ہے یا نہیں ۴) اگر ان پہلوؤں سے اس میں کوئی ضعف نہیں ہے تو اس سے انحراف دین سے انحراف ہے ۔

**بدعت کا دائرہ** | کوئی اضافہ کر دنیا اسلام کی اصطلاح میں بدعت ہے اور اس بدعت کو اسلام نے گراہی اور ضلالت قرار دیا ہے ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ :

اما بعد، فَإِنْ خَبَرَ الْحَدِيثَ يَا ذَرْكُهُ كَبْرَتِينَ بَاتُ اللَّهِ كَتَبَ بَيْتَ  
 كَتَابَ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ  
 هدایی مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ہدایت ہے اور بہترین چیزیں  
 وَسَلَّمَ وَشَرِّ الْأَمْوَالِ حَدَّنَا زَيْنَهَا دہ بے جڑ اضافے میں جوان میں کر دیے  
 دَكَلَ بَدْعَةً ضَلَالَةً ۔ جائیں، اس طرح کی ہر چیز بدعت ہے

(ریاض الصالحین بحوالہ مسلم) اور ہر بدعثت گراہی ہے۔

ایک دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یوں مروی ہے :

قالت قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا  
کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی حیز  
فی امرنا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ  
فہو سد (متفق علیہ) مردود ہے۔

یہی بات مسلم شریعت میں بایں الفاظ وارد ہوئی ہے :

من عمل عملاً ليس  
عليه احسننا فہو ساد  
(مسلم) مردود ہے۔

عراش بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

وَايَاكُمْ وَمَحْدُثَاتِ الْأَهْوَاءِ  
اوْرَبْعَتْ كَمَا تَرَى سے پھر ایکوں کہ بڑت  
فَإِنْ كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ  
گراہی ہے۔ (ترمذی، ابو داؤد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
إِنَّمَا يُنْهَا بَعْضُ النَّاسِ  
إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةَ، مَلِحَّدٌ  
فِي الْحَرْمَنِ وَمُبَتَّسِعٌ فِي  
الْإِسْلَامِ سَيِّدَةُ الْجَاهِلِيَّةِ  
وَمُطَلَّبٌ دَمَ إِهْرَئِيْ مُسْلِمٌ  
بَغْيَرِ حَقٍّ بِهِرَيْ دَمَهُ  
کار تکاب کرے، دوسرا وہ شخص جو اسلام  
کے اندر جاہل طریقہ کھانے کی کوشش  
کرے، تیسرا وہ شخص جو ناحن کسی مسلمان  
کی جانب کے درپے ہوتا کہ اس کا خون

پہنچے۔

بلال بن حارث مرتضیٰ سے روایت ہے کہ :

قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا  
 کہ جس نے یہی سنترن میں سے کوئی ایسی  
 سنت زندہ کی جو ختم کر دی گئی تھی تو اس  
 کو ان لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس پر  
 عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے  
 والوں کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو اور جس  
 نے کوئی ایسی بدعت خلافت ایجاد کی  
 جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے تو اس کو  
 اس پر عمل کرنے والوں کے برابر برابر گناہ  
 ہو گا اور اس سے علی کرنے والوں کے  
 گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(مشکراۃ بحوالہ ترمذی)

دین کے دائروں کے اندر اس نوع کی کسی مداخلت کے صاف معنی یہ ہیں کہ جو بات  
 دین کی ہے وہ تو بکال باہر کی جائے اور اس کی جگہ یہ نو ایجاد چیزیں کے لئے جس کے لیے دین  
 میں کوئی سند نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک بدعت کرنے والے کی مشاہد بالکل ایسی ہے  
 کہ ایک شخص اپنے ہاتھ کا گھر بیٹک کر اس کے بجانے کو میغتنی المحتالے یا اپنے ہاتھ  
 کی محضی چھوڑ کر اس کی جگہ کوئی سانپ پکڑے۔ اس حقیقت کی طرف ایک حدیث میں حضور  
 نے یوں اشارہ فرمایا ہے :

ما احادیث قوہ بدعة  
 الارفع مثلها من السنۃ  
 فتہ سلک سنۃ خیر من  
 احادیث بدعة۔

(مشکراۃ بحوالہ احمد)

بہتر ہے۔

اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ بدعت دین کی تحریک کا دوسرا نام ہے بوجھن ایک بدعت قائم کرتا ہے تو گویا ایک سنت کو مُحَارِّیتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں جس طرح بدعت کو ضلالت قرار دیا گیا ہے، اسی طرح کسی صاحب بدعت کے ساتھ اختراء اور محبت کے تعلق کو ہدم اسلام سے تعاون سے تغیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے:

من و قر صاحب بداعة فقد  
اعان على هدم الاسلام  
کی تو گریا اس نے اسلام کے مُحَارِّیم  
(مشکوٰۃ بحوالہ بیہقی) تعاون کیا۔

اس تفصیل سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ بدعت کا مقوم کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کے کس دائرہ کے اندر ظہور کرتی ہے؟ شریعت میں یہ کس درجہ کا جرم ہے؟ اور یہ کس طرح علم حق کے آثار اور اس کی نشانیوں کو ٹھانے والی ہے۔ اب ہم آگے اس کے اسباب پر روشنی ڈالیں گے۔

**بدعت کے دو بڑے سبب** | ہمارے زدیک بدعت کے بڑے سبب دو ہیں۔ ایک غلوپسندی اور دوسرا نوادرت نفس کے بیے شرعی حجاز پیدا کرنے کی خواہش۔ اب ہم ان دونوں اسباب کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرتے ہیں۔

**غلوپسندی** | انسان کے اندر یہ ایک عام کمزوری پائی جاتی ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق محض عقلی ہی نہیں، بلکہ جذباتی بھی ہوتا ہے، ان کے معاملے میں وہ پس اوقات غیر متوازن اور غیر معقول ہو جایا کرتا ہے۔ ادمی اپنے بیوی بپریل سے محبت کرتا ہے تو صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ لبسا اوقات اس محبت میں وہ ایسا انداز ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ عدد اور بھی کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس اندر ہے پن میں اس کو خدا کے حقوق کا بھی کچھ ہوش نہیں رہ جاتا۔ اگر اسے اپنے قبیلہ یا قوم یا ملک سے محبت ہے تو ان کی عصیت اس پس اوقات اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ ان کے بیے پوزی انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے۔ صریح ہے کہ ان کی

حکایت میں خود خدا سے بھی لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی پیزی مذہب کے دائرہ میں آگر اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے کیونکہ مذہب کے ساتھ اولاد تو عامم لوگوں کا تعلق، عقل کم اور حیثیت پاتی زیادہ ہوتا ہے اور اگر عقلی ہتنا بھی ہے تو بھی اس معاملے میں انسان کے چند بات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ عقل کے لیے ان کو ضبط میں رکھنا انسان کام نہیں ہوتا یہ جام و مندال کی بازی کھینا ہر شخص کے بین کا کام نہیں ہے۔ پچانچہ اس دائرة کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی کو جس حد پر ڈک جانا چاہیے وہاں آگر وہ نہیں رکتا بلکہ اس حد کو لانگ کر آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ اگر ایک شخص اس کا مرشد ہے تو وہ اس کو مرشد ہی کے درجہ پر نہیں رکھے گا بلکہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ کسی طرح اس کو رسالت کے مرتبہ پر فائز کرے۔ اسی طرح اگر ایک ذات کو خدا نے منصب رسالت سے سرفراز قرمایا ہے تو یہ اپنے جوش عقیدت میں بیڑا چاہے گا کہ اس کو خدا کی صفات میں بھی کچھ نہ کچھ شریک کروے۔ اگر اس سے کسی کام کا مطالبہ پاؤ سپیر کیا گیا ہے تو وہ چاہے گا کہ وہ اس کو بڑھا کر سیر پھر کر دے۔ اس غلو پسندی نے دنیا میں بڑی بڑی بدعتوں کی بنیادیں ڈالیں۔ اسی کے سبب سے عبیسا نیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اسی کے سبب سے انہوں نے اپنے صوفیوں اور عالموں کو اس بابا گمن دوئی اللہ کا درجہ دیا اور یہی پیزی محتی جس نے ان کو رہبانیت کے فتنہ میں بنتا کیا پچانچہ قرآن نے ان کی اس غلو پسندی پر کئی جگہ ان کو ملامت کی ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابَ لَا تَعْلُمُوا رِفْ

دِيْنِنِكُفَّارٍ وَ لَا تَقُولُوا أَعْلَمُ اللَّهُ

إِلَّا الْحَقُّ ۚ إِنَّمَا الْمَيْسِيرُ مِنْ عِنْسَى

أَبْنُ هَرَيْرَةَ سُوْلُ اللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ

الْقَهَّاَءَ إِلَى هَرَيْرَةَ وَ سُرْدَحَ

قِنْهَهُ، فَأَهْمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُلِهِ،

وَ لَا تَعْلُمُوا ثَلَاثَةَ ۖ إِنَّهُمْ هُوَا

خَيْرًا لَّكُمْ رَاجِمَةَ اللَّهُ

اے اہل کتاب، اپنے دین کے معاملے میں غلو ز کرو اور اللہ پر کوئی ایسی بات نہ لگاؤ جو حق نہ ہو مسیح علیسی بن مریم تو بس ائمہ کے ایک رسول اور اس کے ایک کھلیہ اس کلمہ کو اس نے مریم کے اندر دالا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں تو ائمہ پر اور اس کے فرسلوں پر ایمان لاو اور یہ نہ کہو کہ خدا میں ہیں، اس سے بازاڑا

إِلَهٌ وَاحِدٌ، سُبْحَانَهُ أَنْ  
يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا  
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَكَفَى بِاللَّهِ دَيْمَلًا۔

(سادہ: ۱۲۱)

یہ تصارعے یہے ہے ایک ایک  
ہی بیرون ہے وہ اس عجیب سے پاک ہے  
کراس کے کرنی اولاد ہو، اسی کے بقیے  
میں ہے جو کچھ آسانی میں ہے اور جو کچھ  
زمیں میں ہے اور اللہ کافی ہے بھروسے  
کے یہے۔

اللہ کی رضا جوئی ہر دین میں بحثیتِ اصل نسب العین کے پیش نظر ہی ہے اور اس  
نسب العین تک پہنچنے کے یہے ہر مذہب نے ایک معتدل، اور متوازن پروگرام، جو قوم  
کے مناسب حال ہو، خود تجویز کر دیا ہے۔ یہ پروگرام نصاریٰ کے پاس بھی موجود تھا اور وہ اس  
پر کاربنڈ ہو کر اس نسب العین کو حاصل کر سکتے تھے لیکن ان کے علماء اور صوفیاء اتنے ہی پر  
تفاق نہیں ہوئے جتنا حضرت مسیح علیہ السلام کرتا گئے تھے بلکہ انہوں نے اپنی حد اس سے اگرچہ  
کر قائم کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں انہوں نے رہبانیت کا ایک پورا نظام کھڑا  
کر دیا، قرآن نے ان کی اس بدعت کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے:

وَرَهِبَانِيَةً أَبْتَدَ عَوْهَامَأ  
حَكَتِدُنَهَا عَلَيْهِ حُرَّاً أَيْتَعَالَمَ  
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَادَعَوْهَا  
حَقَّ رِعَايَتِهَا۔

(حدید: ۷۷)

اور رہبانیت، جس کی بدعت انہوں نے  
خود ایجاد کی، ہم نے یہ چیز ان کے اور پڑھنے  
تھیں کی، ان کے اور جو پھر فرض کی گئی وہ  
تصوف خدا کی رضا جوئی تھی لیکن انہوں نے  
اس کے حدود کو پوری طرح محفوظ رکھا،  
اور رہبانیت میں بنتا ہو گئے۔

منہاز کو اس غلو پسندی کی بیماری سے بچانے کے یہے ایک طرف تو نصاریٰ  
کی تاریخ سنائی گئی کہ وہ کس طرح اس بیماری کے سبب سے بدعتوں میں بنتا ہوئے اور پھر  
اس کے نتیجے میں دینِ حق کی نعمت سے محروم ہوئے، دوسرا طرف قرآن و حدیث دلوں  
میں ان کو افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صحیح نقطہ اعتدال پر قائم رہنے کی تائید کی گئی۔

### چند احادیث ملاحظہ ہوں :

«حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم جماعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھئے گئیں۔ جب ان کو اپنے کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے اس کو اپنے گان و تریق سے بہت کم پایا۔ وہ بولے کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ؟ اپنے قوت نام، گھنے پھنپھے گناہ اللہ تعالیٰ نے تجھش دیے ہیں۔ ان میں سے ایک حاضر بولے: «میں تورات پھر نمازیں پڑھا کروں گا» ۱۰ دوسرے حاضر ترکماہ: «میں برابر روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہ کروں گا» ۱۱ تیسرا حاضر نے فرمایا: «میں عورتوں سے ہٹپھی دوڑنہوں گا۔ کبھی شادی نہ کروں گا» ۱۲ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشرییت لائے۔ اپنے فرمایا: «تمہی لوگ تھے جو یہ یہ باتیں کر رہے تھے؟ خدا کی قسم: میں تم سے زیادہ خدا سے ڈر نے والا اور اس کے حدود کا پاس کرنے والا ہوں، لیکن روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ہنماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور شادی بیاہ بھی کرتا ہوں ترجیں نے میرے طریقے سے اختلاف اخْتیار کیا اس کا مجھ سے کوئی نقل ملت نہیں ۱۳

وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً بعض کام کیے، پھر اپنے نے ان کے باسے میں لوگوں کو رخصت دے دی، کچھ لوگوں نے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا کیا کچھ اچھا نہیں سیما، جب سنوں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو اپنے نے ایک خلیہ دیا، جس میں حدوثنا کے بعد فرمایا، بعض لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے کرنے سے اختراز کرتے ہیں جو میں خود کرتا ہوں، خدا کی قسم میں ان سے زیادہ اثر کو جانتے والا ہوں اور ان سے زیادہ اس کا در رکھتا ہوں ۱۴

(مشکوٰۃ بحراں و سلم)

”حضرت اس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تھے کہ دین کے معاملے میں اپنے اور پرستی نہ کرو کہ اللہ بھی تم پرستی کرے۔ ایک گروہ نے اپنے اور پرستی کی تراش نے بھی ان پرستی کی، یہ انہی کے بقا یا یہی جن کو تم گرد جوں اور خانقاہوں میں دیکھو رہے ہے ہو۔ پھر اپنے تھے یہ آیت ”کادت فرمائی: وَسَهْبَانِيَةٍ أَبْتَدَ عُوْهَا۔ (الایت)

(مشکوٰۃ بحوار ابو داؤد)

اس آخری حدیث کے پر الفاظ کہ: ”تم دین کے معاملے میں سختی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کھی تم پر سختی کرے“ ایک نہایت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو نیکی اور تقویٰ کے انہی پیاروں سے ناپنا چاہتا ہے جو اس نے خود منفرد کر دیے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ان پیاروں کو خفیہ شیراد سے اور خود اپنی ایجاد سے کچھ نئے پیجا نئے بنائے جو اس کے زخم میں خدا کے پیاروں سے بڑے ہوں تو پھر خدا بھی اس کو ان ہی پیاروں سے ناپے گا اور اگر وہ خود اپنے ہی مقرر کیے ہوئے پیاروں پر پورا نہیں اترے گا تو پھر بغیر کسی رعایت کے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کا دہ سخت ہو گا۔ اگر کسی شخص نے زہد، توکل، صبر، رضا اور محبت دیغیرہ کے ایسے معیارات بنائیے ہیں جو خدا اور رسول سے مفرز کیے ہوئے معیارات سے اور نئے ہیں تو وہ انہی معیارات سے جانچا جائے گا اور اگر ان پر پورا نہ اترے گا تو کھوٹا قرار پائے گا یہ مطلب ہے اس بات کا کہ ”انہوں نے اپنے اور پرستی کی تو اللہ نے بھی ان پرستی کی“ ।

لیکن ان نہایت واضح تاکیدات و تنبیہات کے باوجود مسلمانوں کے اندر بھی غلوت پسندی کی بیہماری بھیلی اور اس سے ہمارے فکر و عمل کے ہر گوشے میں مختلف قسم کی بدعینی داخل ہو گئیں۔ اس سے عقائد بھی تباہ ہوئے، احکام و قوانین بھی تباہ ہوئے اور عبادات و اخلاق بھی اس کی زد میں آئے۔

حقاً پر نظر پاسند میں یہ فتنہ بیشتر علم کلام کی راہ سے گھسا اور عبادات و اخلاق میں زیادہ تر تصورت کی راہ سے۔ اس طرح کی ساری پیروں پر تفصیل کے ساتھ بحث کرنے

کل بیان گنجائش نہیں ہے۔ ہم صرف مثال کے طور پر اشاعت کے جیسا، معزز کے نظر یہ اختیار معلمہ و معرفہ کے نظریات تعطیل و تجسم اور حضرات صوفیہ کے نظر یہ وحدت الوجود کی طرف اشاعت کر دیتے پر اتفاق کرتے ہیں۔ بحثات کے معاٹے میں خارج کی تنگ گیری اور مرچیہ کی بے قیدی اور اباحت بھی اسی فریب میں شمار کیے جاتے کے لائق ہے۔ امام احمد بن خبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلیق قرآن کے جس فتنہ کے سبب سے علم و سنت کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

اسی طرح فقہ میں بعض خود ساختہ اصول کو اساس بنا کر تجزیہ در تجزیہ کا جو سلسلہ شروع ہوا اور خیالی صورتیں فرض کر کے جو سائل پیدا کیے گئے، اس کے سبب سے ہماری فقہ میں بھی ہر باب کے تحت ایسی بے شمار جزویات داخل ہو گئیں جو زندگی کو بالکل تنگ کر دینے والی اور آدمی کے فکر و عمل کی آزادی کو بالکل سلب کر دیتے والی ہیں۔ جو پاتیں مشریعۃ نے ہر آدمی کی سیمہ لو جھپڑ پر چھپوڑی تھیں اور جن میں وہ اپنی عقل سے کام لئے کر ان کے مختلف پہلوں میں سے کسی پہلو کو بھی اختیار کر سکتا تھا ان کی ایک عاصی شکل معین کر دی گئی، اور اس کو اس درجہ اہمیت دے دی گئی کہ اس سے معمول انحراف خود دین سے انحراف سمجھا جائے لگا۔ اس غلو پسندی کا سب سے فرمادہ منظاہرہ ان مسائل میں ہوا ہے جو مختلف فقہی مذاہب میں کسی سبب سے مابہ الفزار عین گئے ہیں، یہ مسائل ہیں تو ہم اب بالکل جزوی اور فروعی نزعیت کے لیکن ہر مسلم کی کتابوں میں اتنی شدود مدد سے ان پر محبتی ہوئی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اصلی مسائل یہی ہیں اور انسان کی بحثات کا تمام ترا نصیبار اُنہی کے اختیار کرنے پا ان کرنے پر ہے۔ یہ عجیں ہر مسلم کے ہمیوں کی طرف سے تصنیفات و تالیفات میں بھی پورے زور و قوت کے ساتھ اٹھائی گئی ہیں اور اُنہی پر ایک ایک مسجد اور ایک ایک مدرسہ میں آئے دن مناظرہ کی مجلسیں بھی گرم ہوتی رہتی ہیں بلکہ بسا اوقات ان کے سبب سے مسلمانوں کے اندر جنگ و جدل، تکفیر و تغییر، گرفتاری و مقدمہ باری اور قتل و آتش زدنی تک تو تین سپتھی ہیں۔

غلو کے سبب سے عبادات و اخلاق میں زیادہ تر بدعتیں تصورت کی راہ سے آئیں

ہیں صوفیہ نے تذکرہ نفس، تقریب الہی اور ذکر و عبادت کی بعض ایسی صورتیں ایجاد کی ہیں جو کہ کتاب و محدث میں کوئی نشان نہیں ملتا ہے۔ پر مشقت ریاضتیں، چلہ کشی اور عملیات ان کے باہم ایسی شایعہ موجود ہیں جن کا دین میں بہتر ہونا تو درکنار، ان کا جواز بھی مشکل ہی سے ثابت کیا جاسکتا ہے بلکہ ان میں سے بعض کے تردید ہوتے ہیں کسی بُشہ کی گنجائش نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ خود ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ایک پاؤں سے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

مکن ہے کسی کو خیال ہو کہ اس طرح کی چیزیں صرف بدعت پسند صوفیوں ہی کے ہاں پانی جاتی ہیں جو صوفیہ کتاب و محدث پر عالی ہیں ان کے باہم اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ یہ خیال اگر صحیحت کے علاقوں ثابت ہو جائے تو مجھے اس سے نہایت خوشی ہو گی لیکن واقعیت ہے کہ ہمارے ہاں تقدیر کا جو حصہ پاکیزہ ہے بعض پیغمبر میں جیسی ایسی ملتی ہیں جن کے بدعت ہونے میں کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ شاید ہر شخص جانتا ہے کہ تقدیر شیخ کو محبت الہی کا ایک زینۃ سمجھا گیا ہے اور ہمارے صوفیانہ شریح پر میں اس کی جو ترجیح عوامی کی گئی ہے اس کی روشنی میں یہ کتاب و محدث کے صریح خلاف نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے قابل بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لاکری احترام ہونے میں کوئی شخص بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔

صوفیانہ شریح پر میں اس غلو کا سب سے زیادہ منظاہرہ اس حصے میں ہوا ہے جہاں یہ حضرات صبر، شکر، رہ، تناہی، توکل، اہمیت، عبودیت، خشیت اور محبت در خدا وغیرہ کی تحقیقیں بیان کرتے ہیں۔ یہ بھیں آپ تقدیر کی کسی قابلِ اعتماد کتاب میں پڑھیے، میں اس کے لیے رسائل فتنیہ یا قوت القبور یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کے پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ یہ کتاب میں صوفیانہ شریح پر میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اصلاح نفس کے نقطۂ نظر سے ان کتابوں کو نہ صرف پڑھنا بلکہ بار بار پڑھنے رہنا نہایت ضروری ہے، ان کتابوں میں جب آدمی ان میعادت کو پڑھتا ہے تو سپلی نظر میں ان کی دل کشی مسحو کر لیتی ہے لیکن جب آدمی ان کا تجربہ کرنے بیٹھتا ہے اور یہ چیز بھی اس کے پیش نظر مولیٰ ہے کہ ان کو حلی زندگی میں اپنا نا بھی ہے تو پھر وہ اکثر جگہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ باتیں اگرچہ بڑی ہی اہلی، بڑی ہی پاکیزہ اور بڑی ہی زریں ہیں لیکن ان کو اپنا نا حرف ان ہی بزرگوں کا

کام تھا جنہوں نے یہ لکھی ہیں یا جو گز رچکے ہیں۔ اس زمانے میں انسان کا یہ ظرف نہیں ہے کہ وہ ان مقامات تک پہنچ سکے۔ بلکہ بعض اوقات تو وہ یہ رائے قائم کرنے پر بھی مجبوہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے پیشہ ایضاً نہیں کر سکتا۔

چنانچہ علام ابن قیمؒ نے مدارج اساں لکھن میں سلوک کے مقامات پر بحث کرتے ہوئے جگہ جگہ یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اگر فلاں چیز کی حقیقت یہ ہے جو اربابِ تصورت پیش کرتے ہیں تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوتے کہ اس مقام کو صحابہؓ بلکہ انہیاء بھی حاصل نہ کر سکے۔

ابن قیمؒ کی مدارج اساں لکھن، جیسا کہ میں اور کہیں عرض کر چکا ہوں، ایک مشور صوفی شیخ ابوالسعید ہرودی کی کتاب ماذل اسائزین کی شرح اور اس پر ایک قسم کا تبصرہ ہے

شیخ ابوالسعید نے تو پہ، تو تکلیف، صبر، رضا و غیرہ کی شرح میں یہ طرق اخْتیار کیا ہے کہ ہر چیز کے تین درجے بیان کرتے ہیں (ہم اس کی بعض مثالیں اس کتاب کی پہلی فصلوں میں نقل کر آئے ہیں) پہلا درجہ عوام کا، دوسرا درجہ خواص کا، تیسرا درجہ اخص اخواص یا بالفاظ و مگر کاملین و عارفین کا، عموماً پہلے درجے ہی کا معیار وہ ایسا بلند قائم کرتے ہیں کہ ادمی یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ قرآن اُدمی کو جہاں تک لے جانا چاہتا ہے وہ تو بس ہمیں تک ہے اور اگر اس میں کسی ہپلو سے کوئی کسر ہے تو دوسرے میں تو وہ بہر حال پوری ہو جاتی ہے۔

رہائیسرا درجہ تودہ صاف ایک ماقوٰت پیشریت درجہ معلوم ہوتا ہے جو شیخ کے نزدیک تو کاملین کا درجہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کو معیار کامل مان کر اس کا تجزیہ کرے تو عمرما اس کے متعلق وہ یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس درجے یا اس مقام کا اگر کوئی وجود ہے تو وہ صرف شیخ کے ذہن میں ہے، نہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی اشارہ نہ ہے اور نہ تفہیل اور قیاس کی وجہ گرفت میں آتا ہے۔

یہ صورت حال اُدمی کو سخت جیرانی میں ڈال دیتی ہے اگر وہ یہ رائے کہ یہ ایک مقام ہے تو سی لیکن کتاب و سنت میں اس کا بیان اس وجہ سے نہیں ہو ایسے کہ وہ صرف متوسط درجہ کے لوگوں ہی کی تعلیم کے لیے ہیں جیسا کہ صوفیہ کے ایک گروہ کا خیال ہے۔ تو اس کی ایسے شخص کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا جو کتاب و سنت اور انہیاں نے کرام ہی کو معیار کامل مانتا

ہے۔ اگر وہ خیال کرے کہ اس درجہ کا بیان تو کتاب و مفت میں ہوا ہے لیکن ملکی ظہر بطن " کے صوفیانہ نظر پر کے مطابق یہ حقائق کتاب و مفت کے پر دوں میں اس طرح پھیپھی ہو کے ہیں کہ ان تک صرف خاص خاص لوگ ہی پہنچ سکے ہیں۔ قرآن کے الفاظ سے ان تک رسائی نہیں حاصل کی جاسکتی تو اس سے بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا کیونکہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نظر پر اور بالظیست کے درمیان فرق کیا ہے؟ اگر وہ یہ فرض کرے کہ یہ معیارات بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے تو انہیاں کے کام ہی کے ہیں لیکن امت میں ان کے منتقل ہوئے اور پھیلیت کے ذریعے سیفیت نہیں بلکہ خواص کے سیفیت ہیں تو یہ پھر اور بھی متوضش کرتی ہے کیونکہ یہ پھر پورے نظام دین ہی کو ڈھادیتی ہے۔ اگر وہ مانے کہ ان کے معلوم کرنے کا ذریعہ دھی نہیں بلکہ کشف ہے تو اس سے اور بھی ابھیں بڑھتی ہے، کیوں کہ کسی کشف کو دھی کی کسوٹی پر جانچنے بغیر بجا نہ خود سند مان لینا اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اپنے دین و ایمان کے معاملے میں اتنا بپے پرواہ کر وہ ان کو ہر خواب اور ہر وسوسہ پر فرمان کر سکتا ہو۔

اگر ان تمام باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں مانی جاسکتی تو آخر اس کے سوا ایک چارہ کار ہے کہ آدمی یہ مانے کہ جس مقام کی تشریح و توضیح میں کتاب و مفت کے قائم کردہ معیارات سے تجاوز کیا گیا ہے یہ محض علوکا نمی ہے بلکہ علام ابن قیمؓ نے تنقید کر کے دکھایا ہے کہ شیخ ابوسعیل کے قائم کردہ معیارات کتاب و مفت کے معیارات سے اونچے ہیں اور چون کہ صحیح انسانی فطرت کے مطابق معیارات وہی ہو سکتے ہیں جو کتاب و مفت میں قائم کیے گئے ہیں اس وجہ سے لازماً یہ معیارات غلط ہیں۔

اس علوکے سبب سے صوفیائے کرام کے ان معیارات سے یا تو آدمی پر ما یوسی طاری ہو جاتی ہے اور وہ ان کو اپنانے کی تہذیت ہی نہیں کرتا یا اگر کرتا ہے تو علمی ہلپر سے وہ تنفس اور بالظیست کا رنگ اختیار کرتا ہے اور عملی ہلپر سے چوگ اور رہنمائیت کا، علم و معرفت کی بھشت میں ابوسعیل ہر دی کی کتاب سے چند اقتباسات میں اور پیش کرایا ہوں، وہ میرے خیال کی تائید کے لیے کافی ہیں۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ تو تصریف کے صرف ایک خاص سکول کی ترجیح ہوئی۔ دوسرے صوفیاء کرام کا طرز فکر اس سے مختلف

ہے تو پیری جانب سے اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ جن صوفیاں نے کرام کا ظریف اس سے مختلف ہے، جو کتاب مستحب ہی کو معیارِ کامل مانتے ہیں، مجھے ان پر اعتراض نہیں ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی کتاب منتخب کیجیے، جس میں ہر مختبِ خیال کے صوفیوں کی ترجیانی کی گئی ہو اور اس کو اس نقطۂ نظر سے پڑھیے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ پھر دیکھیے کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے۔ پیرے خیال میں اس مقصد کے لیے رسالہ قیشر یہ ایک موزوں کتاب ہے، اس میں ہر باب کے تحت تقریباً اکثر اکابرِ تصنیف کے اقوال و افکار موجود ہیں، اس کو تنقید کے ساتھ پڑھیے تو اس میں بھی قدم قدم پر وہ بے اعتدالی موجود ہے گی، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ میں اس کتاب سے بعض مشائیں ملٹیش کر کے اپنے نقطۂ نظر کو مدل طور پر واضح کر سکتا ہوں۔ لیکن چونکہ آگے یہ ساری بحثیں تحریکیہ عمل اور تحریکیہ تعلقات و معاملات کے ابواب میں تفصیل کے ساتھ اور ہی ہیں اس وجہ سے یہاں یہی راستہ میں ناظرین کو روکنا نہیں چاہتا۔

## خواہشاتِ نفس کی پروپری

بعد عدت کا دوسرا سبب خواہشاتِ نفس کی پروپری ہے۔ انسان کے اندر یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ بسا اوقات وہ ایک نظر یہ یا ایک رو یہ اختیال اتواس وجد سے کرتا ہے کہ وہ اس کی خواہشاتِ نفس کے مطابق ہوتا ہے، اس سے اس کے کسی مخفی منصوبے کی تحلیل ہو رہی ہوتی ہے، اس سے کسی ایسے شخص کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے جس کی خوشنودی اسے اپنے دنیوی اغراض کے نقطۂ نظر سے مطلوب ہوتی ہے، اس سے اس کے وہ ارماں پورے ہوتے ہیں جو نفس کی اکس ہست سے اس کے اندر ہر وقت گدگد ریاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی جڑت و ہمت نہیں رکھتا کہ ان پیزروں کی تحلیل کے لیے وہ صاف صاف نفس پرستی اور دیوار پستی کے نام سے میدان میں اُترے بکھرے وہ چاہتا ہے کہ اپنی اس دنیاوادی اور نفس پرستی کے لیے دینداری کی کوئی آڑ بھی تلاش کرے تاکہ رند کارند بھی رہ سکے اور بالآخر سے جنت نہ جانے پائے اس خواہش کے تحت وہ مختلف قسم کے نظریات بناتا ہے اور ان کو مذہب کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر گھسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ان سے اپنی

خواہشون کے بند دروازوں کے کھوئنے میں کھلید کا کام پیتا ہے جو اہمیت نفس کے تجھت  
قتوں میں لکھتا ہے اور ان کو کتاب دستت کی طرف مسوب کرتا ہے بعض سفلی جذبات کی  
تکمیل کے لیے بہت سے کام کرتا ہے اور ان کو معرفتِ الہی اور تقریبِ الہی اسلام  
کا ذریعہ بناتا ہے۔

بیووو قے جب چاہا کہ اپنی نفس پرستیوں کے لیے کوئی شرعی سند جواز پیدا کریں تو انہوں  
نے یہ نظریہ پایا کہ تمہری کو حضرتِ اشعیلؑ اور حضرتِ اسحقؑ کی اولاد اور خدا کے محبوب اور  
پیغمبر ہیں، اس وجہ سے ہم خواہ پچھلی کر گز ریں، ہمارے لیے داعیِ عذابِ دوسری نہیں ہے  
ادل تو سہمِ دوسری میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے لیکن اگر کوئی داعیَ بھی گئے تو خپڑہ دلوں سے  
زیادہ کے لیے نہیں۔ اپنے اس نظریہ کو، جو محض نفس پرستی کی تحریک سے پیدا ہوا تھا،  
انہوں نے اپنے دین میں گھسایا تو ظاہر ہے کہ ان کی ساری شریعت ان کی خواہشون  
کے ساتھے میں ڈھن گئی، اس کے اندر جو حقائق اور جو درجے اور مرتبے ان کے لیے بیان  
ہوتے تھے ان کا تودہ اپنے آپ کو پورا پورا موروثی حق دار سمجھتے تھے لیکن جو ذمہ داریاں اس  
میں بیان ہوئی تھیں، ان کی مرے سے ان کو کوئی پرواہی نہیں رکھتی تھی، وہ اپنے مذکورہ  
نظریہ کی بدولت جزا اور سزا اور دوسری کی فکر سے بالکل فارغِ ایال ہو گئے تھے، اس وجہ  
سے قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی خواہشون کا لیک  
مجموعہ سمجھو رکھا ہے جس میں وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ان کے نفس کو پسند ہیں۔  
اسی طرح جب ان کے اندر سود کا رواج ہوا تو انہوں نے یہ نظریہ پیدا کیا کہ سود  
اگر حرام ہے تو خدا اپنی قوم کے افراد یعنی بنی اسرائیل سے لینا حرام ہے زکرِ دوسری کافر  
قوموں سے، اس نظریہ کو انہوں نے اپنے دین میں گھسا یا اور کچھراں راہ سے انہوں نے  
اپنے سارے سودی کار و بار کو جائز کر لیا۔

اسی طرح عیسائیوں میں پال نے جس دوسریوں میں عیسائیت کو مرفوضہ و نقبول  
بنانا چاہا تو اُس نے سود اور شراب کو جائز قرار دے دیا اور اس کے لیے تادیل یہ کہ  
سود اور شراب کی حرمت اگر دار ہے تو توریت میں وار ہے زکرِ انجیل میں، اس وجہ

سے ہنی اسرائیل کے افراد کے لیے تو یہ چیزیں پرے شک ناجائز ہیں لیکن دوسری قوموں کے جو لوگ مسیحیت قبول کریں، ان کے لیے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مسلمانوں پر اتباعِ ہوا کے تحفظ پر عقول کا حملہ مختلف طرف سے ہوا۔ سب سے زیادہ یہ خیس باطنیہ نے پیدا کی، انہوں نے شریعت کی نام قیود سے اپنے آپ کو ازاد کر لینے اور خواہشاتِ نفس کی پوری پوری چھوٹ دے دیئے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شریعت کی نام اصطلاحات کا مفہوم ہی بیکسر بدل کے رکھ دیا ان کی تعریف کے سخاوط سے نہ بھی بھی رہا، نہ قرآن اور نہ روزہ رہا اور نہ نماز، نہ ہر چیز کے ظاہر و باطن کو انہوں نے اس طرح منع کر دیا کہ شریعت کا پورا حلیہ ہی بگوٹ کے رہ گیا۔ مثلاً بھی اس ذات کا نام ہے جیس پر قوتِ قدسیہ کا فیضان ہوا، معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف لوٹ آتا ہے۔

جنابت سے مراد افتخار نے راز ہے، غسل سے مراد تجدید پیدا عہد ہے۔ زنا سے مراد علم پاٹن کے نظر فرہ کو کسی ایسی ہستی کی طرف منتقل کرنا ہے جو عہد میں شرکیہ نہ ہو، طہارت سے مراد مذہب باطنیہ کے سوا ہر مذہب سے برآت ہے، صلوٰۃ سے مراد امام وقت کی طرف دعوت زکوٰۃ سے مراد ذمی صلاحیت لوگوں میں علم کی اشاعت ہے۔ فرقہ اسماعیلیہ اور بابیوں پہاڑیوں کا سارا نظام اسی طرح کے عجائب و غرائب پر محظرا ہے۔ شیعوں کے ہاں متعدد اور اس طرح کی بعض دوسری چیزوں اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ قادیا تیوں نے بھی باطنیہ سے بہت کچھ لیا ہے۔

لیکن اس زمانہ میں باطنیہ کے تحقیقی دارست منکرین حدیث ہیں۔ انہوں نے سنت کا الکار کرنے کے بعد تمام شرعی اصطلاحات، روزہ، نماز، حج، قربانی، جنت، دوزخ اور آخرت وغیرہ کی جوتا و علیم کرنی شروع کی ہیں، ان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے مقصد اور باطنیہ کے مقصد پر، ان کے طریقہ تاویل اور باطنیہ کے طریقہ تاویل میں سرو فرق نہیں ہے۔ آپ باطنیہ کے نظریات و عقاید اور ان کے نظریات و عقاید، ان کی تاویلیں اور باطنیہ کی تاویلیں آئندے سامنے رکھ لیے تو یہ حقیقت آپ پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں ایک ہی اب وجود کی اولاد اور ایک ہی شجرۃ الْ قوم کے برگ دباریں۔

اسی اتباع ہوا کا ایک مظہر ہمارے بعض اہل علم کا یہ نظریہ ہے ہے کہ جہاں تک سماں تو  
کا تعلق ہے ان کے جرموں اور گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے مصائب و شدائد کے  
ذریعہ سے پیدا کر دیتا ہے، دوسرے کی سزا ان کے لیے نہیں ہے، نیز بے علم اور کم عقل عوام کے  
ساتھ آخرت میں وہ معاملہ ہو گا جو کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو جزا اور سزا کی اس  
کسوٹی پر نہیں پر سچا جائیگا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہوا ہے

یہ نظریہ یہودیوں کے اس نظریہ سے بالکل  
مشابہ ہے جس کا ذکر اور پر ہوا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم کو دوسرے کی آگ پندرہوں سے زیادہ  
نہیں چھپوئے گی اور اس نظریہ نے ان کو شریعت کی حدود توڑنے کے لیے بالکل بے خوف  
و بے باک بنایا تھا، اسی طرح ہمارے ان نے متكلیمین نے بھی یہ نظریات عوام کو ان کی سخیری  
اور شریعت سے بے پرواہی پر مطمئن رکھنے کے لیے ایجاد فرمایا ہے تاکہ لوگ جس غلط روشن  
پڑیں، اس پر مجھے رہنے کے لیے ان کو ایک عقیدہ کا سہارا فراہم کر دیا جائے اور آخرت  
کی پاز پوس کی جو خلش بعض اوقات ستاقی رہتی ہے اس سے کم از کم جیلہ جو طبیعتوں کو بالکل  
ہی رہائی مل جائے۔

شخصت اور غنیمت کا فلسفہ بھی کم از کم اپنی موجود صورت میں، اتباع ہوا کا ایک  
منظہر ہے، دین کے اکثر مطالبات کے حواب میں آج بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے  
کہ ان مطالبات کے دین کے مطالبات ہونے سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن حالات و  
صالح کے تحت اسلام نے آخر شخصت سے بھی تو فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے،  
موجودہ زمانہ پر نکہ ان باتیں کے لیے سازگار نہیں ہے، اس وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے  
اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔

حلقماں کے تصریف سے والبستہ لوگوں کی جو بدعتیں اتباع ہوا کے تحت آتی ہیں وہ یوں تو  
ہست سی ہیں لیکن دو چیزیں یہست نمایاں ہیں۔ ایک تو ساز کے ساتھ غفر کی بدعت، دوسری  
یہ بدعت کہ بہت سے لوگ اس دوسرا میں بستلا ہو کر وہ خدا رسیدہ ہو چکے ہیں، اپنے آپ  
کو شریعت کی تمام پابندیوں اور ذمہ داریوں سے یک قلم آزاد کر لیتے ہیں، خانقاہوں اور

مزارات پر اور عرسوں میں بوجو صبح منکر بائیں ہوتی ہیں ان کا حوالہ میں اس وجہ سے نہیں دیتا کہ ان چیزوں کی ذمہ داری نعمتوں کے حامیوں کی طرف سے سو ماخاوم پڑال دی جاتی ہے میکن مذکروہ دونوں چیزوں کے متعلق تو یہ عذر کسی طرح نہیں پیش کیا جاسکتا۔

فقہی طرز کی جو پیدائشیں آج مغض ہوا پستی کی تحریک سے سامنے آ رہی ہیں ان کا ایک بہترین نمونہ عامل کیشیں کی وہ روپرٹ ہے جو مسلمانوں کے ازدواجی مسائل سے متعلق حکومت پاکستان کے ایک مقرر کردہ کیشیں نے پیش کی ہے۔ اس روپرٹ کے مبنی نے دعویٰ تو قدم قدم پر یہ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے جو سفارشات پیش کی ہیں وہ تمام تر کتاب و سنت پر مبنی ہیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس میں بیشتر مغربی ملکوں کے ازدواجی قوانین کی نقاوی گئی ہے اور ان کو شریعت کے مطابق ثابت کرنے کے لیے شرعی احکام کو پوری میاکی کے لئے تواریخ ڈالا گیا ہے۔

**عَدَاج** | پدعت کے اباب واضح ہو جانے کے بعد اس کا علاج خود بخود سامنے آگیا وہ یہ کہ ادمی پوری مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب اور اس کے

رسول ﷺ کی سنت پر قائم رہئے اور وہ سو فوں کو بھی قائم رکھنے کا اہتمام والنزام کرے جس چیز کی جو حد کتاب و سنت میں قائم کر دی گئی ہے اس میں نہ کوئی زیادتی کرے نہ کوئی کمی جس کا جو مرتبہ شریعت میں تعمیق کر دیا گیا ہے اس سے اس کا مرتبہ نہ اونچا کرنے کی کوشش کرے نہ نیچا، جو چیز دین میں جتنی مقدار میں مطلوب ہے اس میں مغض اپنے جوی سے نہ کوئی اضافہ کرے نہ کوئی تخفیف۔ اسی طرح اپنی خواہشوں میں سے کسی خواہش کو شریعت کا جامہ پہنانے کی کوشش نہ کرے، اپنے من حضرت نظریات کو، دین میں نہ گھسانے، اپنے ذاتی میلانات و رحمانات کو قرآن و حدیث کے نام سے پیش کرنے کا خواہش مند نہ بنے۔ یہ کام کرنے میں آسان ہے میکن کرنے میں بڑا مشکل ہے۔ اس زمانہ میں حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ شریعت نے جو چیزوں کو منکر قرار دیا ہے وہ سو سائیں میں معروف بن چکی ہیں اور جو چیزوں کو شریعت نے معروف بتایا ہے وہ منکر قرار نہیں دی گئی ہیں۔ اس فاوض حال کے بعد سے اگر کوئی شخص صحیح سنت پر قائم رہنا چاہے تو وہ سو سائیں میں بالکل نجتوں کے رہ جاتا ہے، ہر جگہ اس کا

مذاق اٹا دیا جاتا ہے، ہر مجلس میں وہ خود بھی اپنے آپ کو اجنبی اور بے گانہ محسوس کرتا ہے اور دوسرے بھی اس کو اجنبی اور بے گانہ محسوس کرتے ہیں اور اگر اس سے ایک قدم آگئے بڑھ کر اصلاح کی بھی کوشش کرے تو یہ بے گانگی فرو اخلاف اور کشمکش کی صورت اختیار کر لیتی ہے پھر ہر جگہ اس کے خلاف ایک محاذی چنگ قائم ہو جاتا ہے، یہاں تھے اور بے گانے دونوں ہی اس سے ابھیتھے اور راستے چل گئے ہیں، عذر یا اور دوست دشمنین جانتے ہیں اور صرف وہی لوگ اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں جو یا تو پہلے سے اس کے ہم خیال و ہم سلک ہوں یا اس کی دعوت دلیلیخ سے متاثر ہو کر اس کے ہم خیال بن چکے ہیں۔ اس صورتِ حال کا مقابلہ کرنا معمولی عزم و تہمت کے آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دوسروں کی ناراہیگیاں مولے سکتے ہیں جو حق کے لیے رشتہوں اور قرابتوں سے بے پرواہ رکھتے ہوں، جو اللہ کے لیے ہر طرح کا نقشان گوارا کر سکتے ہوں اور جو بدیعت کے مقابلے میں سنت کی حمایت و نصرت کے لیے پہاڑ کی طرح مفہوم طریقہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔

اس راہ میں آدمی کو سچے زیادہ قسمی راہنمائی حضرت انبیاء و علیہم السلام اور حضرات صحابہؓ کی زندگیوں کے عملی نمونوں سے ملتی ہے، اگر آدمی انبیاء اور صحابہؓ کے حالات کا پر ابر مطالعہ کرتا رہے تو بعد عماست کے لڑتے کے لیے اس کے اندر پر ابر حرارت قائم رہتی ہے۔ اس اشت میں سنت کے اہتمام اور بدیعت کی مخالفت کے پہلو سے صحابہؓ کے بعد پیر سے نزدیک رسے اور پھا در پی حضرت احمد بن خیل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی زندگی سراپا سنت ہے اور ان کا ایک ایک قول و فعل بدیعت کے خلاف کھلکھلایقاً و قوت بھیج پ آدمی ان کے حالات کا مطالعہ کرتا رہے تو سنت کی حمایت اور بدیعت کی مخالفت کے چند رہے سے اس کا دل رشار ہو جاتا ہے جو لوگ اپنے اندر اس چند رہ کو زندہ رکھنا چاہیں، میں ان کو حضرت امام احمد بن خیل رحمۃ اللہ علیہ کے حالاتِ زندگی کا پار پار مطالعہ کرتے رہنے کا مشورہ دوں گا۔

تکہر علی

## تذکیرہ عمل

علم کے تذکیرے کے بعد عمل کے تذکیرے کی باری آتی ہے جو عمل کے تذکرہ سے مطلب یہ ہے کہ عمل بجا ٹھوڑا بھی ٹھیک ہو اور اس کا حرف بھی ٹھیک ہو، حرف کو کسی عمل کی پاکیزگی میں سب سے زیادہ دخل ہوا کرتا ہے۔ بسا اوقات ایک عمل ظاہر میں ڈرا مقصودانہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت کیسے تو عدم ہو گا کہ اس کا مخترک نہایت مکروہ، اور گھناؤ ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات ایک ڈاکٹر ایک مردیں کا کوئی عضو کاٹ کر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیتا ہے بظاہر یہ فعل نہایت خالا نہ ہے لیکن اس کے اس فعل کو کوئی شخص بھی پڑا نہیں کہتا کیونکہ اس نے یہ کام مردیں کے یقینیہ احشاء کو عضوفاً سد کے زہر سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ کارپوریشن ایک بنی بناۓ عمارت کو مندم کر دیتی ہے۔ بظاہر یہ ایک غلط اور نقصان رسان کام ہوتا ہے لیکن اس کے اس اندام پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ اس مکان کے انہدام میں ایک پوسے شہر کی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اس کے بعد میں ایک شخص نیم خانہ قائم کرتا ہے، مسجد تعمیر کرنا ہے، مدرسے بنوانا ہے، ظاہر میں یہ سائے کام دین کی اور قوم کی خدمت کے کام ہیں لیکن ثابت ہو جائے کہ یہ سارے کام محض وین بازی اور زرائدی کے لیے گئے ہیں تو کسی شخص کی نظر میں بھی ان کا مول کی

کوئی وقعت نہیں ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اعمال کے بارہ میں نیت کو بڑی اہمیت دی ہے کسی شخص کا نیک سے نیک عمل بھی خدا کے ہاں کوئی وقعت نہیں پاتا اگر وہ نیت کی بیکی کے ساتھ انعام نہ دیا گیا ہو، اور ایک آدمی اپنے بُرے سے بُرے عمل کے موافقہ سے بھی نجاح جائے کہ اگر وہ عمل اس سے بلا ارادہ دنیت کے صادر ہو گیا ہو یا نیت تو اچھی رہی ہو لیکن کسی غلطی کے بعد سے فعل غلط صادر ہو گیا ہو۔

انسان کے کسی قول فعل مें تعلق نیت اور محرك کا سوال ایک لازمی نتیجہ ہے اس کے ایک ذی ارادہ اور ذی اختیار صفتی ہونے کا۔ انسان کوئی پتھر، کوئی درخت یا کوئی جانور نہیں ہے کہ اس کی صرف ظاہری حرکتوں ہی کو دیکھا جائے۔ ان حرکتوں کے پہچھے چوڑھیات ہیں، ان کا کوئی نہیں نہ پایا جائے اگر حرکات کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایک انسان اور ایک جیوان میں فرق ہی کیا رہا؟

یہی وجہ ہے کہ اسلام میں انسان کے صرف انہی اعمال کی اہمیت ہے جو ارادہ اور نیت کے تحت صادر ہوئے ہوں جو اعمال جبر و اکراه یا سویا بلکہ کسی قصد و ارادہ کے صادر ہو جاتے ہیں، اسلام ان کی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہی اعمال ہیں جن کی خدا کے ہاں قبولیت یا عدم قبولیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی نے کسی کام کو نیک نیت اور نیک محرك کے تحت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرمائے گا اور اگر اس نے کسی کام کو بُرے محرك کے تحت کیا ہے تو خواہ وہ عمل بظاہر کتنا ہی اچھا ہو لیکن وہ اصل محرك کے کھاتے ہی مل محسوس ہو گا۔ یہی حقیقت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں بیان ہوئی ہے۔

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اعمال کا انحصار نیت پر ہے، ہر آدمی کے سامنے اس کی نیت ہی ایک جس نے اپنی ہجرت اللہ اور رسولؐ کے لیے کی تو اس کی ہجرت فی الواقع اللہ اور رسولؐ کے لیے ہے لیکن جس کی ہجرت کسی غرض دینوی کے لیے ہے جس کو وہ

حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی عورت کے لیے ہے، جب سے وہ شادی کا طالب ہے تو اس کی ہجرت اسی پیروز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے قبیل الواقع بھر کی ہے۔  
(ریاض الصاحبین، باب الاخلاص)

اسلام میں اس نیت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی ایک براں کا ارتکاب نہیں کرتا لیکن خدا کے ہاں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے کیوں کہ وہ اس کے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی طرح بسا اوقات وہ ایک نیکی کے کرنے کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے لیکن وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہے کیوں کہ وہ اس کے کرنے کی دل سے آرزو رکھتا تھا لیکن کسی رکاوٹ کے سبب سے وہ اس آرزو کو پورانہ کر سکا۔ دو حدیثیں ملاحظہ ہوں جن سے ہمارے اس دعویٰ کا ثبوت ملتا ہے۔

”ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تکواریں سوتتے کر ایک دوسرے پر چلے اور ہو جائیں تو قائل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے عرض کی کہ جو فاقیل ہے اس کا جہنم میں جانا تو سمجھو میں آتا ہے یا رسول اللہؐ لیکن یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟“ اپنے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ساختہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا“

(ریاض الصاحبین بحوالہ صحیفہ صلی -ہـ)

”دوسری حدیث ہوئیک ارادہ سے متعلق ہے وہ ملاحظہ ہو ہے  
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساختہ غزوہ تبوك سے لوٹ رہے تھے کہ ایک موقع پر اپنے نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے چھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا حال یہ رہا ہے کہ ہم تھے جو گھانی بھی پار کی اور جسیں دادی سے بھی ہم گزرے ہیں اس میں وہ ہمارے ساتھ رہے ہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی عذر کے سبب سے مار کرنا پڑا“

(ریاض الصشت صحیفہ)

(بحوالہ بخاری)

**عمل کے محرکات** انتیت اور حرک کی اس اہمیت کے واضح ہو جانے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنا اچھی طرح نفسیاتی تجزیہ کے پر معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر وہ کیا کیا محرکات ہیں، جو ہمیں کسی عمل پر پاساتے ہیں، ہمارے نزدیکی محرکات ظاہر میں تو بہت نظر آتے ہیں لیکن اگر گھری نظر سے ان کا جائزہ لیا جائے تو ان سب کو پائیج بنیادی محرکات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہیں :

ضروریات ، خواہشات ، شہوات ، جذبات ، نفس ناظمہ - یا روح ملکوتی ۔

مناسب ہر کا کہ اختصار کے ساتھ ان محرکات کا ہم تعارف بھی کر دیں ۔

ضروریات سے ہماری مراد زندگی کی وہ ابتدائی اور بنیادی ضروریات ہیں جن کے فراہم ہوتے ہی پر ہماری ذات کا بقایا منحصر ہے۔ یہ ضروریات انسان کو بہت سے کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلاً اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے۔ پس لگتی ہے تو پانی پتا ہے۔ ان ڈھانکنے کے لیے پاس پہنچتا ہے۔ خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے پناہ لگا ہیں تلاش کرتا ہے اور اسلحہ تیار کرتا ہے۔ موسم کی ناہواریوں اور نامساعدتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فدا کے ذخیرے جمع کرتا ہے۔ سردی، گرمی اور برسات کی تخلیقوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مکان بناتا ہے۔

**خواہشات** کی منزل ضروریات سے ایک قدم اگر ہے مثلاً کھانے پینے اور پینے کی وجہ تک اصل ضرورت کا تعلق ہے وہ تو بہت معمولی غذا اور نہایت موڑے جبوٹے اور لکھڑے کپڑوں سے بھی پری ہو سکتی ہے لیکن انسان کی فطرت کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ وہ صرف کسی اس طرح پڑھ پال لیتا ہی نہیں چاہتا بلکہ قسم قسم کے لذیذ کھاؤں اور لذیذ مشروبات کی خواہیں بھی رکھتا ہے۔ وہ صرف تن ڈھانکنے ہی پر کھدیت نہیں کرتا بلکہ آرائش و زیپائش کا ذوق و شرق بھی رکھتا ہے، وہ صرف گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ایک چھپتہ ہی نہیں چاہتا ہے بلکہ آرائش و پیرائش کو ٹھیک اور بنگلوں کی خواہیں

بھی رکھتا ہے۔ بھی خواہشیں ہیں جو انسان کو ہزاروں لاکھوں کام کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، بلکہ سچ پوچھیے تو اس دنیا کی ساری ہمپل انسان کی ان خواہشوں ہی کی پیدا کردہ ہے۔ تعلیم و تہذیب، اور تمند و ترقی کے ناموں سے آج جو کچھ ہورتا ہے، یہ سب انہی خواہشوں کے جلوے اور کرنشے ہیں۔ آرٹ اور صنعت و حرفت کے ہو مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں سب کی تندہ ہیں بھی خواہشیں کام کر رہی ہیں۔ بھی خواہشیں ہیں جو ایک خاص قسم کے نظام اخلاق کو وجود میں لاتی ہیں جس میں سب سے زیادہ نایاب جگہ عزت و فخرت کی خواہش، بتائے و دام کی لازم تفوق اور خلیلہ کی کش مکش اور مقابله اور تناقض کی کشکش کو حاصل ہوتی ہے۔

نشہوں کو اگرچہ خواہشات کے عنوان کے تحت بھی لایا جاسکتا تھا لیکن ہم نے اس کا ذکر ایک مستقل محکم کی چیزیت سے اس وجہ سے کرنا مناسب خیال کیا کہ اس میں اصل خواہش جنس کی ہوتی ہے۔ اس مرکزی خواہش سے دوسری خواہشیں جو ابھرتی ہیں ان سب کی چیزیت اسی خواہش کے نوازم و توابع کی ہوتی ہے۔ اگرچہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتانا تو مشکل ہے کہ زندگی کے مختلف میدانوں میں انسان کے وہ کیا کیا اقدامات ہیں جو محض اس کی شہادت کے مظاہر ہیں، یعنی اس میں بہت کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اس بدیہی حقیقت سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ آج آرٹ میں، صنعت میں، ادب میں اور معاشرت و تمند میں جو نمایاں مقام اس محکم کو حاصل ہے، شاید ہی کسی دوسرے محکم کو حاصل ہو جذبات سے ہماری مراد محبت و ہمدردی، نظرت و عداوت، رشک و حسد، غیرت و چیخت، غصہ و انتقام وغیرہ کے جذبات ہیں۔ یہ جذبات نفس انسانی کے اندر بڑی گھری جڑیں رکھتے ہیں اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو یہ سے زور و قوت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کو کسی عمل پر اچھا نہیں میں ان جذبات کو نہایت موثر عامل کی چیزیت حاصل ہے انسان کے بہت سے بھلے اور بڑے کام اسی جذبات کے مظاہر ہیں۔ ان کی مثال بھاپ کی ہے۔ بھاپ کو اگر صحیح طور پر کنٹروں میں رکھا جائے تو اس سے بڑے بڑے کام یہے جا سکتے ہیں۔ اگر کنٹروں میں نہ رکھا جاسکے تو اس سے بہت سے خطرات بھی ظہور میں آ سکتے ہیں۔ جذبات بھی ادمی کے اندر بڑی طاقت ہیں۔ بشر طیکہ انسان ان پر قادر

رکھے کے، اگر ان کو قابو نہ رکھ سکے تو پھر ان سے زیادہ ممکن بھی کوئی اور پیغام نہیں۔

**نفسنا طبقہ** یا روح لکوتی ہے ہماری صراحتہ نورینہ دانی د (DIVINESPAK) ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے، اور جس کو قرآن مجید میں نَفْعَتُ فِيْهِ مِنْ رَوْحِ رُّحْمَةٍ (روحِ رحمۃ) اور انسان میں میں نے اپنی روح پھونکی) کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی نورینہ دانی سے شرف ہونے کے بعد انسان فرشتوں کا مسجد بننا۔ یہی پیغمبر ہے جس سے اس کو خیر اور شر کی معرفت حاصل ہوئی اور اس میں اعلیٰ اقدار کے احترام کا چذبہ پیدا ہوا۔ یہ نور پھونکہ انسان کو زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ملائے ہے، اس وجہ سے اس کی لپک ہمیشہ قدر اکی طرف رہتی ہے اور اگر نفس کے سفلی تقاضوں کے جوابات بہت سخت نہ ہوں تو یہ ہمیشہ انسان کو اپنے کی طرف اٹھاتا ہے۔ انسان کے تمام اعلیٰ اوصاف کا، جو اس کو حیوانات سے ممتاز کرتے ہیں، سر پر شری ہی ہے۔ اسی نور کی وجہ سے انسان عقل کی راہنمائی سے نوازا گیا اور وحی والہام کی ہدایت کے لائق بھی ہے۔ یہ ایک بلکہ محکم ہے جو انسان کر اعلیٰ کاموں پر اچھا تر ہے اور جب انسان کوئی اعلیٰ کام انجام دیتا ہے تو اس پر اس کی تحسین کرتا اور اس کا حوصلہ پڑھاتا ہے اور اگر کوئی جو اکام کر گزرتا ہے تو اس پر اس کو ملامت بھی کرتا ہے قرآن مجید نے اسی کو نفس تو اس سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ قیامتہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم سمجھائی ہے اور اس کو ایک روزِ حزا و سزا کے ثبوت میں ایک نہایت اہم افسی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا ہے، جو لوگ ڈاروں کے تادہ پرستانتہ نظر پر ارتقاء کے اندر ہے بہرے معتقد ہیں، وہ انسان کے اس باطنی نور سے بالکل بے خبر ہیں اور یہی بے خبری ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے بینت سے میلانات کی یا تو سرے سے کوئی توجیہ کر سہی نہیں پاتے ایسا کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں یہ لوگ ارتقاء کی بعض گمراہ کر دیں کی تلاش میں حیران و مرگر دیں ہیں حالانکہ اصل کڑی جس کی انہیں حسجو کرنی چاہیے یہ ہے جس کی نشان دہی قرآن کر رہا ہے۔

**ذکورہ حرکات کی حیثیت** یہی حرکات ہیں جو انسان کی تمام عمل سرگرمیوں کا نبع مذکورہ حرکات کی حیثیت ہیں۔ اگر انسان کے اعمال کا گمراہ نظر سے جائز یا جائے تو اس کا ہر عمل اپنی حرکات میں سے کسی نہ کسی محکم سے وابستہ نہ گا۔ ان حرکات کی اہمیت تسلیم کرنے کے باوجود اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا انسان کے بیے

یہ عقلاً و اخلاقاً ناس سب سے کوہا اپنے آپ کو ان محکمات بخش حوالہ کرنے سے اور یہ اس کو جس جس کوچہ اور جس جس وادی میں یہ پھر دلچسپی میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی بائیکیں اپنی خواہشیں اور اپنے جذبات ہی کے حوالہ کر چکر لی ہیں لیکن کوئی شخص عقل و ہوش رکھتے ہوئے نہ کہ رہ بالا رسول کا جواب اثبات میں نہیں فرمے سکتا، بلکہ ہر شخص یہی جواب دے گا کہ ان میں کوئی محکم بھی ایسا قابلِ اعتماد نہیں ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالہ کرنے سے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اور پر کے چار محکمات، خود بیات، خواہشات، شهوات، جذبات۔ تو بالکل اندھے واقع ہوئے ہیں۔ یہ صرف اپنے تقاضے کو پورا کرنا اور اپنے مظلوم کو مغل کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس سے کچھ سمجھتے نہیں کہ یہ جائز طریقہ سے حاصل کیے جائیں یا ناجائز طریقے سے جائز و ناجائز اور حرام و حلال کی انہیں سرے سے کوئی تیزی ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی مشنگل کے لیے سیرابی اور اپنی سمجھوک کے لیے غذا چاہتے ہیں اور اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح ایک بیل، ایک مچھوڑا اور ایک گدھا چاہتا ہے، وہ اس چاہتے ہیں میں نہ کسی قانونی حد کے پاندھیں نہ کسی اخلاقی حد کے۔ جس حوض اور حسیں حراگاہ سے بھی ان کی خود رست پوری ہو جانے کا امکان نظر آئے یہ ان کو اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں۔ یہ قناعت و ایثار اور اعتدال وغیرہ کے مفہوم سے بھی کاشنا نہیں جس طرح ایک گدھے کے پاس ہر چیز کے ناپسے اور تو لئے کا پیمانہ صرف اس کا پیٹ ہی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہر چیز کو لین اور فرج ہی کے پیمانے سے ناپسے اور تو لئے ہیں جن لوگوں کی زندگیں ان محکمات بخش تخت گزرتی ہیں اور وہ ان سے بالآخر کسی شرعی و اخلاقی محکم کے قائل نہیں ہیں وہی لوگ ہیں جن کے پارے میں قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے کہ:

**يَا أَكْلُونَ كَمَا تَأْتِي أَكْلُ الْأَنْعَامَ۔**

ان میں سے پانچوں محکم بلاشبیہ اس اعتبار سے قابلِ اعتماد ہے کہ یہ ایک عقلی اور اخلاقی محکم ہے، اس کی روح ملکوتی اور اس کی پروازِ سماویت خدا کی طرف ہے۔ اس وجہ سے اس سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ یہ انسان کو اسی دنیا کی کسی دلدل میں چھپنا دے لیکن غور کیسی یہ تو معلوم ہو گا کہ تمام خوبیوں کے ساتھ ایک نقش اس کے اندر بھی ہے اور وہ ہے اس کے مزاج کا یک رخاپ۔ اپنے اس یہ کوئی رُخے پن کے سینے کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو بغیر کسی روک ڈک کے اپنی روپ پر بننے کے لیے چھوڑ دیا جائے

تو یہ دوسرے حرکات کے ساتھ کوئی روا داری برستنے پر آمادہ نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات ان کو نہ صرف نظر انداز کر کے بلکہ ان کو کچلتا اور پامال کرتا ہوا تسلی جاتا ہے۔ اسی سے زندگی کے اندر وہ نامہواریاں اور سمجھاتیاں پیدا ہوتی ہیں جس کے مظاہر ہم جو گیوں، راہبوں اور درویشوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔

**خایموں کا علاج** آدمی پورا پورا اختیار کر سکے۔ بعض اعتبارات سے اگر ان میں خوبیاں ہیں تو دوسرے پسلوؤں سے ان میں خرابیاں بھی ہیں۔ ہماری زندگی کی گاڑی کو سچھے حصے دھیکتے رہنے کے لیے تو ان کا وجود نہایت ضروری ہے لیکن گاڑی میں جو جگہ ذرا بیور کی ہے اگر اس بجھے بھی اتنی کوسلطان کر دیا جائے تو پھر نہیں کہا جاسکتا کہ یہ انسان حصے را دکھانے والے گاڑی کو کس کھٹکی میں گرائیں۔

لیکن اگر یہ حرکات زندگی کے لیے ناگزیر بھی ہیں اور ساتھ ہی ان کے اندر تقاضہ بھی ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کام کیا طریقہ ہے کہ یہ اس افراط و تفریط سے پاک ہو سکیں جن کی طرف ہم نے اور پاشا و کیا ہے؟

افراط و تفریط سے پاک ہونے کے لیے اسلام نے دو باتیں ضروری فراہدی ہیں:

ایک یہ کہ ہمارے تمام حرکات کا حقیقی مطلوب اور اصلی نسب العین خدا کی رضا جوئی ہو۔ دوسرا یہ کہ حرکات شرمندی میں نہ ہوں بلکہ اپنی تمام سرگرمیوں میں خدا کی مقرری ہریٰ حدود اور اس کی آماری ہریٰ شرعاً کے قوانین کے پابند ہوں۔

خدا کی رضا جوئی کے نسب العین بن جانے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہمارے حرکات اپنے تمام احادیث تقاضوں اور مطالبات سے دست بردار ہو جائیں گے، ان کے مادی تقاضے اور مطالبات بدستور قائم رہیں گے لیکن فرق یہ ہو گا کہ اب ان کی طلب اگر نفس کو خوش کرنے کے لیے ممکن تو اب ان کی طلب خدا کو خوش کرنے کے لیے ہو گی۔ اب تک ہم جو کھاتے پہنچتے تھے تو اس لیے کہ نفس کا مطالبه ہے لیکن نفس العین کے تبدیل ہو جانتے کے بعد اس لیے کہا میں گے اور پہنچیں گے کہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اب تک یہو یہ بچپن سے دچکپی تھی تو اپنے نفس کی لذت و راحیت کیے تھی لیکن اب ہو گی تو اس لیے کہ اس سے خلاصی ہو۔ اب تک اگر کسی سے نفرت یا بحث تھی تو اپنے لیئے تھی۔ اب اگر بحث ہو گی تو وہ بھی قدر کے لیے اور نفرت ہو گی تو وہ بھی خدا کے لیے۔

یہ خیال کیجیے کہ یہ تبدیل ایک ظاہری تبدیل ہے یا کوئی معمول تبدیل ہے۔ یہ بڑی کامن تبدیل ہے جو فعل حبس کی خاطرا بحاص دیا جائے گا اسی کا ذوق اور اسی کی پسند اس میں سبکے زیادہ خایاں ہوگی۔ وہ مقول کی پسند اور ناپسند کا سعادت اس میں یا تو سرے سے ہو گا ہی نہیں دیا ہو گا تو اس اسی قدر جس قدر کہ ان کی پسند اصل پسند کرنے والے کی پسند کے موافق ہے۔ غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ بڑا فرق ہے اس غصہ میں جو ہم اپنے نفس کا انتقام لیتے کے لیے کسی پر ظاہر کرتے ہیں اور اس غصہ میں جو ہم خدا کے کسی قانون کی بے حرمتی اور اس کی شریعت کی کسی اہانت پر ظاہر کرتے ہیں۔

اسی وجہ سے اسلام میں ہمارے افعال و اعمال میں بے صرف وہی اعمال و افعال مقبول ہیں، جو انہر تعالیٰ کی رضا جملیٰ کے نسبِ العین کے تحت انجام دیے گئے ہوں۔ اگر نصبِ العین یعنی نہ ہو تو ایک عمل ظاہر میں کتنا ہری پاکیزہ ہو لیکن خدا کے ہال اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس نصبِ العین کے ساتھ بیوی کے منزہ میں لفڑا اتنا بھی عبادت ہے لیکن اگر نصبِ العین بدل جائے تو جہاد بھی نہ کیا جائے جن کے رہ جاتا ہے۔ دو حدیثیں لاحظہ ہوں:-

”جو کچھ بھی تم خداک رضا جملیٰ کے لیے خرچ کرو گے، اس پر اشہر کے ال اجر پاؤ گے  
یہاں تک کہ اس لفڑ پر بھی اجر پاؤ گے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے“  
(دریاضن الصالحین، بحوالہ صحیحین)

ابو موسیٰ اشعریٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا  
کہ ایک شخص شہزادت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ وہ راشخن حیثیت کی وجہ سے جنگ  
کرتا ہے، تیرہ اشخاص ریا کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، ان میں سے کس کی جنگ جہاد  
نی سیل اشہر کے حکم میں ہے؟، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد نی سیل  
الله کے حکم میں صرف اس کی جنگ ہے جو اس لیے رکھے کہ خدا کے دین کا بول  
(متفق علیہ)  
بالا ہو ۹

خدا کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کے معنی نہیں کہ ان محکمات کو بگٹھت ان کی اختیار کی ہوئی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پھرے جانے کے لیے چھوڑنہ دیا جائے بلکہ ان کے منزہ شریعت کی گاہ لگائی جائے اور ان کے پاؤں میں حدودِ الحنی کی زنجیریں ڈالی جائیں۔ خدا نے کھائے

پیشے پہنچنے، اشتوتی تقاضے پورے کرنے، محبت کرنے، نعمت کرنے، ہمی کو عبادت کرنے تک پہنچی بہت سی شرطیں اور قیدیں لگائی ہیں جو حلال و حرام اور مکروہ و مباح کے اتیازات قائم کرتی ہیں اور ہر چیز کے فرضیہ استحب ہونے کے درجے متعین کرتی ہیں۔ ان قیدوں اور شرطوں کا احترام نہایت ضروری ہے۔ ان کے احترام ہی سے خدا کی رضا جوئی کے اعلیٰ نسب العین تک بندھ پہنچا ہے اور زندگی کے ہر گونہ اور ہر شعبہ میں وہ اعتماد نایاں ہوتا ہے جو انسان کے ہر قول و فعل کو عبادت بنادیتا ہے اگرچہ وہ قول یا فعل بظاہر کتنا ہی دنیا دار نہ ہو۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ان حرکات کے اندر ہی پن کا علاج وہ سرمه بھیرت ہے جو خدا کی رضا جوئی کے نسب العین سے حاصل ہوتا ہے اور ان کی افراطی تضریط کی بیاری شریعت کی پابندی سے دور ہوتی ہے۔

**حمد و رحمہ کی پابندی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہو جانے کے بعد زندگی کے حرکات کو صراطِستقیم پر پا بر جار کھنے کے لیے رضاۓ اللہ کی طلب اور حمد و داشت کی پابندی ضروری ہے۔ ایک نہایت اہم اور شکل سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ان ان یہ مقام کس طرح حاصل کر سکتا ہے کہ خدا کی رضا جوئی کا نسب العین کبھی اس کی نکاح ہوں سے او جبل نہ ہونے پائے اور زندگی کے تمام شیب و فراز اور اس کے معنی سے مخفی اور بعید سے بعید گوشوں میں بھی وہ حمد و رحمہ کی نکھداشت قائم رکھ سکے۔**

یہ مقام حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضروری ہیں۔

ایک ذکرِ اللہ اور دوسرا فکرِ آخرت۔ ان دونوں چیزوں پر مفصل بحث تو آگے اپنے مقام پر آئے گی لیکن مختصرًا ان کا تعارف بیان بھی ضروری ہے۔

**ذکرِ اللہ** سے ہماری صراحت و ذکرِ اللہ کی صراحت ہے۔ ہم چوبیں گھنٹوں میں جتنے موڑ بھی ذکرِ اللہ مرتے ہیں، ہر موڑ پر خدا کو یاد کر لیتا چاہیے اس سے ہمیں یہ تجربہ ہوتا رہے گا کہ ہمیں کوئی غلط موڑ نہ مرت جائیں، نیز ہر کام کے دوران میں بھی بار بار اہم تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ دران کا میں ہم ہمول کر کیں سے کیس نہ جائیں۔ یہ یاد بیداری، ہوشیاری اور فہم و شعور کے ساتھ ہو۔ یہ یاد

تاکہ یہ زبان کی حصہ ایک درزش بن کے نہ رہ جائے۔ اس کے بیٹے صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی تحریر کافی نہیں ہے بلکہ اس کی مختلف صفات کی یادداشت کا ذہن تھیں ہر نما بھی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں ہر قدم پر خدا سے راہنمائی اور مدد بھی طلب کرتے رہنا چاہیے اور لغزشوں اور کوتاہیوں پر معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس یاد سے آدمی کا دل خدا پر جھارہتا ہے اور اگر شیطان کی چھوٹت سے کبھی قدم اڑ کھڑا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے۔

یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کر لے جا ہے کہ آدمی جب خدا کو بھول جاتا ہے تو خدا اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس سے کچھ یاد نہیں رہتا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اس کو کس نے بھیجا ہے۔ اس دنیا کی حیات چند روزہ کے بعد اس کو کہاں جانا ہے؟ اس کو بُرُّ عَيْتِينَ میں ہیں وہ کس نے بخشی ہیں اور کیوں بخشی ہیں؟ اس کو جزو قمیں اور صلاحیتیں میں وہ کس نے دی ہیں اور کیوں دی ہیں؟ یہ اس کے شاید این شان بھی ہیں یا نہیں؟ خدا کو بھول لئے ہی وہ ان ساری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی حقیر خراہشوں کے پیچے پڑ کر حیوانات سے بھی نیچے اپنے آپ کو گردیتا ہے۔ یہی حقیقت ہے جو قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ،

نَسْوَا إِنَّهُ فَرَأَى مُشْرِكًا فَنَسْأَلَهُ مَا هُوَ فِي أَنْفُسِهِ  
(انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے خود اپنے سے ان کو بے خبر کر دیا۔)

یہ عکس اس کے جب آدمی خدا کو یاد رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی یاد رکھتا ہے وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کی تدریجی قیمت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں خدا کا خلیفہ ہوں وہ باخبر ہوتا ہے کہ میں اپنی قوتیں اور صلاحیتوں کے حوالہ سے مسحود ملائک ہوں۔ اس پر یہ حقیقت واضح رہتی ہے کہ اس حیات چند روزہ کے امتحان میں اگر کامیاب ہو گیا تو میں ایک ابدی لازوال خرشیدی اور سرقوں کا حقدار بنتے والا ہوں۔ یہ چیز اس کو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں نہایت بیدار بنا دیتی ہے وہ اپنی ایک ایک چیز کو اپنے رب کی امانت سمجھتا ہے اور اسی حیثیت سے اس کے ساتھ معاشر کرتا ہے۔

اس یاد کے بیٹے جیسا کہ عرض کیا گیا مادامت شرط ضروری ہے جس طرح ہماری یادی زندگی کے بغاء کے بیٹے ہر وقت سانس کی آمد و شد ضروری ہے۔

اسی طرح ہماری روحانی زندگی کے بقایا کے لیے یہ یادِ الہی ہر وقت ضروری ہے لیکن اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اُدمی زندگی کے ساتھ شاغل چھوڑ کر اس یادِ الہی کے لیے گوشہ نہیں ہو جائے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک خدا کی اس یاد کے لیے زندگی کی کش مکشتوں کے الگ تخلیگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس یاد کی اصل برکت فکرِ معاش کی بجاگ دوڑ، تعلقات و روابط کی الحسنیں اور اقسام دین کی عملی و علمی سرگرمیوں ہی کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اٹھتے بیٹھتے، پیٹتے پھرتے اور زندگی کے تمام فرائضِ انجام دیتے ہوئے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید سے ایسا ہی اشارہ تکلتی ہے۔

**آل عمران کی اس آیت پر غور کیجیے۔**

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيْامًا ذَرَ  
 تُعْوِدُهَا وَعَلَى جِنُودِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ  
 فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّنَا  
 مَا خَلَقَتْ هَذَا إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُبْعَثِرْ  
 فِيْقَتَنَا عَذَابَ النَّارِ۔

خدا سے بچا۔

اس آیت سے ایک طرف تویر بات تجلیتی ہے کہ ذکرِ الہی اور فکرِ آخرت دو اول ساتھ ساتھ ہوں تب یہ اُدمی کو جادہِ حق پر استوار رکھتے میں معین ہوتے ہیں اور دوسری طرف قیامِ امر قعوداً و علی جنوبِ حرم کے الفاظ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ ذکر ایک علیٰ پھر قیامِ زندگی میں مطلوب ہے۔ اس کے لیے اُدمی کو پاؤں توڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

**فکرِ آخرت** یادِ تسبیح و خیز اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ اس ذکر کے ساتھ فکرِ آخرت

کو بھی ملاتا ہے یعنی اُدمی اس حقیقت کا دیکھا کرتا ہے کہ یہ زندگی اور اس زندگی کی تمام نعمتیں اور لذتیں فانی ہیں۔ جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے مرننا خود رہے۔ یہ وقت نچھے کوسمی آتی ہے، جو ان کو بھی آتے ہیں۔ یہاں ذکر سے متعلق ہم اس اصولی بحث ہی پر اکتفا کرتے ہیں اُنگے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بحث میں اس کے فوائد اور ادب، اس کے اقسام اور طریقوں پر مفصل بحث کریں گے۔

اور بڑھے کوئی آتی ہے اور کوئی نہیں جاتا کہ کس کی آخری کھڑی کب آجائے گی۔ شاہ وکد، عالم اور جاہل، کمزور اور طاقتوں سب ہی اس کے حملہ کے آگے ہے بس یہی تحریکِ تسلیمی و تسلیمی سے سب ہی کو سابقہ پیش آتا ہے، پھر خدا نے یہ دنیا اور یہ زندگی بے مقصد رہیں بنائی ہے کہ اسے ہم اچھی گزاریں یا بُری خدمات کو اس سے کوئی بحث نہ ہو، وہ ضرور ہمارے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل کا حساب کرے گا یہ کوئی پتیر بھی اس سے چیز نہیں سکیں گے۔ ہماری ہر خیافت، ہر چوری، ہر پیے ایمانی پچھلی جائے گی اور کسی کی سفارش بھی خدا کی اجازت کے بغیر ہمیں بخات تزلیخ کے گی، ایمان دار اور عمل صاحب کے سماں کوئی پتیر بھی دنیا میں کرنا ممکن نہیں ہے۔

**جمادات ذکر و فکر** اگر اس ذکر و فکر کو ادمی برابر تازہ رکھ سکے تو نہ تو خدا کی رضا طلبی کا نصیحت  
ہوگی لیکن ہماری طبیعت کی بعض کمزوریاں ایسی ہیں جو اس ذکر و فکر کے لیے جاپ بین جاتی ہیں۔ ان جمادات میں سے سب سے زیادہ عام پتیر غفلت ہے۔ دوسری پتیر جمادات دنیا اور خوارج دنیا کی محبت کے تیسرا  
پتیر ہماری خواہشات و شهوات اور ہمارے جذبات کے مرطابیے ہیں۔

ان تینوں قسم کے جمادات پر اس سلسلہ کے پچھلے مباحثت میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ان کو مہرانہ کی ضرورت نہیں ہے البتہ ان جمادات کو توجہ کرنے کے لیے اسلام نے جو تدبیر بتائی ہیں ان پر فصل گفتگو کی ضرورت ہے۔

غفلت کا علاج اسلام نے نہایت بنتا ہے۔ بحث دنیا کا علاج انفاق فی سبیں اللہ ہے، شهوات و خواہشات کا زور روڑھ سے ٹوٹتا ہے، اور ان تمام امور اپنی کا جامع اور اگری علاج جھج ہے۔ اب ہم بالترتیب انی گفتگو کریں گے۔

## نماز اور آفات نماز

خداء سے غفلت کو دور کرنے کا سب سے زیادہ کارگر اور موثر نسخہ نماز ہے یہ نسخہ خود ائمہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے۔ اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھے یاد رکھنا چاہو تو نماز قائم کرو۔

**آقِ حَرَامَ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي**  
میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔

نماز کے شرائط، نماز کے اوقات، نماز کی صورت و ہیئت، نماز کی دعائیں۔ بغرض اس کی ایک ایک پیغمبر انسان کو بیدار کرنے والی اور جینیجہ تو نے والی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز کا اس کے تمام شرائط و آداب کے ساتھ اہتمام کر سے اور اس کے دل پر غفلت کا سیل کچل باتی رہ سکے۔ نفس انسان پر اس کا جواہر پڑتا ہے اور یہ جس طرح ادمی کو پاک اور بیدار رکھتی ہے اس کی حقیقت خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نہایت عالدہ تکشیل کے ذریعہ سے بھاوی ہے۔

حضرت ابو ہریث رضی سے روایت ہے کہ میں نے مجی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سن کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نفر ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ نماز اہو تو کیا ایسے شخص پر سیل کچل کا کوئی اثر باتی نہیں رہے گا؟ لوگوں نے کہا، نہیں، یا رسول اللہ، ایسے شخص پر سیل کچل کا کوئی اثر باتی نہیں رہے گا۔ اپنے نے فرمایا، یہی شان پانچوں نمازوں کی ہے، ان کے ذریعہ سے جسی اشر تعالیٰ نہیں کے گے ہوں کو وہ خدا

رہتا ہے۔”  
(متفق علیہ)

انی حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک دوسری روایت ہے کہ  
”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اسکے  
مرکے پچھے ہتھے میں نہیں گزیں لگادیتا ہے اور ہرگز وہ پری چونکہ مار دیتا ہے کہ لدھی  
بڑی رات پڑی ہے، سوتے رہو پھر اگر وہ جاگ جاتا ہے اور اٹھ کر یاد کرتا ہے تو ایک  
گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ وضو کر ڈالتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے  
اور اگر وہ نماز پڑھ دلتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ بالکل ہشاش بشاش  
اور چاق چونکہ ہو جاتا ہے، درہ بالکل پرہم رده اور سست رہتا ہے۔“

(متفق علیہ)

**نماز کے شرائط** نماز کی یہ تاثیر کسی ایک ہی چیز کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا،  
ان تمام چیزوں کو اس تاثیر میں دخل ہے جن سے نماز بخوبی حاصل ہوتی  
ہے۔ اس کے شرائط میں سے پاکی اور وضہ ہے، ان کے اہتمام سے ادمی نمازگی اور نشاط حاصل ہوتی  
ہے، طبیعت پر سے کسل کا گرد و بخار دھن جاتا ہے اور ادمی کا عضو عضو خدا کی بندگی میں اس کے  
ساتھ ادمی کا ربط بڑھتا ہے اور دعا و عبادت میں ان کا تعاون حاصل ہوتا ہے جس سے دعا و عبادت  
میں برکت ہوتی ہے کیونکہ الفرقہ اور دعا کے مقابل میں جماعت کی دعا خدا کی رحمت کو زیادہ متوجہ کرنے  
والی ہے۔

**نماز کے اوقات** اس کے لیے جو اوقات مقرر ہیں۔ یہ بھی عبادت کے لیے مزدوں، قبریت  
نماز کے اوقات دعا کے لیے سازگار، بندہ کے ذہن کے لیے سکون بخش، عناصر کائنات  
کے اوقات، نیسخ و تسلیل سے مطابق اور سس و قمر اور شجر و جھر کے اوقات رکوع و سجود سے ہم اہنگ  
ہیں۔ فجر، چاشت، ظهر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کے اوقات پر غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ ان میں سے  
کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے جو نذکرہ بالا اعلیٰ احادیث سے ایک خاص اہمیت نہ رکھتا ہو۔

فجر کا وقت فراغ خاطر اور سکون قلب کا خاص وقت ہے۔ ادمی شب میں آرام کرنے کے  
بعد جب اٹھتا ہے تو اس کا دل پوری طرح مطمئن ہوتا ہے۔ عبادت ایک نئی حرکت کا آغاز ہوتا ہے۔

زندگی ایک سچے عرصہ کی مسماج ہوتی ہے اور یہ نیا عرصہ خدا کی طرف سچے ممتازہ توفیق اور ممتازہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ ادمی دیدہ بینا رکھتا ہو تو اس وقت ایک اور حقیقت بھی نظر آتی ہے اور وہ بھی ادمی کو رکھنے کی وجہ سے بخوبی دعوت دیتی ہے وہ یہ کہ اس وقت سورج جس کو مادالوں نے معبد کا درجہ دے کر مسجد بنایا، خود اپنے خان کے آگے اپنی کمر ختم کرتا ہے اور خدا اپنے عمل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق اور معبود نہیں بلکہ عابد ہے۔

بھر کا وقت ایک نئی حقیقت کی منادی کرتا ہے وہ یہ کہ ہر عروج کے لیے زوال، ہر جوانی کے لیے بڑھا پا اور ہر قدر کے لیے بزر مقدر ہے۔ کائنات کی کوئی پیغمبر بھی اس قانون سے مستثنی نہیں ہے صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے وال ہے، اس کے سوا کسی کرنے لیے بھی بقاء نہیں۔ جس طرح دن بھی اس کی ود پیر ہوئی اور اب غروب کے کنارے سخرا ہے تاکی طرح یہ دنیا بھی پیدا ہوئی، رشبایپ کو سچی اور ایک دن خاتمہ کے قریب جا لگے گی۔ بھر کے وقت یہ خاموش تذکیرہ بندہ کو اس بات پر اکساتی ہے کہ وہ آخرت کو یاد کرے اور توبہ و استغفار کے لیے اپنے رجکے حضور محمدہ ریزہ ہو۔

سفر کے وقت زندگی ایک نئے دروازے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ دروازہ جیسا کہ بعد موت اور زندگی کے بعد برزخ کے دروازہ سے مشابہ ہے۔ معرفت کائنات دن کی نشانی کے بعد رات کی نشانی، اور سورج کی تابانی کے بعد چاند کی چاندنی دکھاتا ہے۔ دن کے ہنگامے مرد پڑتے ہیں اور ستاروں کی زم اگستہ ہوتی ہے، گرمی، ٹوٹ، اور دن کی شودا شری کی تلباں کم ہوتی ہیں اور دن بھر کا نہ کھا پارا انسان رات کی خانک، لوریوں میں ایک نئی کیفیت حسوس کرتا ہے۔ بے حص اور بلید لوگ ممکن ہے کائنات کے اتنے بڑے الٹ پھر کو کچھ نہ سوکر تھوں جس کے اندر حص موجود ہوگی وہ اس سے پرے خبر کیسے گزد سکتا ہے؟ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ادمی اتنی بڑی قدرت و حکمت کا مشاہدہ کرے اور جس قدر دھیمے یہ قدرت و حکمت دکھائی ہے، اس سے بالکل بے پروا اور یہ نیاز رہے کہ اگر اس کے مل کے اندر زندگی کی کوئی ر حق ہے تو وہ اس موقع پر ضرور متبہ ہو گا اور اپنے اس خان ملک کے آگے اپنا سر زیارت جھکائے گا جس کی قدرت کا یہ علم ہے کہ اس نے آن کی آن میں پوری دنیا کو شب کی چادر میں چھپا دیا۔

عشاء کا وقت ایک احساس کا وقت ہے۔ رات کی ناریکی بڑھ کر حرکت و عمل کے آخری آثار کو جی شتم کر دیتی ہے۔ ادمی بر جیز سے کنارہ کش ہو کر سکون اور ارام کا طالب ہوتا ہے تاکہ آنے والی منزل کے سفر کے پیٹے تازہ ہو سکے۔ یہ وقت، اس بات کے لیے نہایت موزدان ہوتا ہے کہ ادمی بستر پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے رب کے سخندر میں حاضری دے لے۔ ممکن ہے یہ فرصت، آخری فرصت ہی ہو اور آج کے سونے کے بعد اس کو جاگنا نصیب نہ ہو۔

تجدد کا وقت راز و نیاز اور سرگوشی و مناجات کا وقت ہے، پسکون اور سکون بخش ہونے کے لحاظ سے شب دروز کے چوبیں گھنٹوں میں کوئی وقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان سے لے کر زین بھک سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ اس وقت سب سوچتے ہیں۔ شاید شیطان بھی سو رہا ہوتا ہے صرف وہ رب خوار کیم جاگتا ہے جو کبھی نہیں سوتا یا پھر وہ جاگتا ہے جس کا بنت بیدار ہوتا ہے۔ اٹھیے اور ستاروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیے تو قی الواقع محسوس ہو گا کہ انسان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور سمائے دنیا سے قریب اور رحمت کی منادی ہو رہی ہے۔ اس وقت کی کیفیات ایسی واضح ہیں کہ اس کو دنیادار اور دیندار، زند اور زامد، دونوں ہی جانتے ہیں۔ سوچ کا لے اس کو سونے کے لیے بہترین وقت سمجھتے ہیں اور جانگنے والے اس کو جانگنے کے لیے سبکے بہتر وقت سمجھتے ہیں اور فی الحقيقة ان دو نوں کا سمجھنا صحیح ہے۔ جو وقت سونے کے لیے سب سے زیادہ عزیز و محబ ہو گا، وہی جانگنے کے لیے بھی سبکے زیادہ عزیز و محబ ہو گا۔ قربانی تو عزیز و محబ ہی کی مقبول ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت کو انشد تعالیٰ نے بھی مقرر ہیں کی نماز کے لیے خاص کیا ہے۔ جن کے سپل اس وقت بستر کی لذت کو حمپوڑتے ہیں اُن کی العجائیں اور دعائیں سننے کے لیے وہ خود سماں گے دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی قربہ کرنے والا کوئی میں اس کی قربہ قبول کروں ہے کوئی سیری رحمت کا طالب کر میں اس کا پنی رحمت کے دامن میں چھپا کوں۔

یہ اوقات میں جو نماز کے لیے مقرر ہیں، خود کیجیے کہ ان میں سے ایک ایک وقت اپنے لامد کتنی محنت اور کتنی تائیر سخت ہے۔

**نمaz کی ہدایت** اب آئیے، نماز کی ہدایت و صورت پر ایک نظر ڈالیے۔

**نمaz کے سلسلے** نماز کے سلسلے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو عجز و نیاز مندی کی تصور برپا کر کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہاتھ باندھے ہوئے، نگاہ فتحی کیسے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے پاؤں بلند کیسے ہوئے، مین و شمال اور آگے پچھے سے بالکل بے تعلق، نسجیدگی اور خاموشی کی تصور، ادب اور رقصار کا مجسم، کبھی اپنے خالق و مالک کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ کبھی اپنی ناک اور پیشافی زمین پر رکھ دیتا ہے کبھی ہاتھ پھیلا کر اس سے دعا اور انجام کرتا ہے۔ غرض عاجزی اور تندیل کی قبیلیں نہ ہی اختیار کر سکتی ہیں، ادب اور رقصار کے ساتھ ان ساری ہی شکروں کو اختیار کرتا ہے۔ اس طرح ایک نماز پڑھنے والے کی جو تصور میں آتی ہے وہ صاف گواہی دیتی ہے کہ بندہ اپنے مالک دونوں کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ دیکھنے میں رہا ہے تو یہ حقیقی تودہ ضرور رکھتا کہ اس کا مالک نبی اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی نماز ہے جس کو احسان کی نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز فتحی نماز سے ایک مختلف مزاج رکھتی ہے، ترکیبِ نفس کے نقطۂ نظر سے معتبر نماز یہی ہے۔ یہ نماز، نماز پڑھنے والے کے بال میں کامن کا حکم ہوئی ہے۔ اس نماز میں نمازی کے دل کا خضوع و خشور جھکتا ہے۔ اس میں خدا کے آگے بندہ کھڑ کر رہی نہیں جھکتی بلکہ اس کا دل بھی جھک جاتا ہے۔ صرف اس کی پیشافی ہی خاک اکو دنیں ہوتی بلکہ اس کی روح بھی سجدہ درینہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص نفاق کی نماز پڑھتا ہے، اس کی کسل مندی، اس کی جھائیاں، اس کا بدن کو نظر نامرد نہ کر سکتے، اس کو چھانا، اس کو بجلانا، اس کو اندگینیاں سے کھیندا، دارالصلوٰۃ کے بالوں سے شغل کرنا اور اس طرح کی درسری حرکتیں صاف گواہی دیتی ہیں کہ اس کا جسم حاضر ہے لیکن اس کا دل غائب ہے۔ یہ آیا تھیں بلکہ لا یا گیا ہے۔ اس کا بدن سجدہ میں ہے لیکن اس کی روح بازار میں گردش کر رہی ہے اور گور در دروں کی دیکھادیجی یا رسماں کی پابندی کی خاطرا اپنی گردن یہ بھی جھکا دیتا ہے لیکن اس کا دل بستہ رکھا رہتا ہے۔

**اب ذرا ایک اجمالی نظر نماز کی دعاؤں پر ڈالیے:**

**نمaz کی دعائیں** نماز کا آغاز ابراہیمی دعا سے ہوتا ہے جس میں بندہ رب سے کٹ کر اور بالکل بیکسو ہو کر اپنے رب سے جو شفے کے عزم کا اظہار کرتا ہے جس میں وہ اپنی نماز اور اپنی قربانی اور لہ اشارہ ہے ان وجہت و جھی للہذی کی طرف۔

اپنی زندگی اور اپنی مردت، ہر چیز کو صرف خدا ہی سے کریے مخصوص کرنے کا اقرار کرتا ہے۔ وہ اس خدا کی خدائی میں آسمان و زمین میں سے کسی کی شرکت تیسیں نہیں کرتا اور پورے عالم کے ساتھ شرک سے اپنی براءت کا انعام کرتے ہوئے اپنے سلسلہ ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ صرف ایک کھو نہیں ہے بلکہ اس کے پیچے ہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس یادگار اعلانِ حق کی ایک پوری تاریخ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کیا ہے اور ہر قسم کی دشمنیوں اور دشمنوں، ہر قسم کے فوائد و مصالح اور ہر قسم کے غلطات و مصائب سے بالکل بے پرواہ کر کیا ہے۔ اس اعلانِ حق کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بہت بخاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ اس میں انہوں نے خدا کے لیے ہر چیز سے جسی دستبرداری کا انعام فرمایا تھا، اس کو پچائی ثابت کرنے کے لیے ان کو فی الواقع ہر چیز سے دامنِ جہاد کر اٹھا پڑا اور وہ راسِ جہاد کر اٹھو ہر حضرت ہوئے ہے۔ ان کو بعض استعارہ کی زبان میں نہیں بلکہ واقعات کی دنیا میں زندگی اور صوت کی بازیاں بھی کھیلی پڑیں اور وہ ان بازیوں میں بھی سو فی صدی کا میاپ رہے یہ یادگارِ کلمہ زبان سے ادا کر کے جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کی عظیم معنویت اور اس کی عظیم تاریخ، اس کی روح کو ابراہیمی اخلاص اور ابراہیمی خلیفیت سے لبریز کر دیتی ہے، وہ یہ محکوم کرتا ہے کہ میں صرف ایک مسلم ہوں بلکہ ایک ھفت ٹکنی مجاہد بھی ہوں۔ وہ اپنے رب کے لئے اس کے ساتھ اپنی وفاداری کا وعدہ کرتا ہے میکن یہ صرف وفاداری کا وعدہ ہی نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے ہر بابل سے بغاوت کا اعلان بھی ہوتا ہے اور اس راہ میں سب کچھ قرآن کریمی کا بغیر منزال عنیم بھی۔

اس دعا کے بعد بندہ خدا کی بڑائی کی گواہی دیتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے یہ کتنی وہ مذکورتے اور کسے ہوئے نہیں دیتا بلکہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گواہی دیتا ہے جس سے اس کے عزم کا انعام اور اس کے یقین کا اعلان ہوتا ہے۔

پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ یہ دعا وہ دعا ہے جس سے بڑھ کر اس آسمان کے پیچے کوئی اور دعا نہیں۔ یہ دعا خود خدا کی سکھائی ہوئی ہے اس میں بندہ جس طریقے سے اپنے رب کے مانگتا ہے، اس سے بہتر طریقہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور جو کچھ مانگتا ہے اس سے بہتر کوئی دوسرا ہی چیز مانگنے کی ہو ہی نہیں سکتی خدا نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اس سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور اسی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اصلی مانگنے کی چیزیں ہی ہے جب محل کی تسبیب بھی ٹھیک ہو، جو چیز ناٹگی گئی ہے وہ بھی مانگنے کی ہو اور قدر کا

اکی سے مانگنے کی ہو جس سے مانگی جا رہی ہے اور دیتے والا بھی تمام کریں سے بڑھ کر کریم ہر تو پھر اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی ہے کہ بندہ جس بیوی دعا پڑھتا ہے تو رب کریم اس کے ایک ایک لفظ کو کس طرح ثابت قبولیت بخشتا ہے ہم اس حدیث کا ترجمہ بیان نقش کیے دیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ  
ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے غاز کی دعا کو اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان تقسیم کر  
دیا ہے۔ اس کا وھا حصہ میرے یہ ہے اور میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پاتا  
ہے جب بندہ الحمد للہ میں مردی العذمین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے  
کہ میرے بندہ نے میرا شکر دادا کیا۔ جب بندہ الرحمن الرحيم کرتا ہے تو  
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ کے میری تعریف کی جب وہ مالک کے یوم  
الدین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ نے میری بڑائی بیان کی جب  
وہ ایا الہ نعبد و ایا کئی نستعین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حضرت  
میرے اور میرے بندہ کے درمیان مشترک ہے اور میں نے اپنے بندہ کو  
وہ دیا جس نے مالگا پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم حضرت  
الذین اخدت علیہمْ غیر المغضوب علیہمْ فَمُلَا الظالمون  
کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خاص میرے بندہ کا حصہ ہے اور میں نے  
اس کو بخشنا جو اس نے مانگا۔ (مسلم)

آدمی غاذیں جب اس دعا کو پڑھتا ہے اور ساختہ ہی یہ خیال کرتا جاتا ہے کہ اس کے ایک  
ایک لفظ کو مالک الملک کس طرح قول فرمادا ہے جس سے یہ دعا کی جا رہی ہے تو اس کی حکیم  
وجد میں آجائی ہے۔ یہ خیال اس دعا کے ایک ایک لفظ کو علی دکھر سے بھی زیادہ قیمتی بتاویت ہے  
اور ان کو اٹھکھنے ہوئے زبان سے نہیں ادا کرتا بلکہ وہ اس جوہری کی طرح ان کو اسان وزین کے  
پادشاه کے سامنے بیٹھ کرتا ہے جس کے ایک ایک دکھر کے بدے ان کے حقیقی قدر ان  
کے دکھر دو لمحے خزارے ملئے والے ہوں۔

سورہ فاتحہ کے بعد بندہ قرآن مجید کی کوئی سرورہ یا اس کا کوئی حصہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے، یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ اس کے ہر حصہ میں وہ اصل پیغمبر موجود ہوتی ہے جس کی تعلیم و دعویٰ کچھ یہیے قرآن گتارا ہے۔ خدا کی صحیح تعریف، زندگی بس کرتے کا صحیح طریقہ، آخرت کا بیان، جزا و سزا کا ذکر اس کے ہر حصہ میں ملے گا۔ اسلوب اور انداز بیان بدلتے ہوئے ہوں گے کہیں ایک بات قانون کی شکل میں ہوگی، کہیں موعودت کی شکل میں، کہیں قصہ کی شکل میں، کہیں تسلیل کے پیرایہ میں، کہیں حکمی کا انداز ہوگا، کہیں پیار و محبت کا لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھایا جائے (میں آئیں کے تقدیر ہی سبھی) اور آدمی کے سامنے نہایت موثر دلنشیں انداز میں اس حقیقت کی یاد رہانی نہ ہو جائے جو اس کی زندگی کے رُخ کو صحیح رسم کرنے کے لیے ہے۔

اس کے بعد رکوع و سجدہ کی تسبیحات ہیں۔ ان تسبیحات میں بندہ اپنے رب کا ہر علیہ یک پاک ہونا اور اس کا رسے بڑا ہونا اور اس پاکی اور بڑائی کا عملی اعتراف و اظہار اس طرح کرتا ہے کہ پہلے اس کے آگے زمین کے قریب تک ٹھیک جاتا ہے اور پھر اپنی پیٹانی اور اپنی ناک اس کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے۔

خاتمہ نماز پر عیظیز کر بالعموم تمین و عالمیں پڑھی جاتی ہیں۔ التیات اور و شریف اور استخارہ ان تینوں میں بندہ تمین رسے بڑے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ بندہ پر رسے بڑا حق اس کے رب کا ہے اس لیے پہلے التیات میں وہ اس کے عضو میں سلامی اور نیاز کا تخفہ پیش کرتا ہے اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نیک بندوں پر بھی سلام درجست بھیتتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد رسے بڑا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ اور آپ کے ازواج و ذریات پر درود و سلام بصیرتتا ہے۔

اس کے بعد مال باب، قرابت مندوں اور دوسرے دینی بھائیوں بینوں کے حقوق میں چنانچہ آخر میں ان رسے کے لیے دعا کے مغفرت کرتا ہے اور اس کے بعد سلام پر اپنی نماز خستہ کرتا ہے۔

یہ نماز کی رو خصوصیات بیان ہوئی ہیں جن کا ملاحظہ رہتا نماز کی صحت اور اس کی انواریت کے لیے

غوردری ہے۔ یہ نماز اگر ایک شخص دن رات میں کم از کم پانچ مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ ایک نسایت مژو  
واعظ اور ناجر ہے، اس کو بے جیا اور براہی سے روکنے کے لیے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر قرآن  
مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اَنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالصَّلَاةُ رَبُّكَ (نماز بے جیا اور  
براہی سے روکتی ہے)۔ (روکتی ہے) کا مطلب یہ ہے کہ چوپیں گھسنے میں کم از کم پانچ مرتبہ  
آدمی کی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے یاد دہانی کرتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ یاد دہانی نہست  
مُؤثِّر یاد دہانی ہے۔ بشرطیکہ آدمی نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور نماز جو تہ کیہ کرتی ہے آدمی اس کو قبول  
کرے۔ اگر وہ نماز کو مخفی ایک رسم بنانے کے رکھتے سے اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا محض ضابطہ کی خانہ کی  
رہ جائے اور اس کی صافیں بے سچے بوجھے منتر کی طرح پڑھی جاتے لگیں تو پھر نماز ایک بالکل بے معنی  
اور بے مقصد چیزوں کے رہ جائے گ۔

**نماز کی آفات** نقطہ نظر سے نماز کی کیا اہمیت ہے اور وہ کون سی نماز ہے جو آدمی کو  
درست رکھتی ہے لیکن یہ بحث نامکمل رہتے گی اگر ہم یہ نہ تباہیں کہ نماز کی وہ بیماریاں کیا ہیں جو اس کو  
بالکل بے مقصد اور بے معنی بنانے کے رکھ دیتی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ اب ہم مناسب  
ترتیب کے ساتھ نماز کی چند معروف بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے علم کی حد تک ان  
کے علاج بھی بیان کریں گے۔

نماز کو برباد کرنے والی سے عام افت کسل اور سستی ہے۔ یہ بیماری جب کسی  
کسل شخص کو لاحق ہو جاتی ہے تو وہ وقت کی پابندی برقرار رکھ دیتے ہیں، زنجیافت  
کا اہتمام قائم رکھ دیتے ہیں اور نماز میں حضور قلب کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ ایسا شخص اوقیانو  
اہستہ اہستہ سرے سے نماز غائب ہی کر دیتا ہے لیکن پڑھتا ہے تو اس طرح کہ اس کی نمازان تمام  
او صاف سے خال ہونے کے بعد یہ جو نماز میں اثر پیدا کرتے ہیں، بالکل بے جان اور بے روح ہوتی  
ہے۔ اس کسل کا بسب ظاہری کئی پیروی ہوتی ہیں، کبھی نیشنر ہمہ گی سے کبھی شغفیت ہوتی ہے،  
کبھی بعض ذریعی اچھیساں ہوتی ہیں لیکن اگر محاذ کی تھریں اتر کر غدر کی جائے تو صاف نظر ہوتا ہے کہ یہ  
اسباب نعمت ظاہری اسباب ہیں، اس کا حقیقی سبب درحقیقت ان ظواہر میں نہیں بلکہ دل کے امداد

ایک کسل تورہ ہے جو طبیعت انسان کا خاصہ ہے، نیند، نگران اور شفت طلب مشمول ہیں، مستعد سے مستعد اُدمی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سُستی پیدا کر دیتی ہیں۔ اس سُستی پر ارادہ کی تھوڑی سی تربیت سے انسان آسانی سے قابو پال دیتا ہے لیکن ایک سُستی وہ ہوتی ہے جو نفاق کا عینہ ہوتی ہے اس کا علاج مشکل اور دیر طلب ہوتا ہے۔ قرآن نے سورہ نساء میں اس کا ذکر کیا ہے، ایت کا ترجیح ملاحظہ ہو۔

”نافق اشہد کو وحکم دینا چاہتے ہیں حالانکہ اشہاد کو وحکم میں ڈالے ہوئے ہے اور حب بیہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سُستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، لوگوں کو ودھاتے ہیں اور اشہد کو بہت کم یاد کرتے ہیں“ (۱۳۳-نساء)

بھائی نفاق کا تعلق ہے اس کا ذکر تو اگرے اپنی بھگھر پر آئے گا لیکن نماز کے سلسلے میں عام کسل کو دور کرنے کے لیے چند چیزوں مفہید ہیں، ان کا ذکر ہم بیان کرتے ہیں۔

پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی دین میں جواہریت ہے اُدمی اپنے دل میں اس کو اچھی طرح جملائے نماز ایمان کا پلا منظر ہے۔ ایمان سے پہلی ہی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ نماز ہے اور پھر نماز ہی سے سارا دین پیدا ہوتا ہے۔ دین جن سننوں پر قائم ہے۔ ان میں ایمان کے بعد سب سے پہلا ستون یہی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس سننوں کو دفعہ دے سے نہ رکھتے تو اس نے دلخیقت پر اے دین کو دھا دیا۔ صحابہ کفر و ایمان کے درمیان نماز ہی کو صدقہ ناصل سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنمنٹ اور عمال کو برہنیت جاری کی تھی کہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری نماز کا قیام و اہتمام ہے۔ یہ شخص نماز کو ضائع کر دے گا وہ بقیہ دین کو پردرجہ اول ضائع کر دے گا۔ دین کا نیع اور سرچشمہ چوپ کہ نماز ہی ہے اس وجہ سے دین کی حفاظت میں اس کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ اسی چیز کے اہتمام سے اُدمی اپنے پوئے دین کی حفاظت کرتا ہے اگر اس میں سُست چڑھا گئے یا اس کو ضائع کر دے تو پھر وہ دین کی ساری حدیں نظر کے رہتا ہے اور اپنی باغ شہوات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اہل کتاب کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات میں ڈر گئے۔

اسی ذیل میں یہ بات بھی یاد رکھی چاہیے کہ دین میں ہر چیز کا ہیکت مقام ہے اور یہ مقام خدا اشہد تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ یوچرستون دین کی جیشیت رکھتی ہے وہ بہ جاں سنوں دین

جب تک اس کو فائدہ نہ کیا جائے گا دین کرتا گم نہیں کیا جاسکت۔ اگر کوئی شخص نماز کو فائدہ نہ کر سے اور بزم خوشی دن رات اسلام کی خدمت میں لگا رہے ہے تو افاسٹ دین کے نقطہ نظر سے اس کی ساری کوشش لاحصل رہتے گی کیوں کہ وہ ایک عادت بغیر نیاد کے بنارہا ہے جس طرح ایک عادت میں غیاد کا بدل کوئی دوسری پیغام نہیں ہو سکتی اسی طرح دین میں نماز کا بدل کری دوسری پیغام نہیں ہو سکتی۔ اسی حقیقت کو حدیث میں یوں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نافل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ فرائض نہ ادا کرے۔

دوسری پیغام جو اس کسل کو توثیق کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اپنے کو سعیِ اللہ ذکرِ اللہ کا عادی بند نہیں۔ سعیِ اللہ ذکرِ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اذان کو خدا کی پکار سمجھے اور بخوبی کر نہیں میں اذان کی پکار پڑے اسلام کے کام چھوڑ کر نماز کے انتہام اور سجده جاتے کی تیار یوں میں گک جائے۔ اس انتہام اور تیاری کا انداز کسل متداہ نہ ہو بلکہ ایک مستعد اور چاق و پوند آدمی کا ہو جس طرح ایک فرمان بردار غلام آقا کے حکم کے لیے گوش برآواز رہتا ہے اور اس کی پکارستہ ہی دوسرے سارے دھنڈے چھپوڑھپاڑ کر تعییل حکم کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ اذان کی آواز سننے ہی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے وقت سبے زیادہ ضروری ہے پر مقدم اور سبے اہم فرضِ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز ہی ہے احتیاط اور محظوی کے حالات کے سوا کوئی دوسرا کام خواہ وہ دین ہی کا کام ہو اس پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ آدمی اگر کچھ عرصہ اذان کے سنتے ہی دوسرے سارے دھنڈوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی عادت ڈالے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو اس کی ایک مجروب عادت بنا دے اور نماز کے معاملہ میں اس کی یہ کسل کی بیماری دوسری ہو جائے۔

نیند سے بوجسل پیدا ہوتا ہے اس کا بترین علاج حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور مغمون کے آغاز میں حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے ہم اس کو بیان کرائے ہیں۔ نیند اس وقت تک تو بلاشبہ بہت بجا رہی پیغام سے جب تک آدمی بستر پر پڑا اینٹھتا رہے ہے لیکن جب ایک مرتبہ ہمت کر کے بستر پر چھوڑ دے کچھ اشہر کو یاد کرے۔ پھر وہنوکرے اور نماز پڑھنے کے توجہ پر درجہ دستی کی بدولی اور بدحال سے سکل کر خوشی و شادی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو

سونے کی حسرت نہیں رہ جاتی بلکہ اگر حسرت ہوتی ہے تو اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جا گئے کی یہ لذت  
و راحست اس سے پہلے کیوں نہ حاصل کر سکا۔ یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی نماز کے لیے اپنی  
نیند قربان کر کے کبھی سچھپا نہ کاٹیں۔ تھوڑے ہی مرصد کی مشق کے بعد جا گئے کے بعد کی لذت  
کی یاد طبیعت پر اس فندر غالب ہو جاتی ہے کہ وہ گھری سے گھری نیند سے بھی آدمی کو اٹھا  
کھھرتی ہے۔

**دوسرہ** نماز کی دوسری عام آفت دسوسر ہے، نماز کے لیے کھھر سے ہوتے ہی آدمی  
کے ذہن پر دسوسل اور پر اگنہ خیالات کا سچوم ہوتا ہے جس طرح برسات کی  
بصیگی ہوئی راتوں میں کسی سبب پر تینگوں کا سچوم ہوتا ہے جو بات کبھی بھی یاد آئے والے نہ ہو  
وہ بھی نماز میں یاد آجل کے گی اور پھر اسی ایک بات سے سینکڑوں باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ بعض لوگ  
اس صورت حال سے بہت بد دل اور پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص ان کے اپنے  
دل کی خرابی ہے کہ اس طرح کے دلو سے پیدا ہو رہے ہیں ورنہ نماز میں یہ بات نہیں ہوئی چاہیے  
ہماستے نہ دیکھ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک نماز میں دسوسر پیدا ہونے کا تعلق ہے اس سے  
کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی نماز سے جتنی ہی محنت ہے شیطان کو اس  
نماز سے اتنی ہی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے آدمی جب نماز شروع کرتا ہے تو ابیس کے کارندے  
اور ایخنٹ دسوسر اندازی کا حلہ رہے زیادہ سخت اتنی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے مقابل میں وقت  
ایمانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے شیطان کو کچھ زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت بھیں پیش  
ہیں آتی جوان دسوسل ہی کو خدا نے روحانی سمجھتے ہیں۔ اگر شیطان ایک دسوسر پیدا کرتا ہے تو  
وہ خدا اپنے واہم کی خلائق سے اس میں دس کا اور اضافہ کر لیتے ہیں۔

ان دسوسل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تین باتیں مفید ہیں:

ایک عام بات تیریہ ہے کہ آدمی جس وقت پر حالت محسوس کرے شیطان سے اللہ تعالیٰ  
کی پناہ مانگے اور اس آدمی کی طرح اپنی نماز کی حفاظت اور تکمیل کے لیے مستعد ہو جائے جس کو دشمن  
کے حلہ کی اطلاع ہرچکی ہو اور اس نے یہ عزم کر لیا ہے کہ وہ دشمن کے علی الامر اپنی نماز پوری کر کے ریگا  
اور ان دسوسر انداز یوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ آدمی کی یہ مستعدی ہی بسا اوقات شیطان کے سارے

صلسم کو باطل کر دیتی ہے  
دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے کلاں صرف اپنے جی ہی میں نہ پڑھے بلکہ اس طرح پڑھے  
کہ وہ خداوند کے معانی پر دھیان کر سکے البتہ اختیاط غروری ہے کہ اسی درجے  
پاس کھڑے ہوئے دائیے کی نماز میں خلیل واقع نہ ہو۔ یہ چیز دسویہ کو درکرنے میں بہت مددگار  
ہوتی ہے جبکہ آدمی کا ذہن معانی کے پیچے لگ جاتا ہے تو دسویہ کی دادیوں میں لٹکنے سے  
بہت بڑی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے۔

تیسرا بھی چیز جو سیے زیادہ منفرد اور کارکر ہے یہ ہے کہ آدمی اپنی عام زندگی میں اپنے  
خیالات کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ اور میندر کھٹے کی کوشش کرے۔ وہ عینہ ایسی چیزیں سوچے  
جو اس کے لیے بھی دین و دنیا میں نافع ہوں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچانے والی اور ترقی دینے والی  
ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے ذہن کی بھی عینہ چلتی رہتی ہے۔ اگر آدمی اس میں صفات  
سکھا غلط انتشار ملتا ہے تو وہ اس صفات سخترے غلط کو پہنچتی رہتی ہے اور اس سے ننایت عمدہ  
آٹا برآمد ہتا رہتا ہے وہ موقع پاتتے ہی اپنے لکھر پتھر کی مٹی بھر کر اس میں محبوک دیتا ہے  
اوہ یہ بھی اس کو دننا شروع کر دیتی ہے۔ یہ چیز بچکی کے نظام کو بالکل درہم برم کر دیتی ہے یہ  
حادثہ اگر بار بار پیش آنے لگے تو بچکی اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ اس میں اچھا اٹا بتار کرنے کی  
صلاحیت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ عمدہ سے عدہ گندم بھی اس میں ڈالیے تو بھی آٹا کر کر اسی  
نکھلے گا۔

جو آدمی اپنے ذہن میں اپنے خیالات کی پروردش کا عادی ہو جاتا ہے نماز میں اس کو  
دوسرے کم لائق ہوتے ہیں کیونکہ وہ جس طرح کے خیالات سے نماز ہوتا ہے، اسی طرح  
کی روحانی غذا اس کو نماز میں بھی مل جاتی ہے اور انگریز پچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایسے  
پست نہیں ہوتے کہ نماز کے مبنی مقصد سے بالکل یہے جوڑ ہو جائیں۔ حضرت عمر بن حییہؓ میں حادثہ  
حضور و شود کی نماز میں بھی کبھی کبھی خارجی حالات خلیل انداز ہو ہی جاتے تھے۔ کبھی کبھی عین حالات  
نماز میں ان کا ذہن ایران و شام میں لٹستے والی فوجوں کی ترتیب میں مشغول ہو جاتا تھا۔ ایک شخص  
کو سکتا ہے کہ یہ بھی تو ایک قسم کا کھو جانا ہی ہے ساس میں شہر نہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا کھو جانا ہو!

ہے لیکن ڈا فرق ہے اس کھو جانے میں جو کسی غیر کی گلی میں ہو اور اس کھو جانے میں جو اسی کے کوچے میں ہو جس کے درکی تماش ہے۔

اس دعوہ سہ ہی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو نہ اپنی طہارت پر اعتماد ہوتا ہے تو دعوہ پر اور نہ نماز پر۔ دعوے کے بیٹے یعنیں کے ترا تقدیم ہونے ہی پر دعے کے دوٹے کے پاتی کے بھاویں گے لیکن ان کا اطمینان نہیں ہو گا کہ ہاتھ دھویا گی۔ نماز کے بیٹے بھڑکے ہوں گے تو بار بار نیت پا چھیں گے اور توڑیں گے لیکن ان کی نیت ہے کہ کسی طرح بندھتے ہیں نہیں آتی۔

یہ ایک سخت قسم کی ذہنی بیماری ہے جس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اس کو بیماری سے بچے اور اپنی شریعت کی اصلاح کی فکر کرے۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری شک کے راستہ سے لاحق ہوتی ہے، ان کو اپنا ہر کام مشتبہ معلوم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اسلامی شریعت کا یہ اصول اچھی طرح ذہن شین کرنا چاہیے کہ دین کے معاملات میں گانِ غالب کافی ہے۔ اگر ایک کام کے متعلق ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو گی تو ان شاعر اشودہ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے زیادہ اس کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

بعض لوگوں کو یہ بیماری احتیاط اور تقویٰ میں غلوت کے سبب ہے لاحق ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی اسلامی شریعت کے مزاج سے متفاوت کرنا چاہیے کہ یہ شریعت سهل ہے اور ائمہ اور رسول کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ تشدید پسندی سے نپکے اور اپنے یہے معتدل راہ کا انتخاب کرے جو شخص اپنی تشدد پسندی کی وجہ سے دین سے دھینکا مستحی شروع کر دیتا ہے، بالآخر وہ ٹکریت کھا جاتا ہے۔

**مدد عالی سے یہ تحریکی** تیسری آنکت مدد عالی سے یہ خبری ہے۔ اس زمانہ میں عوام کا بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو عربی زبان سے نادر اقتضیت ہے کی وجہ سے سے جانتے ہی نہیں کہ وہ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں کس بات کا اقرار اور کس بات کا انکار کرتے ہیں وہ نماز کے الفاظ کو منتروں کی طرح پڑھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ خواہ ہم ان کے معنی مطلب کہیں یا نہ کہیں یہ منتر کا گرہ ہو کے رہیں گے۔ ان کے نزدیک سارا جادو بس ان الفاظ میں ہے اگر الفاظ اُلطی سیدھے زبان سے ادا ہو گئے تو تیزشانہ پر لگ گیا۔

دوسرا سے بہت سارے لوگ ہیں جو ان الفاظ کے معنی سے توبے نہیں ہیں لیکن یا تو

مختلت کے سببے وصیان نہیں کرتے یادھیاں کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ یہ جس طرح قرآن کی تلاوت بعض بطور تبرک کرتے ہیں۔ اسی طرح نمازوں میں اس کی دعائیں بطور تبرک پڑھیجئتے ہیں یہ صورت حال خواہ جمال کے سببے ہو یا مختلت اور غلط فہمی کے سببے نماز کو بال محل ہے اثر اور بے مقصد بنا کے رکھ دیتی ہے۔ کم از کم تذکرہ نفس کے نصب العین کو تو اس نمازوں سے مشکل ہی سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس خرابی کو درکردنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ عربی زبان سے ناداقت ہیں، وہ کم از کم ان سورتوں اور دعاویں کے معنی مطلب تو ضرور سیکھ لیں جو عمر مانمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کام تھوڑی سی مختلت اور بہت معمولی اہتمام سے ہر شخص کر سکتا ہے جو لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ نماز کی اہمیت سے واقف ہیں ترین کی اہمیت سے۔

رہے وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں یا کم از کم نماز کی دعاویں کے حد تک واقف ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازوں میں جو کچھ سیئیں یا پڑھیں اس کے لفظ لفظ کے معنی پڑھیا کریں، آدمی کا ذہن اگر کسی چیز پر جتنے اور خود کرنے کا عادی نہ ہو تو شرع شروع میں وہ اس میں مشقت اور احتیت محسوس کرتا ہے لیکن یہ مخفی عادت کی خرابی ہے اشد تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو سونپنے اور سمجھنے کے لیے بنایا ہے۔ ہر زہگردی کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اس راہ پر لگایا جائے تو تھوڑی سی مختلت سے لگ جاتا ہے اور جب لگ جاتا ہے تو پھر اس سے الگ ہو کر وہ زندگی میں کوئی لذت ہی محسوس نہیں کرتا۔

یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جب ایک ہی طرح کی دعائیں اور سورتیں ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور وہ معلوم ہیں تو پھر ان پر ہر روز اور ہر وقت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ جب اس کو سمجھ دیا تو یہ کافی ہے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ نماز کی اور نماز کی دعاویں کی خوبی سے ناداقت ہیں۔ نماز معلومات کے اضافہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی بلکہ اشد تعالیٰ کے ساتھ اپنے عمد کی تجدید اس کے راہنمائی اور استعانت کی طلب اور توبہ و استغفار کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ مقصود آخر یہ سمجھے بوجھے الفاظ دہرا دینے سے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آدمی کا ذہن اور دماغ حافظہ ہو۔ پھر یہ گمان بھی صحیح نہیں ہے کہ نماز میں ایک ہی طرح کی چیزوں کا پار بار اعادہ ہے ماز میں نئے نئے انکشافت بھی ہیں اور ان انکشافت کی کوئی صد و نیا بیت نہیں ہے لیکن یہ انکشافت

تجھد کی نماز میں ہوتے ہیں ریشرٹیکہ ادمی تجھد، اس کے شرط کے ساتھ ادا کرے اور اس کو قرآن مجید یاد ہو۔

**چھوٹی نماز** میں ایک حادثہ چوری کا بھی پیش آیا کرتا ہے۔ یہ چوری شیطان ہمیں کرتا بلکہ بسا اوقات چھوٹی نماز پڑھنے والا خود کرتا ہے اور کہیں باہر جا کر نہیں کرتا بلکہ خود اپنی نماز کے اندر کرتا ہے۔ آپ ستعجب ہوں گے کہ وہ کس طرح وہ اس طرح کہ بعض لوگ وضو اور نماز میں اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ وہ ان کے کسی رکن کا بھی حق اوانہیں کر پاتے۔ پاہتو دھوئیں گے تو کہیاں چھوڑ جائیں گے۔ پاؤں دھوئیں گے تو ایڑیاں خشک رہ جائیں گی، نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس طرح کہ ابھی برابر کھڑے جی ہمیں ہوئے کہ رکوع کے لیے جھک پڑے۔ رکوع میں سمجھتے تو تم ابھی کمر کے رہا ہے ہوا بھی ہمیں کہ اٹھو کھڑے ہوئے۔ رکوع سے اٹھ کر ابھی کمر سیدھی سمجھی نہ ہونے پائی کہ دوسرا بے سجدے کے لیے جھک گئے۔ قعدہ میں بٹھیں گے تو معلوم ہو گا کہ جلتے تو سے پر بٹھئے ہوئے ہیں۔ غرض دہ اپنی نماز کے ہر حصہ میں سے کچھ دبایں گے۔

اس دیواری کے عنوان و سبب ہوتے ہیں۔ ایک تو کہ بعض لوگ فطری طور پر جلد باز ہوتے ہیں وہ ہر کام کو جلدی کرنے کے عادی ہو جلتے ہیں اور تربیت سے محروم ہونے کے باعث یہی طریقہ وہ نماز میں بھی اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ نماز کے ہر کام میں وقار اور تفات شرط ہے۔ اس کے عقیر نماز بالکل بے برکت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر بخوبی میں غلط عادات پڑھایا کرتی ہے وہ آخر دتم تک قائم رہتی ہے، اس وجہ سے بچوں کی ابتدائی تربیت ہی میں اس امر کو ملاحظہ رکھتا چاہیے کہ نہ تو وہ زندگی کے عام حالات میں جلد باز ہوں اور نہ نماز میں خصوصاً نماز میں جلد پائی کی خرابیاں اپنی طرح ان کے ذہن نشین کی جائیں۔

اس کا دوسرا سبب دل کی خرابی ہے۔ بعض لوگ اسے بندھے مسجد میں آتے ہیں۔ ان کے لیے صحمد ایک قید خانہ ہوتی ہے وہ آتے ہی ریچاہنے پیں کہ کب اس جیل سے چھوٹیں اور اپنے ذوق کی دلچسپیوں میں منکر ہوں۔ اس بد ذوقی کی وجہ سے نمازان کے لیے ایک صیانت بن جاتی ہے ایسے لوگوں کا علاج شکل اور دریٹلپ ہوتا ہے جب تک ان کے ذہن تبدیل نہ ہوں، جب تک یہ دین کی اہمیت اور دین کے اندر نماز کے مرتبہ اور مقام کے تابع نہ ہیں، اس وقت تک محض

تغییل ارکان کی تائید سے ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، نماز پیدا ہوتی ہے ایمان سے۔ اگر کوئی شخص ایمان کی لذت ہی سے اشتنازع ہو تو وہ اس نماز کے لیے جھلا کیا اہتمام کرے گا جو اس نے بعض اپر سے چپکا لی ہو رہا اس کے اوپر چپکا دی گئی ہو۔

نماز کی سب سے زیادہ عام اور سب سے زیادہ عذر ناک افت ریا ہے۔ عام اس وجہ سے کہ اس ریا کی آنی مخفی قسمیں ہیں کہ محتاط سے محتاط آدمی بھی بعض اوقات اس کی بعض قسموں کے حملے سے اپنی نماز کو چھا نہیں سکتا اور خطرناک اس وجہ سے کہ نماز کے لیے اخلاص شرط ہے اور ریا اخلاص کے نافی ہے۔ ان درباروں کے بعد سے یہ شخص اپنی نماز کو ریا سے پاک رکھنا چاہے اس کو مسلسل ضریب کرنی پڑتی ہے۔

یہ سے نہ دیکھ اس بیماری کے علاج کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔

ایک یہ کہ آدمی ریا کی مختلف شکلوں سے اچھی طرح واقف ہو، امام غزالیؒ کی احیاء العلوم اور اسی طرح کی بعض دوسری کتابوں کا مطالعہ ریا کی اقسام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ ایک چیز سے اچھی طرح واقف ہونے کے بعد یہ یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ آدمی اس کو پکڑ سکے اور اگر چاہے تو اس کی اصلاح کر سکے۔ یہ واقفیت عام لوگوں کے لیے جب قدھروں کے ہے اس سے کمیں زیادہ ضروری علامتے دین اور اہل تقویٰ کے لیے ہے کیونکہ ریا دنیاروں کے بھیں میں کم آتی ہے یہ دنیداری کے عمار میں زیادہ آتی ہے اور ایسی ایسی پُرقرب شکلوں میں آتی ہے کہ بڑے بڑے علمائی دین اور بڑے بڑے متاثر و فقہ اس کے پکڑنے میں آجاتے ہیں اور اس کے پچھے پ پ اوقات اپنے زہد و ریا صفت کی زندگی بھر کی پونچی گمراہیتے ہیں دوسری چیز ہے جو اس کے لیے مفید ہے وہ تجدید کی نماز ہے۔ یہ نماز شب کی تہائی میں پڑھی جاتی ہے اور نفس کے لیے نہایت سخت ہے اور اس کو مخفی رکھنے کی بھی تائید ہے اس وجہ سے جو لوگ بعض دکھاوے کی نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس کی بہت نہیں کر سکتے۔ اس کی بہت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو رہا تو یہ ریا ہوں۔ یا ریا کے لئے اس سے واقف ہوں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کے لیے تجدید کے گوشہ خلوت میں آ کے چھپے ہوں۔ یہ نماز ریا کا سے زیادہ مفید علاج ہے اس پر طبیعت آدمی اس کی رازداری کو قائم کر سکے۔ بعض لوگ اس سلسلہ میں

بھی ریا میں بستکا ہو جاتے ہیں وہ یا تو خود مختلف پردول ہیں اپنی شب بیداری اور تجدیخ روانی کا اشتمان دیتے ہیں یا ان کے شاگرد اور مرید حضرت یہ خدمت انعام دیتے ہیں۔ ایسی صورت ہیں یہ نماز اس مقصد کے لیے نہ صرف یہ کہ کچھ مغاید نہیں رہ جاتی، بلکہ کچھ مزید ریا پر دربن جاتی ہے۔

نماز کے فتنوں میں سے یہ ہند بڑے بڑے فتنے ہیان ہوئے ہیں اگر آدمی ان سے اپنے اپ کو بچانے کی کوشش کرے تو دوسرا فتنوں پر قابو پانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی نمازنی الواقع اس کے لیے انکھوں کی ٹھنڈک، دل کی طانیت اور روح کا سرور بن جاتی ہے۔

## النفاق اور آفات النفاق

دنیا اور اباد دنیا سے محبت کے سب سے اشد تعالیٰ سے جو غمہ دت ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ موثر اور کارگر علاج انفاق فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ یہ بات ملاحظہ رہے کہ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ زکوٰۃ کی اصطلاح نہیں استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نفس اور احسان کے نقطہ نظر سے دین میں جس پیز کی اہمیت ہے وہ انفاق کی ہے، صرف زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تروہ کم سے کم مطالیہ ہے جو اسلام میں ایک صاحب مال سے کیا گیا ہے، اسلام کا اصلی مطالبہ تو انفاق کے لیے ہے جو سُرًا بھی ہو، اعلانیہ بھی ہو، تنگی میں بھی ہو، فراخی میں بھی ہو، دوست اور عزیز کے لیے بھی ہو، مخالف اور دشمن کے لیے بھی۔

زکوٰۃ ادا کر دینے سے اسلامی حکومت کے مطالبہ سے تو ادمی ضرور بھی ہو جاتا ہے قانون اس پر کوئی گرفت نہیں کر سکتا بلکہ یہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب ادمی اپنی اور اپنے اہل دعیا میں کنگزیر ضروریات کے سوا ہر صرف سے اپنا مال بچا کر اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جتنا کرے۔ جو شخص اس اہتمام سے اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہی درحقیقت

انفاق کا اصل حق اداکرتا ہے اور وہی ہے جو اس زندگی میں روح کی یادشاہی کا جلوہ دیکھتا ہے اور آخرت میں اپنے رب کی خوشنو دی کی حیثت دیکھے گا۔

ہم پہلے بیاں مختصرًا انفاق کی پرکاش پر فتنگو کریں گے، اس کے بعد ان آفات کا ذکر کریں گے جو انفاق کو باطل کر دینی ہیں اور ساتھ ہی ان آفتوں سے اپنے انفاق کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن و حدیث میں چوتھے بیریں بتائی گئی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔



## النفاق کی برکات

**اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقینی لگاؤ**

النفاق کی رسیبے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ آدھ کے دل کو خدا کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ اس کے لیے خدا سے غافل رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اُدمی کو مال سے جو محبت ہے اس کا فطری تینیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بچکر اپنا مال رکھتا ہے یا جس کام میں اپنا سرمایہ لگانا ہے، اسی بچکر یا اسی کام کے ساتھ اس کا دل بھی الحکار ہتا ہے۔ اگر وہ اپنا مال کسی مخفی بچکر میں دفن کرتا ہے تو اس کا دل ہر وقت اسی گوشے اور اسی خرابی میں گردش کرتا رہتا ہے اگر وہ کسی بنک میں رکھتا ہے تو اس بنک کے ساتھ اس کا دل بندھو جانا ہے اگر کسی کار و بار یا کسی کپنی میں اپنا سرمایہ لگانا ہے تو رات دن اس کار و بار یا کپنی کی نکری اس کے سر پر سار رہتی ہیں۔ الغرض جہاں اُدمی اپنا سرمایہ لگانا ہے، ہمیں شادوت دیتا ہے کہ وہیں اس کا دل بھی رہتا ہے اس حقیقت کی روشنی میں دیکھیے نویں بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنا مال خدا کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا دل بھی خدا ہی کے ساتھ رہے گا کیوں کہ اس کا مال خدا ہی کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت سیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تو اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھو کیوں کہ تیرا مال جہاں رہے گا وہیں تیرا دل بھی رہے گا۔

## معاشرے کے ساتھ یقینی ربط

اس کی دوسری بُرکت یہ ہے کہ صاحبِ اتفاق کا اپنے معاشرے کے ساتھ بھی صحیح ربط قائم ہو جاتا ہے تو زیکر یہ تعلم ہو گا کہ یہ چیز بھی کر کی معمول چیز نہیں ہے بلکہ غسلہ شریعت کے اعتبار سے یہ دین کی دو بنیادوں میں سے دوسری ہے ایک بندے کے صحیح بندہ پشنے کے لیے دو چیزوں ضروری ہیں، ایک یہ کہ رب کے ساتھ اس کا تعصی شیعیک شیعیک نام ہو جائے۔ دوسری یہ کہ خلق کے ساتھ وہ صحیح طور پر بوطہ ہو جائے۔ پہلی چیز اُدمی کو نماز سے حاصل ہوتی ہے جس کا سیان ہو چکا ہے۔ یہ دوسری چیز اس کو اتفاق سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی رمز ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ساتھ ساتھ ہوا ہے اور سورہ البقرہ کے شروع میں **وَقَدْ يَعْمَلُونَ الصَّلَاةَ كَمَا** ساتھ دوسری چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ اتفاق (إِمْتَاجَ أَرْقَانَهُ حُمُرٍ يُتَفَقَّعُونَ) ہے۔

یہ دونوں چیزوں درحقیقت وہ دو بنیادیں ہیں جن پر خلق اور خالق کے ساتھ اُدمی کے سارے تعلقات کی عمارت نامہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہی بحثنا چاہیے کہ اتنی دو چیزوں پر درحقیقت پوئے دین و شریعت کی عمارت قائم ہے۔ پچھلے ذاہب میں بھی تمام نیکیوں کی جڑ اتنی دو چیزوں کو فرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاذ تمام نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تو تمام دل و جان سے اپنے خداوند کے محبت کر اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے پڑوی سے محبت کر۔ پھر فرمایا کہ اتنی دو چیزوں پر تمام دین و شریعت قائم ہیں۔

پڑوی سے محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اُدمی اس کے لیے اپنا مال خرچ کرے اس کے دکھ درد میں اس کا شریک رہے اور اس کی شکلات میں اس کا ہاتھ بٹائے جس طرح اشتغال کے ساتھ محبت کا اولین مظہر نماز ہے، اسی طرح اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین مظہر اتفاق ہے۔

گُ ظاہر میں یہ دونوں چیزوں الگ الگ ہیں لیکن فرآگمری نظر سے دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ ان میں سے دوسری چیز درحقیقت سپل چیز کا ثراہ اور نتیجہ ہے جو اُدمی خالق سے محبت کرے گا وہ اس کی مخلوق سے ضرور محبت کرے گا۔ اشتغال کے اپنی مخلوق کو اپنی عیال سے تحریر فرمایا ہے۔

انسان کی یہ نظرت ہے کہ اگر اس کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے متعلقین سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اپنی اس نظر کے نقل خانے سے بروشنس اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مخلوق سے ہی محبت کرنے لگتا ہے اور یہ محبت قدرتی طور پر خلق کی ہمدردی اور ان کے لیے مالی ایثار کی شکل می ظاہر ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کے جذبہ شکر گزاری کا نتیجہ ہوتی ہے وہ جب اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش پر حقیقت پستہ از نظر ڈالتا ہے تو ہر سید سے اپنے آپ کو خدا کی فتوتوں سے گھرا ہوا پاتا ہے۔ ان فتوتوں کا احساس اس کو ایک طرف تو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی اور پستش کرے چنانچہ اسی تحریک کے وہ غماز پرستا ہے اور پھر بھی جذبہ دوسری طرف اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ بس طرح اس کے رب نے اس کے اوپر احسان فرمایا ہے اسی طرح وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دوسرے بندوں پر احسان فرمائے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ ان میں سے ایک چیز دوسری سے پیدا بھی ہوئی ہے اور پھر انہی دو نوں پر تمام دین و شریعت کی بنیاد بھی ہے۔ ایک تمام حقوق کا سرچشمہ ہے اور دوسری تمام حقوق العباد کی اصل ہے جو ادمی دوسروں کے لیے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ ان کے دوسرے حقوق ادا کرنے میں بھی تنگ دل نہیں ہوگا۔ انسان کا دل اگر مال کی محبت اور بخشافت کی بیماری سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے وہ تمام نیکیاں انسان ہو جاتی ہیں جن سے ایک ادمی اپنے معاشر سے کامیزین فرد بنتا ہے اور اگر اس کا دل مال کی محبت میں گرفتار رہے تو اس کے لیے نیکی کا ہر کام دشوار بن جاتا ہے۔

قرآن مجید نے یہ حقیقت اس طرح سمجھائی ہے:

نَّاَمَّاَمَنْ أَعْطِيَ اللَّهُ الْقَيْدَ صَدَقَ  
پس جس نے دیا اور خدا سے ڈرا اور  
بِالْحَسْنَى فَسَنِيدُ سَرَّهُ لِلْيُسْرَى  
اچھے انجام کر کچانا، اس کے لیے ہم  
وَأَمَّا مَنْ إِعْنَلَ وَأَسْتَغْنَى  
راہیں کھولیں گے آسانی کی اور جس نے  
دَكَّدَّاَبَ بِالْحَسْنَى فَسَنِيدُ سَرَّهُ  
نجیل کی اور خدا سے بے نیاز ہوا اور

لِلْعُسْرَى -

اپنے انجام کو جھوٹ جانتا تو اس کوڑا میں گئے  
ہم تسلی کی راہ پر۔

**الاتفاق سے حکمت حاصل ہوتی ہے** دوسرے تمام عقاید و اعمال کے لیے بنزرتہ خدا اور پانی کے ہے۔ اس سے ادمی کی وہ نیکیاں جو سچے ہیں جو کمزور و ناتوان ہوتی ہیں اور اس کے وہ عقاید مشکم اور پائیدار ہو جاتے ہیں جو ابھی اپنی طرح دل میں راسخ نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ دین کے عقاید و اعمال کا یہی روح و احکام ہے جس کو قرآن مجید میں حکمت سے تعمیر کیا گیا ہے اور قرآن کے اشادات کے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکمت کے خزانہ کی کلید درحقیقت اتفاق ہی ہے چنانچہ سودہ بقہرہ کے آخری اتفاق کی برکتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ :

الشَّيْطَانُ يَعِدُ كُلَّ الْفَقَادَ شیطان تیسیں فقر سے ڈرا تا ہے اور بھیالی  
يَا هُنَّ كُلُّ كُلُّ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ  
کاشورہ دیتا ہے اور اشد اپنی طرف سے  
يَعِدُ كُلُّ مَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَفَضْلًا ط تما سے لیے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا  
وَاللَّهُ وَأَسْمُعُ عَلَيْهِ تُؤْتَهُ  
ہے اور اللہ بڑی سماں اور بڑا علم رکھنے  
الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ هُوَ وَهُنَّ  
وَالا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا  
يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوقِيَ خِيلًا كَثِيرًا فرماتا ہے اور جسے حکمت مل اسے غیر  
کثیر ملا۔ (بقرہ ۲۴۹-۲۵۰)

یہ اس اتفاق کی برکت بیان ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوبصوری حاصل کرنے اور اپنے دل کو دین کے احکام پر جانتے کے لیے کیا جائے۔ چنانچہ اس کی تنبیہ یہی شروع ہوتی ہے کہ :  
مَثَلُ الظَّالِمِينَ يُنْفِقُونَ أَمْالَهُمْ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال غریج کرتے  
أَبْتَغَا عَوَادَهُنَّ ضَالِّتٍ اِنَّهُمْ وَتَشْيَيْتا هیں، اشد کی رضا بھر اور اپنے دل کو جانے  
مِنَ الْفَسَادِ هر - کے لیے۔

اپنے دل کو جاننے کے لیے ۱۰ یعنی دل کی خواہشات کے علی ال رغم وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے لیے خدا کے احکام کی تجھیں اور اس راہ میں ہر قربانی انسان ہو جائے جو لوگ

اس مقصود سے مال خرچ کرتے ہیں، ان کا صدر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ان کو اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے توازن تابہے اور ساتھ ہی ان کو حکمت کا وہ خزانہ بھی عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم ہونے والائیں ہے۔

**مال میں برکت** بِقُرْآنِ مجیدِ میں اس برکت کی مثال اس طرح بیان ہوتی ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يَعْفُونَ أَهُمْ أَكْمَلُ  
فِي سَبِيلِ النَّبِيِّ كَمَثَلِ حَبَّتِ  
أَنْبَتَ سَبِيعَ سَنَاءِ  
مُكْلِ سُنْبَلَةً هِمَّا تَحْبَطُ فَاللَّهُ  
يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ قَوْسٌ  
عَلَيْهِ۔

ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں ہے  
مال خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے  
ایک دانہ ہو جو آگاہ سے سات بالیاں  
جب کی ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ  
جب کے لیے چاہتا ہے پڑھاتا ہے  
اور اللہ یہی سائی رکھتے والا، اور علم والا۔

دوسری بھگہ فرمایا ہے:

يَدْعُوكُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ بُوَا دَبِيرُ  
الْمَدَّقَاتِ۔

اللہ سو دکوٹا اور صدقات کو پڑھاتا  
ہے۔

یہ برکت آخرت میں جو ظاہر ہوگی وہ تو ہوگی ہی۔ اس دنیا میں بھی اس شخص کے مال میں برکت ہوتی ہے جو خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے پے شمار بندے جو اس کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعائیں کرنے والے بالعم اہل حاجت ہوتے ہیں جو اپنی حاجت مندی کے بعد سے اس بات کے سخت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے بلکہ بعض روایات کے تواریخی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے خدا کے فرشتے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا ترجیح ملاحظہ ہوئے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بنی حیل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنیلہ پر کوئی صحیح بھی نہیں آتی ہے مگر دفترشہ اترتے ہیں، ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اسے خدا تو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدلت عطا فرم اور دوسرا یہ دعا

کرتا ہے کہ تو بخیل کو برپا دی اور نقصان عطا فرمائی۔ (متفق علیہ)

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برکت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کی تجویز بھر جاتی ہیں یا اس کے بینک سینیس میں انتافر ہو جاتا ہے یا اس کے املاک و جایدید اکی مقدار اور تعداد کمیں سے کمیں جا پہنچتی ہے بلکہ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ مال کا جو خیانتی فائدہ اور نفع ہے جس مقدار میں وہ حاصل کرتا ہے اس کے مقابل میں دوسرے حاصل نہیں کر پاتے۔ خلائق خدا کی وجہ خدمت اس کے مال سے انجام پاتی ہے، دوسروں کے مال سے انجام نہیں پاتی۔ معاشرے سے افادہ تبدیل کی اصلاح و ترقی میں بوجھتہ اس کے مال کا ہوتا ہے، دوسروں کے مال کا نہیں ہوتا خدا کی خوشخبری کا جو لازموں خزانہ دہ اپنے مال کے بدلوں میں حاصل کر لیتا ہے، دوسرے اس سے خود رہتے ہیں۔ خلائق خدا کے دلوں میں عزت اور محبت کا جو مقام اس سے ملتا ہے، اور پہلے کو گن گن کر رکھنے والے اور کوٹھیوں اور کاروں کے مالک اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سبکے بڑی باتی ہے کہ جو فراغ خاطر، جو سکونِ قلب، جو اعتمادِ علی اللہ، جو قلبی مسترست اور دل اور روح کی جو بادشاہی اس کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو کبھی خواب میں بھی دہ چیز نظر نہیں آتی۔

اس برکت کی ایک وجہ یہ ہے کہ انفاق کرنے والے کا مال چنکے، دوسروں کے دبلئے ہوئے حقوق کی فاسد مادوٹ سے پاک ہوتا ہے، اس وجہ سے صالحین کی طرح اس کی قوت نشوونا میں بڑا اخافر ہو جاتا ہے، اہل تعالیٰ اس کی قدر و قیمت کو مضاعف کر دیتا ہے اور ان افتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو آقیں اندر ان مالوں کو چھٹ کرتی رہتی ہیں جن کے امر دوسروں کے حقوق کی الائش میں ہوتی ہوتی ہیں۔

## آفات اور ان کا علاج

الافق کی یہ بکتریں نتایج واضح الفاظ میں قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور سرہنخیں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی ان کی صحت و صداقت کا اندازہ کر سکتا ہے لیکن نازکی طرح اس کے بیانے بھی چند آیتیں ہیں۔ اگر اتفاق کرنے والا ان آفتول سے ہوسٹیارڈ ہے اور اپنے اتفاق کو پوری احتیاط کے ساتھ ان سے بچانے کی کوشش نہ کرے تو پھر اس کے اتفاق کی ساری برکت بریاد ہونکے رہ جاتی ہے اور وہ ان فوائد میں سے کوئی ایک فائدہ بھی حاصل نہیں کر پاتا جن کی طرف ہم نے اور پاشارہ کیا ہے ہم ان آفتول میں سے چند اہم آفتول کا یہاں ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے تدارک کی تدبیریں بھی بتائیں گے۔

**چھڑا آنے کی خواہش** بست سے لوگ خدا کی راہ میں خرچ کر تے ہیں لیکن دل کی پیش نظر صرف ایک مطابق کو کسی نہ کسی طرح پیدا کر دینا ہوتا ہے جب طرح وہ حکومت کا عاید کردہ کوئی نیکی ادا کر دیتے ہیں، اسی بعد اور افسرگی کے ساتھ کسی دینی دندہ ہی کام کے پیسے بھی کچھ مال وہ نکال دیتے ہیں۔ اس بد ولی کے سب سے اثر کی راہ میں کچھ خرچ کرتے وقت ان کی خواہش اور کوشش ہر

پہلو سے یہ ہوتی ہے کہ خدا کی راہ میں وہ چیز دین جس کا دینا ان کے دل پر گراں نہ گزٹے، جو ان کی ضرورت کے بالحل فاضل ہو یا جس سے کہ ازکم ان کو کوئی بڑا فائدہ اٹھا سکنے کی توقع نہ ہو۔ اگر قربانی کریں گے تو ایسے جائز کی جو کم قیمت اور سبے چیزیں ہو۔ صدقہ کریں گے تو ایسے مال کا جو نہیں خود قبول کرنا پڑے تو اس کو دیکھو کر کافی پر ہاتھ رکھیں گے۔ اگر کسی قومی اور مذہبی مقصد کے لیے اپنی کوئی چیز الگ کریں گے تو وہ چیز جس کی فائدہ بخشی کی صلاحیت اب ختم ہو رہی ہے۔

اس طرح کا انفاق نہ صرف یہ کہ کوئی خیر و برکت نہیں پیدا کر تا بلکہ وہ سرے سے ائمۃ تعالیٰ کے ہاں شریت قبولیت ہی نہیں پاتا۔ انفاق کے موجب خیر و برکت ہونے کے لیے سب سے پہلے چیز اُدمی کے دل کی آمادگی اور تیاری ہے جو انفاق دل کی آمادگی کے ساتھ نہ کیا جائے وہ خدا کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا تو اس میں خیر و برکت کیا ہوگی۔

یہ آمادگی اور تیاری اس تھوڑے کو بیدار رکھنے سے پیدا ہوتی ہے کہ خدا یا اس کا کوئی کام ہمارا یا ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم خود ہر لمحہ اس کی عنایت درہماں کے محتاج ہیں۔ یہ محض اس کی طرف گئے ہمارا ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے مہیں بخشتتا ہے اور دوسرا ہمارے آگے مانگنے کے لیے بڑھاتا ہے تاکہ دیکھے کہ ہم اسی کا بخت ہو اماں خود اسی کو دیتے ہوئے کی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فیاضی اور حوصلہ کے ساتھ دیتے ہیں یا تنگ دل اور ترش روئی کے ساتھ جو لوگ اس اذمائش کا ہے ہیں یا تنگ دل اور ترش روئی کے ساتھ جو لوگ اس کا ایک مختتم مرتع سمجھتے ہیں اور اس کی راہ میں اپنے مال و متعاع کا وہ حصہ پیش کرتے ہیں جو انہیں خود مجبوب ہوتا ہے کسی محبوب چیز کو پیش کرنا بجائے خود اس بات کی بہت بڑی شادوت ہے کہ وہ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔

بعض چیزوں کی مجبوبیت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بجائے خود قسمی اور پسندیدہ ہوتی ہے اور بعض چیزوں اگرچہ بجائے خود بہت قدر دنیزلست والی نہیں ہوتی ہیں یعنی حالات ان کو قسمی اور مجبوب نہ ہستے ہیں شلاًّ قحط اور گرانی کے زمانہ ہیں معمولی غذا اُس سامان بھی ہر شخص کے لیے محبوب و مطلوب نہ ہوتا ہے یا ایک غریب اُدمی کے لیے اس بھی جیب کا دھیلا ہی بڑی قسمی چیز ہوتا ہے۔ ائمۃ تعالیٰ کے ہاں یہ ساری چیزوں کی مجبوب ہی شار ہوتی ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ ان کو

خداکی راہ میں خرچ کرنے والے وہی برکتیں حاصل کرتے ہیں جن کا امداد تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک مزدور اپنے پسندیدہ کمائی کے چند طور کے خداکی راہ میں خرچ کر کے وہی اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے جو ایک ایسا بزرگ اپنی اشتر فیاض لٹا کر حاصل کرتا ہے یہ کیوں کہ ایک غریب کے لیے اس کے چند طور کے ایسی طرح جو بھی ہیں جس طرح ایک دولت مند کو اس کی اشتر فیاض مجبوب ہو سکتی ہیں۔

جبوب اور پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے ہی سے اللہ تعالیٰ کی دفاداری کا حق ادا ہوتا ہے جو لوگ بعض زیانی جمع خرچ سے اللہ تعالیٰ کی دفاداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے باسے میں قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے۔

لَئِنْ تَنْتَالُوا إِلَيْنَا الْتَّرْحَاتِ تُنْفِقُوا  
مِمَّا كُنْجِبْتُونَ۔  
تم خداکی دفاداری کا درجہ اس وقت تک  
میں پاس کتے ہیں جب تک ان چیزوں میں  
سے خرچ نہ کرو جن کو تم جبوب رکھتے ہو۔  
(۹۶۔ آل عمران)

جو لوگ خداکی راہ میں اپنا ناپسندیدہ یا غلط را ہوں سے ایسا ہوا مال دے کر اس وقت  
ڈالنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے باسے میں قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا  
مِنْ كُلِّيَّاتِ مَا كُسْبَتُمْ وَ  
مِنَ الْأَخْرَجَنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
دَلَّةً يَسْتَعْمِلُوا الْخَيْدُثَ مِنْهُ  
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُ تُحِبُّ بِإِخْنَادِهِ  
إِلَّا أَنْ تَعِمِّصُوا فِيهِ مَا أَعْلَمُوا  
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ حِيمَدًا۔  
اَسَے ایمان لانے والو خرچ کر و ان پاکیزہ  
چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں اور جو  
ہم نے تم کے لیے زمین سے پیدا کی  
ہیں اور ان میں سے بُری چیز کے خرچ  
کرنے کا ارادہ نہ کرو جس کو تم خداکی را  
میں خرچ کر اور تم خود اس کے لیے  
والے نہ بنو مگر اُن بھیں پیسے کر اور یاد رکھو  
کہ اللہ یے پروا اور حبید ہے۔  
(۲۶۷۔ بقرہ)

مذکورہ بالا آیت میں "طیبات" سے مراد ہیں وہ چیزوں جو بجا لئے خود بھی اچھی اور پسندیدہ ہوں اور جو حاصل بھی جائز اور پسندیدہ طریقے سے ہوئی ہوں۔

اس حقیقت کی عملی مثال کے طور پر ہم صاحبہ رضی اللہ عنہم کی زندگی سے ایک واقع

پیش کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سارے مدنیہ میں کھجور کے باغوں کے ساحاٹ سے سبکے زیادہ مالدار تھے۔ ان کا سبکے اچھا باغ جوان کو سبکے زیادہ محروم تھا، پیر حاء تھا، یہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف نہیں چاہیا کرتے تھے اور اس کے میٹھے چیزے کا پانی پیا کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت لَنْ تَتَأْوِلُوا إِلَيْرَحْمَةٍ تُنْفِقُوا مِمْسَاكًا تُخْبِتُونَ اتری تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: "یا رسول اللہ! آپ پر پیر آیت اتری ہے اور مجھے اپنے مالوں میں سبکے زیادہ محروم باغ پیر حاء ہے تو آپ میں اس کو اٹھ کر راہ میں صد قدم کرتا ہوں اور اللہ ہی کے ہاں اس کا اجر و صدر چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ! آپ اس کو جس صدمت میں چاہیں لے آئیں ॥"

حضرت نے فرمایا یہ تو ڈر کی پیزی ہے، بڑا نفع بخش باغ ہے، میں نے تمہاری بات سن لی میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو، ابو طلحہ نے کہا ایسا ہی کرو گا یا رسول اللہ! اچھا چند ابو طلحہ نے اس کو اپنے عزیزوں اور چاہزادوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ (متقن علیہ)

اتفاق کے لیے دوسرا بڑا عامم فتنہ یہ ہے کہ بہت سے احسان بھیانا اور بدالہ بھیانا ہے۔ لوگ خرچ کرنے کو تو کرتے ہیں لیکن یہ خرچ کرنا اپنے ذاتی اغراض سے خال نہیں ہوتا، یہ جس کو دیتے ہیں یا تو اس کے کسی احسان کا بدل بھکارتے ہیں یا اس کو اپنے زیر احسان لانا چاہتے ہیں یا کم سے کم ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس دینے سے وہ شکرگزار اور معنوں ہو گا اور اس شکرگزاری اور معنوں نیت کا اثر اس کی طرف سے کسی نہ کسی فائدہ کی شکل میں ضرر نظاہر ہو گا۔ اس قسم کا اتفاق درحقیقت ایک کار و بار کی یعنیت رکھتا ہے۔ یہ خرچ کرنا خدا کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ ایک کار و بار میں نفع کی امید پر سرمایہ لکھنا ہے۔

چنانچہ جہاں کیسی ان کو کسی نفع کی توقع نہ ہو دیاں اول تر وہ اپنا مال لگانے سے بحثتے ہیں لیکن اگر غلطی سے کبھی لگا بیٹھتے ہیں تو اپنا پورا فائدہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ وصول یعنی ہو پاتا تو انتقام لینے پر آتا تھے ہیں اور اس کے لیے ذیل اور چھپھوئے طریقے اختیار کرنے سے بھی باز نہیں آتے شلایہ کہ جس کو انسوں نے کبھی کچھ دیا ہے اس پر احسان جنمائیں گے، اس کو باشکرا اور احسان فراموش قرار دیں گے؛ دوسروں کی موجودگی میں اس کے اوپر اپنے احسانات جنمائیں گے، وقت بے وقت مختلف قسم کے طعنوں اور کچھ کوئی سے صرف اسی کے نہیں بلکہ اس کے بیوی بھوپل کے دل بھی زخمی کر دیں گے، ان کا مطالعہ یہ ہو گا کہ جب ایک مرتبہ انسوں نے اس کے اپر کوئی پھرٹا یا بڑا احسان کر دیا ہے تو پھر مت العمل کے لیے وہ اور اس کا پورا خاندان ان کا خانہزاد علام بن کے کیوں نہ رہا۔

جو لوگ اپنے اتفاق کے پیچے پر بلا لگا یعنی ہیں وہ اپنے اتفاق سے کوئی برکت حاصل کرنے تو الگ رہا اس سے اُٹا نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ حکمیں ان کے سامنے کیے کرانے پر پانی پھر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نذیک ہمدردی اور خیرخواہی کا ایک کلمہ سیم وزر کے اس ڈھیر سے کبھی زیادہ قیمتی ہے جس کو دے کر احسان جنمایا گیا ہو۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

الَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ أَمْوَالَهُؤُلَاءِ  
سَبِيلٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَتِيمُونَ  
مَا أَنْفَقُوا مِنْهُ مَنَّا وَلَا آذَى لَهُمْ  
أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْسَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ  
خَيْرٌ مِنْ حَدَّقَهُ يَتَسْعَى  
آذَى طَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا مُبْطِلُوا

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے  
ہیں، پھر اپنے اس اتفاق کے پیچے اٹھا  
اور ایسا کی آفت نہیں لگا دیتے ان کے  
لیے ان کا صدھر ہے ان کے رب کے  
پاس رہان کے لیے کوئی خوف ہے اور  
نہ وہ غلکین ہوں گے، ہمدردی کا ایک  
کلمہ اور خیش دینا بہتر ہے اس حدود سے  
جس کے پیچے دل آزاری ہو اور اللہ  
بے نیاز اور صلیم ہے۔ اسے ایمان والوں

صَدَاقَاتِكُمْ بِالْمَيْنَ وَلَا ذَمَّى كَالَّذِي  
يُنْفِقُ مَالَكُمْ يَرِي عَلَيْهِ التَّائِسَ وَلَا  
يُؤْمِنُ يَا نَبِيٍّ وَالْيُوْمُ أُلَّا خَرِفَتِكُلَّهُ  
كَمَثِيلِ صَهْرَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَ  
وَأَبْلَى فَتَرَكَهُ صَلَدًا طَلَّا  
يَقْرِئُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا  
كَسَبُوا طَرَالَ اللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ۔

(۲۴۳-۲۴۴، بقرہ)

تم اپنے صدقات کو احسان بتا کر اور دل آزاری کر کے باطل نہ کرو، اس شخص کے ماتھے براپنماں لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اشتر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس شخص کی تسلی ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، اس پر بارش ہو جائے اور اس کو بسا کر چٹان کو چھپیں جو موڑ سے ایسے لوگوں کو ان کی کائن سے کچھ بھی پتے نہ پڑے گا اور اشتر کا فرول کو راہ یا بیان نہیں کتا

احسان بتانے اور دل آزار بائیں کر دینے سے صدقات جس طرح باطل ہو جاتے ہیں، اس کی دو روشنیاتیں تسلی قرآن حکیم نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔

ایوْذَ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَكَ جَهَنَّمُ  
مِنْ نَخِيلٍ وَاعْتَابٍ تَجْرِي مُ  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَمَّا فِيهَا مِنْ  
مُكْلِ الشَّرَاثَتِ وَأَهَابَهُ الْكَبُورُ  
وَلَكَ ذُرْيَةٌ مُنْعَفَاءٌ فَأَهَابَهَا  
إِعْصَامٌ فِي نَارٍ فَأَحْتَرَقَتْ۔

(۲۴۴-۲۴۵، بقرہ)

کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجروں اور انگروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہیں جا رہی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے چل ہوں اور خود اس کا حال یہ ہو کہ اس پر بڑھا پا آچکا ہو لعد وہ نازل پتھر رکھتا ہو اور اس کے باغ پر سوم کا جھونکا آجائے جس سے وہ جل لٹھے۔

اس آفت سے اپنے اتفاق کو بچانے کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اتفاق کرتے وقت اپنے آپ کو ہر قسم کی کاروباری ذہنیت سے پاک کر کے اتفاق کسے بیرونیاں بالکل دل سے نکال دے کر وہ اگر کسی کو پکھ دے رہا ہے تو اس پر کوئی احسان کر رہا ہے۔

اس خیال کے بجائے وہ اس امر واقعی کو ذہن نہیں کر سکے کہ یہ اشتر کا اس کے اوپر بہت بڑا

اسان ہے کہ اس نے اس کو نہ صرف یہ کہ دینے کے قابل بنا یا بلکہ دینے کی توفیق بھی نہیں، دینے کی دست آدمی کا ذہن بوجہنا پا ہمیں اس کی بہترین تعبیر قرآن کے ان الفاظ سے ہو رہی ہے:

إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ كَمْ دُجُّونَ اللَّهُ لَا يُنْزِدُ إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔

یہ تم میں کسی عرض اور شکرگزاری کے خالب نہیں ہیں۔ (دہر)

جو شخص اشہد تعالیٰ کے ہاں اپنے اتفاق کا وہ صلہ چاہتا ہے جو اس کو بااغ بانو کر دے، اس کو قرآن مجید کی یہ آیات ہمیشہ یہی نظر کھنی چاہیں۔

الَّذِي يُؤْتَى مَالَ كَيْفَ يَنْتَرِكُ وَمَا لَأَخْدِدُ  
يَعْنَدَ كَمْ مِنْ يَعْمَلُ تُجْزَى إِلَّا  
أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّيْتُمْ الْأَعْلَى  
وَلَكُسْوَفَ بَرْضَى

بجودی ہے اپنا مال تذکیرہ حاصل کرنے کے لیے اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کو اس کا بدله پہکانا ہو، اس کے پیش نظر صرف پتے پڑھانا عالی شان کی رفتار جوئی ہے اور وہ جلد نہ الہ ہو جائے گا۔ (سمیل)

**اتفاق کو برباد کرنے والی ایک بہت بڑی افت وہ سلوک سائلوں کے ساتھ پڑھنے والا کو کچھ بے تدبیت ہے جو عام طور پر لوگ سائلوں کے ساتھ کرتے ہیں۔**

بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ مانگنے والوں کو کچھ بے تدبیت ہے میں لیکن اتنی جھٹکیاں اور اتنی صلوٰاتیں سن کر دیتے ہیں کہ وہ جتنی بیکی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گناہ اپنے سر پڑھا لیتے ہیں۔ ان جھٹکیوں اور صلوٰاتیں کے پس پر وہ چھپی تو ہوتی ہے عمدًا ان کی طبیعت کی خشت اور بخالت لیکن بعض لوگ اپنی اس حرکت کو جائز ثابت کرنے کے لیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے معاشرے کو گداگری کی ذلیل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اول تو گداگری کی لعنت سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے ممکن ہے اور اگر بالفرض یہ کسی دریمہ میں مفید بھی ہے تو اس کے لیے جھٹکیاں اور صلوٰاتیں ہرگز ضروری نہیں ہیں۔ یہ کام شائستہ انداز اور حکیمانہ طرز پر محبت اور شفقت کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے۔

اس افت وہ بچنے کے لیے آدمی کو قرآن مجید کی یہ ہدایت ہمیشہ یا درکھنی چاہیے اما السائل

## فلانہر رسائل کو جھپڑ کوت

اس میں شبہ نہیں کہ بہت سے سائل ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح پر بھی پڑ جاتے ہیں کہ ان سے جان چھڑان مشکل ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے بھی ملتے ہیں جن کے گذاگری کا پیشہ اختیار کرنے کی کوئی معقول دبہ سمجھو میں نہیں آتی، بعض ایسے بھی ملتے ہیں جن کو دیکھ کر اُدمی صاف سمجھو جاتا ہے کہ یہ بیگھل بندے ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر اُدمی کو قدر تی طور پر غصہ آتا ہے تاہم ان پر غصہ کرنے اور ان کو جھپڑنے اور دھنکارنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے ان کی اصلاح تو ہونے سے رہی، البتہ اُدمی اپنے اخلاقی کو بچاڑنے کا خواہ تراہ ایک سبب پیدا کر لیتا ہے۔ اگر اُدمی کچھ سے لے کے تھے وہ سے اور اگر زندگی سے کسے یا ان کو غیر مستحق سے کچھ تو ہمدردی یا نصیحت کے چند کلمات کے ساتھ ان کو رخصت کرنے کا رشتہ کرے۔

سائلوں کے باشے میں قرآن مجید نے بار بار ہمدردانہ روپ اختیار کرنے اور ان کو زرم جواب دینے کی جگہ ایسے فرمائی ہے اس کا ایک پہلو یہ جی سمجھ میں آتا ہے کہ بعض حالات میں چونکہ ان کا روپ غنیمت دلانے والا ہو سکتا ہے اس وجہ سے بار بار تاکید کی گئی کہ ان کو زرمی سے جواب دو۔ پہنچ دیا تا ملاحظہ ہوں،

الَّذِينَ يَنْفَعُوكُمْ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَالْكَحَارِظَمِينَ الْعَيْنَظَ وَالْعَاكِفِينَ  
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ -

(۱۲۴، آل عمران)

قُولٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْرِبَةٌ خَيْرٌ  
وَسَقَرُورَ كَمَطَابِقَ بَاتٍ كَمَا اور معاونَ كَنَا  
وَمَنْ حَسَدَ قَيْتَ يَتَبَعَّهَا أَذْلَى وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَمِيدٌ -

آنواری ہو

(۶۶۲، بقرہ)

إِنَّمَا تُحِبُّ مَنْ عَنْهُمْ أُبْتَغَاءٌ  
اگر تم ان سے اعراض کرنے پر فوجو ہو جاؤ

سَرَّ حَمَّةٍ مِنْ مَرَابِلَكَ تَرْجُوهَا نَفْلُ  
لَهُمْ فَوْلًا مَيْسُورًا

یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم اور آپ سالوں کے ساتھ زم رویہ اختیار کریں گے تو سارا  
معاشرہ گداگری کا پیشہ اختیار کرے گا۔ لوگ گداگری کی ذلت اس وجہ سے نہیں اختیار کرتے کہ دینے والے  
بڑے خوش اخلاق اور فیاض ہیں، اس کے اسباب بڑے گھرے اور عجیب ہیں۔ یہاں ان کی تفصیل کا موقعہ نہیں  
ہے اگر دیتے والوں کی شرافت اور فیاضی گداگری کو فراغ دیتے والی چیز ہوتی تو آخر تاریخ کے بہترین  
وہد میں مدینۃ نورہ میں یہ صورت حال کس طرح پیدا ہو جاتی کہ لوگ اپنی زکرۃ کا مال گھیوں ہیں یہیے پھر تے  
لیکن ان کو کوئی سائل نہ ملتا۔

گداگری کو روکنا افراد کا کام نہیں، بلکہ حکومتوں کا کام ہے یہ چیز بڑی اہم معاشری و منہجی  
تبديلیوں سے روکی جاسکتی ہے۔ افراد کا کام یہ ہے کہ جب تک یہ صحیح تبدیلی واقع نہیں ہو جاتی وہ مالا  
کے معاملہ میں وہی وش اختیار کریں جس کی قرآن ہدایت کرتا ہے۔

**انتقام و عتاد کا چند بہ** فقرہ بن چایا کرتا ہے۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوا کرتی ہے جب  
آدمی کسی مقدم خدار کے لیے انفاق کرنے سے اس لیے گزر کرتا ہے۔ کہ کسی بدبے اس شخص سے  
نقرت یا وعداوت ہو جاتی ہے۔ فرض کیجیے آپ کا کوئی عزیز یا آپ کا کوئی ٹپڈی سے بستگی مدد ہے،  
اسلام نے انفاق کے لیے جائز ترتیب قائم کی ہے اس کی رو سے آپ کے انفاق کا اولین خدار آپ کا  
وہی عزیز یا آپ کا وہی ٹپڈی ہے لیکن آپ اس عزیز یا ٹپڈی سے کوئی شکایت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے  
اس کو چھوڑ کر دوسروں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، عزیزوں اور ٹپڈیوں کے معاملہ میں ایسا بہت ہوتا  
ہے۔ میں نے بہت سے خوش حال اور دولت مندوگوں کے بھائیوں اور عزیزوں کو دیکھا ہے کہ وہ  
نایت غربت اور پریشانی کی زندگی سپہر کر رہے ہیں لیکن ان کے خوش حال عزیز انفاق کے اہل اور عادی  
ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کرتے ان کو نظر انداز کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اس کی وجہ  
یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے عزیزوں سے کچھ داتی یا غیر واقعی شکایت ہوتی ہیں۔

یہ طرز عمل اس ترتیب کو بالکل بدلتا ہے جو امشاد اور اس کے رسول نے انفاق کے لیے بنائی

ہے۔ یہ حقیقت واضح رہنی چاہئے کہ یہ ترتیب کو اُن اتفاقی پیزیں گے جو اس کے اندر معاشر ہو جائیں۔ گھری سلکتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں جو اس کو بدلتے ہیں تو اس کی شکل میں نوت ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ اگر ہم اپنے اتفاق کا مستحق انسی کو سمجھتے ہیں جن سے ہم راضی اور خوش ہیں اور جن کو اپنے نشانے کے مطابق پا رہے ہیں تو یہ اتفاق بے غرض اتفاق تونز ہوا۔ یہ تو وہی غرضی متدانہ اور کار و باری اتفاق ہوا جس کو ائمہ اور رسول نے باطل اور بے برکت قرار دیا ہے۔

بی شخص اتفاق کی برکتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا اس کو چاہئے کہ وہ اس ترتیب کو نہ ٹوٹتے دے جو ائمہ اور اس کے رسول نے اتفاق کے حق داروں کی بتا دی ہیں اگر اس ترتیب کے رو سے رفتار کرنی ایسا شخص آتا ہے جس سے اس کو کسی بیدبی سے نفرت ہے تو یہی اس کو ضرر دے اس کی غلیظیوں سے درگزر کرے۔ اور پر اُل عزان مالی آیت میں اتفاق کرنے والوں کی صفت جو بیان کی گئی ہے کہ وہ غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلیظیوں سے درگزر کرنے والے ہیں یہی یہی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ درحقیقت یہ ہے کہ جو لوگ غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلیظیوں سے درگزوں عقول کی جیعت رکھنے والے ہیں وہی ہیں جو اتفاق کا مجموع حق ادا کر سکتے ہیں۔

ایک حدیث میں بھی اس اتفاق کا پڑا درجہ بیان کیا گیا ہے جو کسی ایسے عزیز کے لیے کیا جائے جس کے متعلق اتفاق کرنے والے کو یہ بھان ہو کر وہ اپنے دل میں اس کی عدالت چھپائے ہوئے ہے۔

اس اتفاق کا درجہ بڑا ہونے کی کمی و جمیں ہو سکتی ہیں:

ایک سے وجہ تیر ہے کہ اس طرح اتفاق کرنے والا شخص اپنے خواہشات و ہدایات کے بالاتر ہو کر محض ائمہ کی رضا کے لیے ایک اپنے شخص کو اپنا مال دیتا ہے جس کو وہ اپنے مقصد اور اپنی اغراض کے خلاف پاتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس اتفاق میں اتفاق کرنے والے کو ووگوں مثبت برداشت کرنے پڑتی ہے، ایک اتفاق کی، دوسری ایک ایسے شخص کے لیے اتفاق کی جس سے اس کو نفرت ہے۔

تیسرا وجہ یہ ہے کہ اس میں اتفاق کرنے والا صدر حرم کا ایک ایسا حق ادا کر تاہے جس سے

مردہ محبت دانخت کے از بر نوزندہ ہونے کی توقع ہے اور جیس کا زندہ ہونا ائمہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔

ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اُدمی اچھی طرح سمجھ جائے تو وہ اپنے ان قرابت داروں کے اور خرچ کرنے پر سے زیادہ شخص اور راحت محسوس کرے گا جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور تجربہ اس کو بتاتے گا کہ اس انفاق سے زیادہ بار بکت انفاق اور کوئی نہیں ہے۔

**احساسِ برتری** بوسفنس اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم یا اپنے مذہب کے لیے پچھے خرچ کر سکے جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے اختلاف کے آگے پسل ہے ہیں اور بہت سے ضرورت مندوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو اس کے دماغ میں بڑائی اور برتری کی ہوا سما جاتی ہے۔ وہ اپنے اُپ کو دیکھنے والے کی پوزیشن میں پا کر لینے والوں کے مقابل میں بہت ارفع اور بہت اونچا خیال کرنے لگتے ہیں۔ بعض تک ٹروت اپنے اس احساس کو دیکھنے سکتے چنانچہ اس کا انمار مختلف شکلوں میں ان کی زبانوں نے بھی ہونے لگتا ہے اور ان کے اندازہ اطوار بھی اس کی شادی دیتے لگتے ہیں۔

یہ احساس اس جذبہ شکر کی جذبات دیتا ہے جس کو انفاق فی بیل ائمہ کا اصل حمک ہوتا چاہیے اس سے اُدمی مفرد، خلک اور خود پسند بن جاتا ہے تااضع بوجدیت کی روح اور انکسار بوجلدگی کی جان ہے اس کے اندر سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کی احتیاج اور تنگ دستی سے اپنے یہ کوئی مفید سبق حاصل کرنے کے بجائے اس کو ہمتوں پر اپنی آقاٹی اور خداوی جانے کا ذریعہ بنالیتا ہے اور رفتہ رفتہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس بھی جو کچھ ہے کسی اور کام بخشا ہو رہا ہے اور اس کی پختہ شکری اس حقیقت کی بناء پر نہیں ہے بلکہ بھن اس کا فضل و کرم ہے۔

اُدمی اگر اس فتنہ سے اپنے اُپ کو محفوظ رکھنا چاہے ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تیری ہے کہ وہ جس سائک اور محتاج کو بھی دیجئے، اس سے یہ سبق سیکھنے کی کوشش کرے کہ اگر ائمہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو بھی اس کی سائل کی حیثیت میں پیدا کر سکتا تھا اور اگر چاہے تو اب بھی اسی کی صفت میں اس کو کھڑا کر سکتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جب کسی کو کوئی چیز دے تو اس کی ہمیت اس بات کی کوئی

سے رہی ہو کہ اس کا دل خدا کے آگے بھکا ہوا ہے اور اس کو اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ وہ دے رہا ہے بلکہ اس بات پر اپنے رب کا شکر گزار ہے کہ اس نے اس کو دینے کے لائق بنایا اور پھر دینے کی توفیق نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں شاید اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے ۔

الَّذِينَ يُقْيمُونَ الْقِسْلَاةَ وَيُؤْتُونَ جُنَاحَ قَاتِمَ كَتَبَ هُنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ دَعَوْتَنِي أَنْ أَنْهَا دَهْرَ رَأِيكُونَ اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل مجھکے ہوئے ہوتے ہیں ۔

اس آیت کو تلاوت کرتے وقت مجھے بار بار یہ خیال ہوتا ہے کہ یا ان دَهْرَ رَأِيكُونَ درحقیقت ایسا نئے زکوٰۃ کی ہیئت و حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے والے تباہ دولت مزدوں کی طرح اپنی زکوٰۃ کو اپنی شان دولت مندی کی نمائش کا ذریعہ نہیں بناتے بلکہ عبادیت اور بندگی کی جو شان ان کے اندر نماز پیدا کرتی ہے وہی شان ان کی زکوٰۃ میں بھی ہوتی ہے وہ کسی کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں تو مغرونوں کی طرح تن کر نہیں دیتے بلکہ خدا کے شکر گزار اور خالق اس کو دل کی طرح سر جھکا کر دیتے ہیں ۔

**ریا اور نمائش** ریا اور نمائش بھی ایک بہت عام فتنہ ہے جس میں انفاق کرنے والے لوگ بتکا ہوتے ہیں۔ یوں تو ریا نیک کے ہر کام کو برپا کرنے کے لیے اس میں آگھستی ہے لیکن بعض کاموں میں اس کے لحاظ آنسے کے بیٹے سے موافق ہیں۔ ان میں سے یہ انفاق کا کام بھی اپنے اندر ریا اور نمائش کے درآنے کے لیے ڈری گنجائش رکھتا ہے۔ اول تو آدمی کو اپنی دولت مندی کے اشتمار کی یوں ہر ڈری خدا ہش ہوتی ہے۔ پھر اگر یہ اشتمار اس کو دین کے دارطے سے عاصل ہر زیکر کا نہ ہے پھر اپنے بہت سے شرکت کے مریض اس میدان میں آگ کو دتے ہیں اور دوہ مختلف قومی اور مذہبی کاموں میں محض اس خیال سے پیسے دیتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ ان کی مالداری اور ان کی دینداری دونوں کی دھوم پچ جائے بعض اوقات اس میں بعض دوسرے سے انغراص و مقاصد بھی شامل ہو جاتے ہیں شلائی حکام وقت کی خوشبو دی اور پھر ان سے استفادہ یا کسی سخن کی صدارت یا ریاست یا کسی علیقہ کو خوش کر کے اس کا درٹ حاصل کرنا، اس طرح سے یہ ایک کار و بار بھی بن جاتا ہے۔ بعض لوگ اس نمود نمائش کے استئنے ریا ہوتے ہیں کہ وہ اس کام میں

کبھی ایک پریسہ بھی خرچ کرنے کے روادار نہیں ہوتے جہاں سفر فرست اخبار میں ان کو اپنے  
نام کے آنے کی توقع نہ ہوا اگرچہ وہ کام قی الواقع کتنا ہی صفتی ہے۔ بعض دینے سے پہلے اس بات  
کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کے دینے کی شرط ہو جائے۔ بعض ان سے بھی چار قدم آگے ہوتے  
ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دیں دلائیں تو کوڑی نہیں لیکن ان کے دینے کی چار دلگ عالم میں دھرم بھی جائے  
اس زمانے میں اس اخباری اتفاق کے لیے ایک وجہ جواز بھی تلاش کر لی گئی ہے وہ یہ کہ اس سے  
دوسروں کو اتفاق کی ترغیب ہوتی ہے۔ اس میں شہنشہ کے اس سے یہ فائدہ حضور حاصل ہوتا ہے  
کہ اس سے دوسروں کو بھی اس مقصد کے لیے خرچ کرنے کی تحریک ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں اس  
اتفاق بالآخر کا طریقہ ہی لمبی ایک رہ گیا ہے جس پر لوگوں کو اعتماد رہ گیا ہے۔ مگر اخراج کرنے والی ایسا  
اب ہر چیز سے غائب ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ دینی ملکوں میں بھی اب اس کا کچھ اعتماد نہیں رہ گیا  
ہے حالانکہ ترکیہ نفس کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خصوصاً جو شخص اپنے اتفاق کر رہا  
کی اکائی سے پاک و پیکھا چاہتا ہے اس کے لیے تو اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ جتنا علاویہ  
خرچ کرے اس سے زیادہ پوشیدہ طور پر خرچ کرے جس کی اس کے رب اور اس شخص کے سوا  
کسی کو بھی نہ رہے ہو جس کے لیے اس نے خرچ کیا ہے۔

## روزہ اور آفاتِ روزہ

شہوات اور خواہشات نفس کے غلبہ سے انسان کے اندر خدا سے جو خلفت اور اس کے حدود سے بچنے پر وائی پیدا ہوتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے ائمۃ تعالیٰ نے روزے کی عبادت مقرر کی ہے اس عبارت کا لشان تمام قدیم مذاہب میں بھی متساہیہ، بالخصوص ترکیہ نفس کے بچنے طریقے بھی غلط یا صحیح، دنیا میں اب تک اختیار کیے گئے ہیں، ان سب میں اس عبادت کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے مذاہب کے مطابعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے ادیان میں اس عبادت کی آداب و شرائط اسلام کی نسبت کی زیادہ سخت تھیں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس وجہ سے اس نے اس کی ان پابندیوں کو نبٹا نہ کر دیا ہے جو انسان کی عام طاقت کے محمل سے زیادہ تھیں، جن کو صرف خاص خاص لوگ ہی برداشت کر سکتے تھے۔

یہ عبادت نفس پر شاق ہونے کے اعتبار سے تمام عبادات میں سے زیادہ نکایاں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی کی حریت و اصلاح میں اس کا عمل بڑا مشکل ہے۔ یہ انسان کے نیات کو روشن اور مزید درود و حمایات پر کنڈ ڈالتی اور ان کو رام کرتی ہے، اس وجہ سے یہ عین اس کی فطر کا تفاہ ہے کہ اس کے مزاج میں سختی اور درشتی ہو۔

نفس انسانی کے جو پہلو سے زیادہ زوردار ہیں، ان میں شہوات، خواہشات اور خدبات

رسکے زیادہ نمایاں ہیں۔ ان کی فطرت میں اشتعال، رسمیجان اور جوش ہے اس وجہ سے ارادہ کو ان پر پانے کے لیے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ریاضت اتنی سخت اور سہمت شکن ہے کہ قدیم مذہب کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کے بہت سے طالبین مرے سے اس چیز ہی سے ماروس ہو گئے کہ ان کو قابو میں بھی لا یا جا سکتا ہے۔ پرانی پنجہ انوں نے ان کو قابو میں لانے اور ان کی تربیت کرنے کے بجائے ان کے لیکن تکلم ختم کر دینے کی تدبیریں سنپیں اور اختیار کی۔ لیکن اسلام ایک دین فطرت ہے اور یہ پھریں بھی انسانی فطر کے لازمی اجزاء میں سے ہیں، جن کے بغیر انسان کے شخصی اور روشنی تقاضوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اس نے ان کو ختم کر دینے کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ ان کو قابو میں کر کے ان کو صحیح راہ پر لگانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کو قابو میں کرنا ان کو ختم کر دینے کے مقابل میں کمیں زیادہ مشکل کام ہے۔ ایک مذہب زور گھوڑے کو ختم کر دینا ہر تو اس کے لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت تھیں ہے، بندوق کی ایک گولی اکٹھدا کر دینے کے لیے بالکل کافی ہے لیکن اگر اس کو رام کر کے سواری کے کام میں لانا ہے تو یہ مقصد ایک ماہر شہسوار بڑی ریاضتوں بڑی مشقوں اور بہت سے نظرات کا مقابلہ کرنے کے بعد ہی حاصل کر سکتا ہے۔

روزے کی عبادت اسلام نے اس لیے مقرر فرمائی ہے کہ ایک طرف نفس انسانی کے یہ رکش رجحانات غنیمت ہو کر احتدال پر آئیں اور دوسری طرف انسان کی قوت ارادی ان کو دبانے اور ان کو حدودِ الٰہی کا پابند بنانے کے لیے طاقت در ہو جائے۔ اپنے اس دو طرفہ عمل کے بعد سے تزکیہ نفس کے نقطہ نظر سے جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس عبادت کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی رہائش کی بھی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ ہم کیا اختصار کے ساتھ پہلے اس کی چند برکات کا ذکر کریں گے اس کے بعد اس کی آفات بیان کریں گے۔

## روزے کی برکات

**روحِ ملکوتی کی آزادی** انسان کی روحِ ملکوتی کو نفسانی خواہشات کے دباؤ سے بہت بڑی حد تک آزادی حاصل ہر جاتی ہے۔ ہماری روحِ ملکوتی کا حقیقی میلان ملائیکی طرف ہے۔ وہ فطری طور پر خدا کے تقریب، ملائکر سے تشبیہ اور سخیا سے تجربہ کی طالب ہے اور مادی ذمگی کے تقاضوں میں گرفتار رہنے کے بعد نئے اعلیٰ عقلی و اخلاقی مقاصد کے لیے پرواز کرنا چاہتی ہے، روح کے ان تقاضوں اور نفس کے ان مطالبات میں جو خواہشات و شهوات پیدا ہوتے ہیں، ایک گھلا ہرا تصادم ہے۔ ان دونوں میں اکثر تصادم رہتا ہے، اور اس تصادم میں اکثر بیت خواہشات و شهوات ہی کو ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہشات و شهوات کے مطابق پوسے کرنے سے انسان کو کوئی فوری لذت حاصل نہیں ہوتی بلکہ اسے اس کے لیے انسان کو اپنی بہت سی فوری لذتوں اور رامتوں کی قابلی دینی پڑتی ہے۔

یہ صورت حال ظاہر ہے کہ روح کے فطری میلانات کے بالکل خلاف ہے۔ اگر یہی حالت عورت تک باقی رہ جائے اور روح کو اپنی پسند کے بیدافل میں بھر لانی کا کوئی موقع نہ ملتے تو پھر

نہ صرف یہ کہ اس کی قوت پروازِ ختم ہو جاتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ وہ خود بھی ختم ہو جاتی ہے

روزہ اس صورت حال میں رفتاً وقتاً تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ یہ ان چیزوں پر بہت سی پاندیاں عاید کر دیتا ہے جو شهوات و خواہشات کو تقویت پہنچانے والی ہیں۔ اس سے ادمی کا کھانا پینا اور سوتا سب کم ہو جاتا ہے۔ دوسری لذتوں اور دلچسپیوں پر بھی بعض پاندیاں عاید ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نفس کے شموال میلانات کی جو لانیاں بہت کم ہو جاتی ہیں اور روحِ ملکوتی کو اپنی پسند کے بعد اذن میں جو لانی کے یہ موقعِ عل جاتا ہے۔

روزے کی یہی خصوصیت ہے جس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ ایک خاص نسبت دی ہے اور روزہ دار کو خاص اپنے ہاتھ سے اس کے روزے کی جزا دیتے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پول تو اسلام نے جتنی عبادتیں یہی مقرر فرمائی ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کیے ہیں لیکن روزے کی دنیا اور لذات دنیا کو تزک کر کے بندہِ خدا سے قرب اور اس کے ملکوں سے نسبت اور تشبیہ حاصل کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اور اس کو شمش بیں جو شفقتِ اٹھاتا ہے وہ روزے کے سوا کسی دوسری عبادت میں اس قدر غایاں نہیں ہے۔ فقر، دردشی، مازہد، تجرد، تزک دنیا اور بقتل الی اللہ کی جو شان اس عبادت میں ہے وہ اس کا خاص خصہ ہے بلکہ یہ کہنا بھی بے چانیں ہے کہ ریاضت جس حد تک اسلام میں حاصل رکھی گئی ہے اور جس درجہ تک اللہ تعالیٰ نے تربیتِ نفس کے لیے اس کو پسند فرمایا ہے، اسلام میں یہی عبادت اس کا مظہر ہے۔ اگر ایک بندہ روزے کی ساری مشقیں اور پاندیاں نی احیقت اسی لیے جیلتا ہے کہ اس کی روح اس عالمِ ناسوت کی ولدوں سے آزاد ہو کر عالمِ لاہوت کی طرف پرواز کر سکے اور اسے خدا کا قرب حاصل ہونے کے تو بلاشبہ اس کی یہ کوشش اسی چیز کی مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ خاص نسبت دے اور اس کی جزا خاص اپنے ہاتھوں سے دے۔ ایک حدیث کا تصریح ملاحظہ ہو جس میں یہ حقیقت بیان ہوئی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ این آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے بلکہ روزہ۔ یہ بیرے یہی ہے اور میں ہی اس کا بعد مہ دوں گا۔ روزہ ایک

پھر ہے جب کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نشوت کی کوئی بات کرے اور نشور و شفیر کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے کام لکھ جائے تو اس سے کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس خدا کی قسم ہمیں کی مٹھی میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی برا اشہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوبیوں سے زیادہ پستردیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ کھوتا ہے اور دوسرا اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملنے گا ॥

ایک دوسری روایت میں اسی سلسلہ کی کچھ اور باتیں ہیں جن سے حدیث کی اصل حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے ہم اس روایت کا ترجیح بھی یہاں دیے دیتے ہیں،

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ اپنا کھانا اور پینا اور اپنی نیتیوں سے میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہمیں اس کا بدله دوں گا۔ نیکیوں کا بدله دس گناہ ہے مسلم کے الفاظ ہیں کہ) نیکیاں دس گنے سے لے کر سات سو گنے تک بڑھائی جائیں گی مگر روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہمیں اس کا بدله دوں گا۔ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے قربان کرتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو افضلار کے وقت حاصل ہوتی ہے، دوسری خوشی اس کو اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی اور اس کے منہ کی برا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوبیوں سے زیادہ پستردیدہ ہے ॥

ان دونوں روایتوں کو ملا کر خود کرنے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنی طرف خاص نسبت پہلو دی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خاص اپنے ہاتھ سے اس کا بدله دینے کا مطلب کیا ہے؟

اس کو اپنے لیے خاص قرار دینے کی وجہ توجیہ ہے کہ بتندہ محض اس کی رضا اور اس کا فرب حاصل کرنے کے لیے اپنی ان خواہشوں اور اپنے نفس کے ان مطالبات کو ترک کرنے ہے جن کا

اس کے نفس پر سے زیادہ غلیرہ ہوتا ہے اور جن کے اندر اس کی تمام مادی خوشیاں اور تمام نامادی لذتیں  
سمٹی ہوئی ہیں، ان لذتوں سے محض اشہر کی رضاکے لیے نہ مدد اینا اشہر تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے  
کہ اس نے محبوبیت کا ایک خاص درجہ دیا اور فرمایا کہ بندہ روزہ خاص یہ ہے لیے رکھنا ہے اور  
یہی خوشی کے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی لذتوں کو چھوڑنا ہے۔

خاص اپنے ہاتھ سے بدلہ دیتے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے بدلہ کے لیے اشہر تعالیٰ  
کے باں بندھے ہوئے قاعدے ہیں۔ حالات و خصوصیات کے سحاظ سے ہر نیکی کا دس گنے سے  
لے کر سات سو گنے تک بدلہ ملے گا۔ مثلاً فرض کیجیے ایک نیکی ساز گارعالت کے اندر کی گئی ہے  
اور دوسرا نیکی مشکل حالات کے اندر کی گئی ہے یا ایک نیکی پوری اختیاط اور پوری نگہداشت کے  
ساتھ کی گئی ہے اور دوسرا نسبتاً کم اہتمام اور کم نگہداشت کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس طرح کے  
فرق و اختلاف کو محوظر کھتے ہوئے ہر شخص کی نیکی کا جواہر ہونا چاہیے وہ مذکورہ بالا اصل کے  
لطابق خدا کے رحیمی درج مہر کا اور ہر حق دار اس اجر کو حاصل کرنے گا میکن روزے سے کی جو عبادت  
ہے اس کا صلہ اشہر تعالیٰ نے اس فارمولے کے تحت نہیں رکھا ہے بلکہ اس کا فیصلہ کسی اور  
فارمولے کے مطابق ہو گا جس کا علم صرف اسی کو ہے جب جزا دینے کا وقت آئے گا، اُن  
دہی اس کو سمجھو لے گا اور خاص اپنے ہاتھ سے ہر روزہ رکھنے والے کو صلدے ہے کاجن عبارت  
کی جزا کے لیے یہ کچھ اہتمام ہو گا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ انسان دزمیں سب کا مالک اس کی کیا  
جز افے گا۔

**سُدَّ الْبَابِ قُدْسَةُ** اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ اُدمی کے اندر قدرت کے جو بڑے بڑے  
در دانے ہیں، روزہ ان کو بہت بڑی حد تک بند کر دیتا ہے اُدمی  
کے اندر قدرت کے بڑے در دانے جیسا کہ ایک سے زیادہ حد تیوالی میں تقریباً ہے بطن اور  
فرج میں، انہی کے سبب سے اُدمی نہ جانے خود کتنی ہلاکتوں میں بتکا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی  
نہیں معلوم کتنی ہلاکتوں میں بتکا کرتا ہے۔ یہی راستے ہیں، جن سے شیطان، انسان پر سے  
زیادہ حملہ اور ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان کی خاکھت کر کے تو کچھے عکر اس نے اپنے آپ  
کو دزد خ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے

جنت کی خاتمت دی ہے جو شخص ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی خاتمت دے سکے، ایک حدث کا ترجمہ ملاحظہ ہے:-

سمل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان چیزوں کے باسے میں مجھے خاتمت دے سکے جو اس کے دونوں گتوں اور دونوں ٹانگوں کے دریان ہیں، میں اس کے لیے جنت کا خاص بنتا ہوں ॥

(تفقیع علیہ)

روزہ ان کی حفاظت کا بہتر سے بہتر انتظام کرتا ہے۔ انسان کے لیے روز میں ہر کھانا پینا ہری حرام نہیں ہو جاتا بلکہ رُختنا بھگ کرنا، بھوٹ بولنا، نیبیت کرنا اور بغیر ضروری باتیں لینا بھی روزے سے کے مقدمے کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے سے میں صرف شوانی تقاضوں کا پول کرنا ہری حرام نہیں ہو جاتا بلکہ وہ تمام چیزوں بھی روزے سے کے مشاء کے خلاف ہیں جو اس کے شوانی میلانات کو شہد دینے والی ہوں۔ روزہ خود بھی ان میلانات کو ضعیف کرتا ہے اور روزہ دار کو بھی بہایت ہے کہ وہ حقیقی الامکان اپنے آپ کران تمام مواقع سے دور رکھے جماں سے اس کے ان رجمانات کو خدا بسم پستخ جانے کا امکان ہو۔

نقۃ کے دروازوں کے بند ہو جانے سے اس کے لیے ان کا مول کا کننا نہایت آسان ہو جاتا ہے جو خدا کی رضا کے کام ہیں اور جن سے جنت حاصل ہوتی ہے اور ان کا مول کی راہیں بند ہو جاتی ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف کام ہیں اور جن کے سیدبے آدمی دوڑخ میں پڑے گا۔ شیطان اس کے آگے بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی ساری چوکڑی بھول جاتی ہے وہ ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو روزہ دار پر چھکہ کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں ملتی۔ یہی حقیقت ہے جو ایک حدیث شریعت میں اس طرح بیان ہوئی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا ہبہ آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوڑخ کے دروازے بند کر دیے جانتے ہیں اور شیاطین کو بڑاں پینا دی جاتی ہیں ॥

(تفقیع علیہ)

**قوتِ ارادی کی تربیت** روزے کی نیس کی برکت یہ ہے کہ یہ آدمی کی قوتِ ارادی کی بہترین طریقہ پر تربیت کرتا ہے۔ شریعت کے حدود کی پابندی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی کی قوتِ ارادی نہایت مضبوط ہو، بغیر مضبوط قوتِ ارادی کے یہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی شخص شهوات و جذبات اور خواہش کے غیر عقلی ہیجانات کو دبا سکے اور جو شخص ان کے مفڑھ ہیجان کو دبا سکتا، اس کے لیے یہ محال ہے کہ وہ شریعت کے حدود کو قائم رکھ سکے، ایک ضعیف اور پلے ارادہ کا آدمی ہر قدم پر ٹھوک کھا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز اس کے غصہ کی اشتعال والانے والی سامنے آجائے گی وہ بڑی آسانی سے اس سے مغلوب ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی طمع پیدا کرنے والی چیز اس کو اشارہ کر دے گی وہ اس کے پسیچے لگ جائے گا اور جہاں بھی کوئی چیز اس کی اکساتے والی نظر آجائے گی وہی وہ پسل کے گر پڑے گا۔ اس طرح کی ضعیف قوتِ ارادی کا انسان دنیا میں عزم و همت کا کوئی چھوٹ سے چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتا۔ پھر جایکہ وہ شریعت کے حدود و قوتوں کی پابندی کر سکے۔ بالخصوص شریعت کا وہ حصہ ہر انسان کو پرائیور سے روکتا ہے۔ مضبوط صبر کا مطالبه کرتا ہے۔ اس صبر کی مشق روزے سے حاصل ہوتی ہے اور پھر اسکی صبر سے وہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے۔

پناہ نامہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَهْنَأْنَاكُمْ  
عَلَيْكُمُ الظِّيَامُ كَمَا كُتِبَ  
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَسْتَعِفُونَ -

اسے ایمان وال اتم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پیدے دگد پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔

”تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو“ یعنی تاکہ صبر اور برداشت کی تربیت سے تمہاری قوتِ ارادی مضبوط ہو اور تمام ترغیبات و تحریکات اور تمام مشکلات و مرانع کا مقابلہ کر سکے تم شریعت کے حدود پر قائم رہ سکو۔

یہی قوتِ حومن کے بالخیں وہ ہتھیار ہے جس سے وہ شیطان کے ہر دارکروک

سکتا ہے جو دہ خواہشات و جذبات اور شهوات کی راہ سے اس پر کرتا ہے پھر انہوں کی نیا و پر اس حدیث میں جو اور گذر چلی ہے، روزے کو ایک ڈھال کیا گیا ہے اور روزہ دار کو یہ ڈھال استعمال کرنے کی تعلیم یوں دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے گام گوچ یا لٹائی جبکہ امشروخ کرنے کے تو اس سے لکے کر میں روزے سے ہوں۔

**حدیثہ ایثار کی پروردش** | روزے سے انسان کے اندر چند ہر ایثار کی بھی پروردش ہوتی ہے، اور یہ چند ہر انسان کے ان اعلیٰ چیزوں میں سے ایک ہے جن سے ہزاروں نیکیوں کے لیے اس کے اندر موجودت پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب روزے میں بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنی دوسرا خواہشوں کو بھی دبانے پر مجبور ہوتا ہے تو اس طرح اسے غربہ جوں، نافر کشیوں، محابوں اور مظلوموں کے دفعہ درد اور ان کے شب دروز کا اندازہ کرنے کا بذات خود موقع ملتا ہے وہ بھوک اور پیاس کا مزاچکھ کر بھوکوں اور پیاسوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ان کی ضرورتوں اور تکلیفوں کو سمجھنے لگتا ہے اور پھر قدر تی طور پر اس کے اندر یہ چند بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو کے روزے کا یہ اثر ہر شخص پر اس کی استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے پڑتا ہے، کسی پر کم پڑتا ہے، اسی پر زیادہ، لیکن عین شخص کے روزے میں روزے کی تخصیصات موجود ہیں۔ ان پر روزے کا یہ اثر پڑنا ضرور ہے جن کا چند ہر ایثار کمزور ہوتا ہے روزہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی متحرک کر دیتا ہے اور جن کے اندر یہ چند بھی فکی ہوتا ہے، ان کے لیے تو روزوں کا عینہ اس جذبے کے باہر نہ کریے گیا موسم بہار ہوتا ہے، ہمارے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمیتیاں اور فیض بخشیاں یوں تو ہمیشہ ہی جاری رہتی تھیں، لیکن رمضان کا عینہ تو گیا آپ کے جو دو کرم کا موسم بہار ہوتا ہے این عباں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو عام حالت میں بھی سبکے زیادہ نیاض تھے لیکن رمضان میں تو گیا آپ سراپا جو دو کرم ہی بن جاتے ॥“ (متون علیہ)

**قرآن مجید سے مناسبت** | روزے کی حالت میں ادمی کی مناسبت قرآن مجید کے ساتھ بہت سے دنیاوی مشاغل کا بوجھ روزہ دار کے اور پر سے اُڑا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ نفس کے میلانات و رنجانات میں جیسا کہ ہم اور

بیان کر چکے ہیں روزے کے سلسلے بڑی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خاموشی، غلوت، ایغز دری نہ و فیتوں سے علیحدگی اور ترک و انقطاع کی ایک مخصوص زندگی بھروسہ دار کو حاصل ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت اور اس کے تدبیر کے لیے کچھ خاص مذہبیت رکھتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اُماری جب اپنے غارِ حراء میں مختلف تھے، نیز قرآن کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے میتھے کو منتخب فرمایا اور اس بخشت کی نکرگزاری کے لیے اس پر کہیتے ہیں روزے رکھنا امت پر فرض قرار دیا۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ رمضان میں حضرت ہجراء میں علیہ السلام ہر شب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرات قرآن مجید کا نماز کرنا کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے اور جتنا قرآن مجید نازل ہو، چکا ہوا ہوتا تھا اس کا نماز کرنا فرماتے تھے۔ رمضان کی راتوں میں تراویح میں قرآن مجید کے سنتے اور سنانے کی جو اہمیت ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے۔ یہ ساری باتیں شہادت دینی ہیں کہ قرآن مجید کو روزوں سے اور روزوں کو قرآن مجید سے گھری مناسبت ہے۔

**تبیل الی اللہ** | روزے کی اصل غایت دل، دماغ، ہیسم اور روح سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی پیروزی کو قرآن مجید میں تبیل الی اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ مقامِ ادمی کو روزے سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے روزے کے ساتھ اعیانات کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اعیانات اگرچہ ہر شخص کے لیے رمضان کے روزوں کی طرح ضروری پیش نہیں ہے بلکہ یہ اختیاری عبادت ہے لیکن تزکیہ نفس کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر رمضان کے آخری عشرہ میں جب کہ روح میں تجدو و انقطاع اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی ایک خاص کیفیت و حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ ادمی اعیانات میں بیٹھ جائے تو اس سے روزے میں کا جو حاصل مقصود ہے وہ کمال درجہ حاصل ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں جو اہتمام فرماتے تھے، اس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس طرح فرماتی ہے:

عجب رمضان کا آخری عشرہ آتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے، اپنے اہل و عیال کو بھی شب بیداری کے لیے اٹھاتے اور کمرکس کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھڑے ہوتے ॥

## روزے کی آفات اور ان کا علاج

روزے کی برکات میں سے یہ چند برکات ہم نے بیان کی ہیں لیکن یہ برکتیں اس صورت میں ظاہر ہوتی ہیں جب اُدمی اپنے روزے کے کو ان تمام آنفتوں سے محفوظ رکھ سکے جو روزے کو خراب کو دینے والی ہیں۔ یہ آنفتوں میں چچوٹی اور ڈڑی بیت سی ہیں۔ ہم تذکرہ نفس کے طالبوں کی واقفیت کے لیے بیس چند ڈڑی آنفتوں کا ذکر کریں گے اور ساختہ ہی ان کے وہ علاج بھی بتائیں گے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں تاکہ جو لوگ اپنے روزوں کی حفاظت کرنا چاہیں، ان سے اپنے اپ کو جو پاس سکیں۔

**لذتیں اور سخنواروں کا شوق** | روزے کی عبادت جیسا کہ اور پ واضح ہو چکا ہے، اس

یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب اُدمی اس مقصد کو روزوں میں محفوظ رکھے اور اندر غبتوں کو حتی الامکان دبائے جن کے اُنگے اپنی روزمرہ زندگی میں وہ اکثر بے بس ہو جایا کرتا ہے اور یہ سبی اس کو بہت اسی اخلاقی اور شرعی کمزدروں میں مبتلا کر دیتی ہے لیکن بہت سے لوگ اس مقصد کو بالکل محفوظ نہیں رکھتے، ان کے نزدیک روزے کا میتھے خاص کھانے پینے کا عینہ ہوتا ہے۔ بعض

وگل کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اس میتے میں کھانے پینے پر جتنا بھی خرچ کیا جائے، خدا کے ہاں اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس خیال کے وگ اگر خوش قسمتی سے کچھ خوش حال بھی ہوتے ہیں تو پھر تو فی الواقع ان کے بیسے روزوں کا عینہ کام و دہن کی لذتیں سے منبع ہونے کا موسم بیمار ہی بن کے آتا ہے روزہ روزے کی پیدا کی ہوئی بیوک اور پیاس کو نفس کشی کے بجائے نفس پر دردی کا ذریعہ بنایتے ہیں۔ وہ صبح سے لے کر شام تک طرح طرح کے بچوں کے پروگرام بنانے اور ان کے تیار کرانے میں اپنے وقت صرف کرتے ہیں اور افطار سے کہ سختیک پنی زبان اور اپنے پیٹ کی تواضع میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ میں ایک بیسے بزرگ سے والفت ہوں جو ایک دیندار ادمی تھے میکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ رمضان کا میتے کھانے پینے کا فاصح عینہ ہے چنانچہ اس نظریہ کے تحت وہ رمضان کے میتے کے بیسے کھلتے پیتے کی مختلف چیزوں کا اہتمام بنت پہلے سے شروع کر دیتے تاکہ رمضان میں ان کے تنوعات سے منبع ہو سکیں۔

ہر شخص چانتا ہے کہ روزہ کھانے پینے کے شوق کو اکسادیتا ہے میکن روزے کا مقصود اسی اکساہٹ کو دیانا ہے ز کہ اس کی پروردش کرنا، اس وجہ سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی وقت کا کو باقی رکھنے کے لیے کھانے پیے تو فرور، میکن ہرگز ہرگز کھانے پینے کو اپنی زندگی کا موضوع نہ بنائے جو کچھ بغیر کسی خاص مرگہ می اور بغیر کسی خاص اہتمام کے غیر اجتنبی اس کو صبر و شکر کے ساتھ کھانے اگر کوئی پیز پسند کے خلاف رہتا آئے تو اس پیچھی گھر والوں پر غصہ کا اظہار نہ کرے۔ اگر کسی کو خدا نے فراہوت دخوشی دی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خود اپنے کھانے پینے پر اسراف کرنے کے بجائے غریب اور میکن روزہ داروں کی مدد اور ان کو کھلاتے پلانے پر خرچ کرے۔ اس چیز سے اس کے روزے کی روحاںیت اور برکت میں بڑا اضافہ ہو گا۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاضی کا جو حال ہوتا تھا، اس کے متعلق ایک حدیث اور پرکرہ چکی ہے۔ روزہ افطار کرنے کے ثواب سے متعلق ایک حدیث کا ترجیح ملاحظہ ہو:

زید بن خالد جمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کر لیا، اس کے لیے روزہ دار کے پرایرا جرہ ہے اور اس سے روزہ دار کے اجر میں کوئی واقع نہیں ہوگی ॥ (دریاضن الصاحبین بحوالہ ترمذی)

## اشتعال طبیعت

آدمی جب بھوکا پیاسا ہو تو قاعدہ ہے کہ اس کا غصہ رپھر جایا کرتا ہے جہاں کوئی بات ذرا بھی اس کے مزاج کے خلاف ہوئی تو اس کو غصہ آجائتا ہے روزے کے مقاصد میں سے یہ چیز بھی ہے کہ جن کی طبیعتوں میں غصہ زیادہ ہو وہ روزے کے ذریعہ سے اپنی طبیعتوں کی اصلاح کریں۔ لیکن یہ اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آدمی روزے کو اپنی طبیعت کی اس خرابی کی اصلاح کا ذریعہ بنانے نے اگر وہ اس کو اپنی طبیعت کی اصلاح کا ذریعہ نہ بنانے نے تو اس بات کا بڑا اندریشہ ہے کہ روزہ اس پرلو سے اس کے لیے مفید ہوتے کے بجائے الٹا مضر ہو جائے یعنی اس کی طبیعت کا اشتعال کچھ اور زیادہ ترقی کر جائے جو شخص اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کی طبیعت میں اشتعال پیدا ہو یا کوئی دوسرا اس کے اندر اس اشتعال کو پیدا کرنے کی کوشش کرے تو وہ فوراً اس بات کو یاد کرے کہ "آن اصل کریث" میں روزے سے ہوں اور یہ چیز روزے کے مقصد کے لائل نافی ہے یہ طریقہ اختیار کرنے سے آدمی کو غصہ پر قابو پانے کی تربیت ملتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ تربیت اس کے مزاج کو بالکل مدل دینی ہے یہاں تک کہ اس کو اپنے خطر پر اس حد تک قابو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ وہیں استعمال کرتا ہے جہاں وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن بہت سے لوگ اسلام کے بتائے ہوئے اس اصول کے بالکل خلاف روزے کو سپر کے بجائے توارکے طور پر استعمال کرنے کے عادی بن جاتے ہیں یعنی روزہ ان کے لیے فیط نفس کے بجائے اشتعال نفس کا بہانہ بن جایا کرتا ہے۔ وہ یہوی پر با بھول پر، تو کروں پر، تاختوں پر، ذرا فراسی بات پر پرس پڑتے ہیں، صلوٰۃ میں منانے ہیں، کا لیاں بکھتے ہیں اور بعض حالات میں مار پیٹ سے بھی دریغ نہیں کرتے اور پھر اپنے اپ کو اس خیال سے تسلی میں پیتے ہیں کہ کیا کریں، ہونے میں ایسا ہو ہی جایا کرتا ہے۔

جو لوگ اپنے نفس کو اس راہ پر ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے روزہ اصلاح نفس کا ذریعہ بننے کے بجائے ان کے بگھر سے ہوئے نفس کو بجاٹنے کا مرید ہدایت بن جایا کرتا ہے جو روزہ بھا وہ رکھتے ہیں وہ ان کے نفس مشتعل کے لیے چاکٹ کا کام دیتا ہے جس سے ان کا نفس تیز سے تیز تر ہوتا جاتا ہے۔ جو شخص روزے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسے چاہیے

کہ دہ روزے کو اپنے نظر کے بیسے ایک لگام کے طور پر استعمال کرے اور ہر استعمال دلاتے تھے والی آت کو اسی پیر پر وصیت کے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ تجربہ گواہی دیتا ہے کہ اگر روزے کے احترام کا یہ احساس طبیعت پر غالب رہے تو اُدمی بڑی طرحی ناگوار بات بھی برداشت کر جاتا ہے اور اس پر کوئی احساس کمتر تھا بلکہ اس طرح کی آزمائش کے بھتنے موقع اس کے سامنے آتے ہیں وہ ہر موقع پر یہ عسوں کرتا ہے کہ اس نے شیطان پر ایک فتح حاصل کی ہے اور اس فتح کا احساس اس کے عضو کو ایک راحت واطینان کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔

**دل بہلانے والی چیزوں کی غیبت** کہ بہت سے لوگ جن کے ذہن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے، کھاتے پینے اور زندگی کی بعض دوسری وچھپیوں سے علیحدگی کو ایک محرومی سمجھتے ہیں اور اس محرومی کے بندے سے ان کے بیسے دن کاٹنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل کا حل وہ یہ پیدا کرتے ہیں کہ بعض ایسی وچھپیاں تلاش کر لیتے ہیں جو ان کے خیال میں روزے کے مقصد کے منافی نہیں ہوتیں مثلاً یہ کہ تماش کھیلتے ہیں، نادل، ٹرائے اور انسان نے پڑھتے ہیں، ریڈیو پر گانے سنتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کر گپیں ہانتے ہیں اور بعض میں چلے سینما کے ایک آدھشو دیکھ آتے میں بھی کوئی قباحت نہیں خیال کرتے۔

ان سبے زیادہ سهل الحصول وچھپی بعض لوگ یہ پیدا کر لیتے ہیں کہ اگر ایک روساٹھی یا سرا جائیں تو کسی کی غیبت میں لپٹ جاتے ہیں۔ روزے کی جوک میں اُدمی کا گورنمنٹ بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اور تجربہ گواہی دیتا ہے کہ اگر روزہ رکھ کے اُدمی کو یہ لذیذ مشغله میں جلنے تو اُدمی جھوٹ، غیبت، ہجو اور اس قسم کی دوسری آفتوں کا جن کو حدیث میں حصاد اللسان سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک انبار لگادیتا ہے اور اسی مشغله میں صحیح سے شام کر دیتا ہے۔ یہ پہنچیں اُدمی کے روزے کو بالکل بیباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔

ان کا ایک علاج تو یہ ہے کہ اُدمی خاموشی کو روزے کے ضروری آداب میں سے بچے ہم اور بیان کرچکے ہیں کہ پچھلے مذاہب میں چبپ رہنا بھی روزے کے شرائط میں داخل تھا پرانپنچہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام روزہ کی حالت میں صرف اشارة

سے بات کرتی ہیں۔ اسلام نے روزہ داروں پر یہ پابندی تو عالم ہنسیں کی ہے لیکن اس پابندی تو عالم ہنسیں کی ہے لیکن اس پابندی کے نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آدمی روزے سے میں اپنی زبان کو چھوٹ دے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی ضروری اور مفید بات کرنے کا موقع پیش آ جائے تو کے دل نے غاموش رہے چو شخص ہر قسم کی اناب پشاپ اور جھوٹی سچی باتیں زبان سے نکالتا رہتا ہے، حدیث شریعت میں آیا ہے کہ پھر اس کا محض کھانا پینا چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بالکل بے نتیجہ کام ہے،

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چھوٹ پولنا اور چھوٹ پول کرنانہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ نے کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کر دہ اپنا کھانلپینا چھوڑ دے“

(دریاض الصالحین بحوالہ بخاری)

اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ آدمی کا جو وقت محمر کے کام کاچ اور معاش کی صرف فیتوں سے فاصل بچے اس کو مفید چیزوں کے مطالعہ میں صرف کرے۔ روزے سے تجے دلzel کے لیے قرآن شریعت، حدیث شریعت، سیرت نبوی، سیرت صحابہ اور تزکیہ نفس کی کتابوں کے مطالعہ کا ایک بافلاغدہ، پروگرام بنالے خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے تذکرہ پر پابندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور صرف کرے۔ قرآن مجید کو روزے کی عبادت کے ساتھ بخیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، ایک خاص نسبت ہے۔ اس منابع سے سب سے روزہ دار پر قرآن کی خاص بیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر روزہ دار کو ان برکتوں کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

قرآن مجید اور ما ثور دعاؤں کے یاد کرنے کے لیے بھی آدمی کچھ نہ کچھ وقت ضرور سکاے اس طرح قرآن مجید اور مستون دعاؤں کا آدمی کے پاس اہستہ اہستہ ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، جو آدمی کے جمع کیے ہوئے مال دا باب کے ذخیروں سے کمیں زیادہ قسمی ہوتا ہے۔

ریا کا فتنہ جس طرح تمام عبادتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح روزے کے ساتھ ریا بھی لگا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ روزے سے تو رکھتے ہیں، بالخصوص رمضان کے روزے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں بہت کچھ دخل اس احساس کو بھی ہو کر روزے سے ذر کچھ تو پاس پڑوں

کے روزہ داروں میں نکو بننا پڑے گا سیا لوگوں میں بودیندار کی کا جرم ہے وہ جاتا رہے گا۔ یا پسند  
محض اور خاندان و اے ہی بُرُّ اماں میں گئے، اس طرح کے مختلف احساسات ہیں بوجو رمضان کے روزوں  
میں شرکیب بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ خلوصِ نیت آکردا اور مشتبہ ہو جایا کرتا ہے جو روزے کی  
حقیقی رپرتوار کے لیے فروری ہے اس لیے کہ جب نبدرے میں خدا کی خوشخبری کے سوا کوئی اور  
محکم شرکیب ہو جائے پیر روزہ وہ روزہ نہیں ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ :

”بَنْدَهُ مَيْرَے لَيْسَ إِلَيْهِ أَبْنَى كَهَانَانَا مِنْ أَنْ أَرْأَى شَوْرَتْ حَچُوْرَتْ تَاهِيَّةً  
هَيْسَ إِلَيْهِ أَسْ كَاهَدَلَهْ دَوْلَهْ گَاهَ“

بلکہ پیر روزہ اسی غرض کے لیے ہو جائے گا جس غرض کے لیے رکھا گیا ہے۔

اس آنکھ کا اول علاج تو یہ ہے کہ آدمی اپنی نیت کو ہر دوسرے شامیہ سے حتی الامکان پاک  
کرنے کی کوشش کرے اسے ہر روز اسے سوچنا چاہیے کہ اپنے روزے کو نام برکتوں سے محروم  
کر کے ناقہ کے درجہ میں ڈال دینا انتہائی نادانی ہے، آخر یہ مشقت الٹھانے کا حاصل کیا ہو اجب  
کہ یہ دنیا میں بھی وجہ کلفت اور آخرت میں بھی وجہ پُبال بنتے۔ اس طرح نفس کے سامنے  
بار بار روزہ کی قدر و قیمت واضح کرنی چاہیے تاکہ اس کی نگاہ دوسروں کی طرف کے ہٹ کر خدا کی  
طرف متوجہ ہو۔

اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ آدمی رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی  
رکھے اور اس میں دوپتاوں کا اہتمام کرے، ایک حتی الامکان انخفا کا، یعنی ان کا اشتمار دینے  
کی کوشش نہ کرے۔ دوسری اخذال یا میاز روی کا یعنی نفلی روزے اسی حد تک رکھے جس حد  
تک خواہشات و شوافت کو حالتِ اخذال پر لانے کے لیے ان کی ضرورت ہو اگر اس حد سے  
آدمی بڑھ جائے گا تو وہ پھر خود بھی ایک فتنہ ہے اور اسلام نے اس سے بھی بڑی شدت کے  
ساتھ روکا ہے۔ روزے کی جیشیت ایک دوا کی ہے، دو اگر ضرورت سے زیادہ استعمال  
کر ل جائے تو بسا اوقات یہ خود بھی ایک بیماری بن جاتی ہے۔

## حج اور آفات حج

ہم نے تمیروں والی فصل میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نفسِ انسانی کی جملہ خراہیوں کی اصلاح کے لیے حج کی جیشیت ایک اکیرہ جامع کی ہے۔ اس ایک ہی نسخہ کے اندر ان تمام نسخوں کے اصل اجزاء جمع کر دیے گئے ہیں جو اسلام نے الگ الگ امراض کے لیے الگ الگ تجویز کیے ہیں۔ یہ نسخہ ایک جامع نسخہ بھی ہے اور اگر اس کو صحیح طریقہ پر استعمال کیا جائے تو اس کا مفید مرزا بھی ایک حصتی اور قطعی شے ہے۔ پہلے ہم اس کی جامیعت پر روشنی ڈالیں گے۔

حج جامع عبادات ہے اس عبادت کی جامیعت کا ایک پہلو قریب ہے کہ اسلام نے ختنی عبادتیں بھی مقرر فرمائی ہیں۔ سب کی رو جا اس کے اندر جیسا کہ اور پر عرض کیا گیا، موجود ہے، اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ ہو:

نماز دین کی تمام عبادتوں میں اساس اور ستون کی جیشیت رکھتی ہے اب اُنیں دیکھیے کہیے عبادت حج میں کس طرح شامل ہے ہے

سب سے زیادہ واراضح پہلو قریب ہے کہ حج کا سفرِ ادمی کرتا ہی ہے اس محضر کے لیے جو ہماری تمام نمازوں اور ہماری تمام مسجدوں کا مرکز ہے۔ نماز کے لیے پہلا محضر جو اس زمین پر تغیر ہوا ہے

وہ بیت ائمہ ہے اور ہماری تمام مسجدوں کو مسجد ہونے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ اسی گھر کی  
بدولت حاصل ہوا ہے۔ اس وجہ سے جب کوئی شخص حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اس فر  
کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس مرکز نماز کی طرف رخ کر کے وہ زندگی پھر کا ز پڑھتا رہا ہے، وہ چاہتا ہے  
کہ اب یعنی اس مرکز میں پہنچ کر نماز پڑھے اور جس مسجد نے دنیا کی تمام مسجدوں کو مسجدیت کا اعزاز بخشنا ہے  
میں اس مسجد میں جا کر سجدہ رینہ ہو۔

علاوہ ازیں حج میں نماز کی وہ قسم بھی شامل ہے جس کے ادا کرنے کی سعادت اُدمی کو حج کے سرا اور  
کسی دوسرے موقع پر حاصل ہتی ہیں ہو سکتی۔ میری مراد طواف سے ہے میر قرآن مجید کے اشارات  
اور احادیث کی تصریحات کے ثابت ہے کہ طواف بھی درحقیقت نماز ہے۔ یہ نماز صرف خانہ کعبہ کے  
ارڈگر دبی ادا کی جاسکتی ہے، اس کے سوا دنیا میں اور کمیں بھی ادا نہیں کی جاسکتی۔ اس نماز میں بندہ جب  
جبراً سود کو، جس کو اُنہوں نے تعالیٰ کا انتہا کیا ہے، پورہ دے کر، یا اس کو ہاتھ لگا کر بار بار اپنے رب کے  
ساتھ اپنے محمد اطاعت کی تجدید کرتا ہے اور پھر خانہ کعبہ کے ارد گر دوھائیں پڑھتا ہو اس طرح پھوٹا  
ہے جس طرح شمع کے ارد گر در پرواز پھوٹ کر تکہ ہے تو غافل سے غافل انسان کی روح بھی وجہ میں آجائی ہے  
پھر جب اُدمی خیال کرتا ہے کہ اس کی یہ نماز مشاہد ہے اس نماز سے ہو فرشتے عرش الہی کے ارد گر در پرو  
ڑ رہے ہیں تو ایک صاحبِ دل کے دل کی جو حالت ہوتی ہے، یا ہو سکتی ہے وہ حالت کسی طرح بھی نکلوں  
میں بیان نہیں کی جاسکتی۔

نماز کے بعد اسلامی عبادات میں دوسرا درجہ زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں انفاق کا ہے۔ غدری بھی  
تو علوم ہو گا کہ حج کے اندر انفاق کا بھی ایک خمیاں حصہ ہے۔ حج کے لیے زادروہ کا انتظام، عام  
و گول کے لیے جن کی آمدنی کے ذرائع بالکل محدود ہیں۔ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، باخوص اس  
زمانے میں تو یہ مسئلہ مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے، اس لیے کہ ایک طرف وسائل سفر اور ضروریات سفر  
میں سے ہر چیز گراں سے گراں تر ہو گئی ہے، ثانیاً جماں کی حکومت اور وہاں کے عام باشندے  
بھی جماچ کو ائمہ کے عہد بھنسنے کے بجائے ان کو اپنے لیے آمدی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور تمام ممکن  
راستے ان کو نزدیک بار کرنے کے اختیار کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں جو شخص حج کے لیے نکلتا ہے، بالعموم  
انہی آمدی کے موجود ذرائع سے کم از کم زمانہ سفر تک کے لیے اگر یہ تکمیل نہیں تو بہت بڑی حد تک درست کشی

ہو کر نکلنے ہے۔ اس طرح وہ اپنی اگھلی اور پچھلی کلائی کا بڑا حصہ اپنی اصلاحِ نفس کے اس جہاد پر صرف کر دیتا ہے۔

اسی طرح حج میں روزے کی روح بھی موجود ہے۔ روزے کی اصلی روح ہم بیان کر چکے ہیں کہ ترک والقطعان اور تمثیل الی ائمہ ہے۔ یہ چیز حج کے اندر بذریعہ کمال موجود ہے۔ احرام میں جو پابندیاں ہیں وہ اگرچہ تمثیل کے اعتبار سے روزے سکل پابندیوں کے مقابل بلکی ہیں لیکن اپنے مزاج اور اپنی کیفیت کے لحاظ سے ان سے زیادہ سخت ہیں۔ روزے میں تہذیب اور درویشی کی ہر جملہ کا جو جملہ ہے وہ حج میں با شخصی صفات احرام میں اپنے اس آخری درجہ تک پہنچ جاتی ہے جس درجہ تک اسلام نے اس کو پہنچ کیا ہے۔ اس سے آگے رہبانیت کے حدود شرعاً ہو جاتے ہیں جو اسلام میں ناجائز ہے۔

نماز، انفاق اور روزہ یہ اسلام میں مستقل عبادات کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اپنے دیکھ دیا کہ حج میں ان سب کی روح شامل ہے لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادتیں بھی ہیں جن کا مطلب اسلام نے صفت خاص خاص حالات ہی کے اندر کیا ہے۔ شلام، ہجرت اور حجاء۔ یہ عبادتیں اگرچہ مہنگائی ہیں لیکن جب ان کا وقت آجاتا ہے تو دین میں ان کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ دوسرا نام عبادتوں پر ان کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ خود کیسے ہے تو معلوم ہو گا کہ حج کے اندر ان مہنگائی عبادات کی بعض شانیں بھی موجود ہیں۔

ہجرت کی اصل حقیقت فرار الی ائمہ ہے یعنی بدی سے نیکی کی طرف، شر سے خیر کی طرف اور شیطان سے رحمان کی طرف بساگا۔ حج میں دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ ہجرت کی یہ حقیقت بھی موجود ہے جو شخص حج کیلئے نکلتا ہے، اپنے بھر کو، اپنے دلن کو، اپنے اعزاز اور اقرباً کو اپنے بستے کے دنیوی مقادات و تعلقات کو چھوڑ کر نکلتا ہے۔ اپنے پروردگار کی خشنودی اور اپنے خالق و مالک کی رفاقت کے سما کوئی اور غرض و غایت اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ اگرچہ بھر اور دلن سے یہ نکلنے عامہ حالاً میں عارضی ترتیب ہی کے یہے ہوتا ہے لیکن جہاں تک گناہ اور محیبت کی زندگی کا تعلق ہے اس کو ہمیشہ کے یہے بدل دینے کا عزم صیمہ قریحہ کی اصل حقیقت اور یعنیہ یہی حقیقت ہجرت کی بھی ہے پنا پنچھنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

اللہ اجر من هجر ما کان تھی اللہ حیثی مهاجر اللہ کے نہ دیک دے ہے

حتماً

جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے امداد نہ

روکا ہے۔

اسی طرح خود بھی یہ تو معلوم ہو گا کہ جہاد کی بھی بیت سی خصوصیات حج کے اندر موجود ہیں۔ یہ لذج کے پورے زمانے میں ادمی کی زندگی خدا کے پاہی کی زندگی بن جاتی ہے جو اپنا پاں کا مشکلہ اور تھوڑا سا زادراہ اپنے ساتھی ہے ہنسنے۔ ایک محاقد سے دوسرے محاقد تک پہنچنے کے لیے ہر وقت چاقی چونہد رہتا ہے میکن خاص کر حج کے پنڈ دنل کے اندر تو اس کی زندگی کو اگر قشیرہ دی جا سکتی ہے تو فی الواقع ایک جاہد کی زندگی ہی سے دی جا سکتی ہے۔ مکر سے منی، منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر منی، وصول پہ، پارش ہو، تزالد باری ہو، ہر حالات میں، ہر صورت، وقعتِ معینہ پر پہنچا ہے ترجموں کی پرواہ ہے نرپیاس کی، نہ کوں کا احساس ہے نہ سردی کا، نہ تجیہ کی تلاش ہے، نہ لستر کی، خدا کی پسندیدہ وردی جسم پر ہے اور بیک بیک کی صدائیں پر، نہ زندگی کی پرواہ ہے اور نہ موت کا اندیشه، بلکہ سچ پوچھیے تو یہ بلت بھی کوئی مبالغہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ عرفات اور مزدلفہ کے پیدائشیں مرتبے کی جتنی آرزویں میں ہوتی ہے اتنی جیتنے کی آرزو نہیں ہوتی۔ اس ترقی کے زمانہ میں بھی قدم قدم پر ادمی جان کے ظریے سے دوچار ہوتا ہے اور ہر سی وسال کے لوگوں کو مرتبے دیکھتا ہے جو ان مقامات پر مرتے ہیں اور اپنے احرام کی دوچادری کے ساتھ انہی پتھریں زمینوں میں دفن کیے جاتے ہیں۔

منی میں جمرات پر جو لکریاں ماری جاتی ہیں ان کو کوئی شخص چاہے شیطان پر لکریاں مارنا سمجھے یا اب ہر کوئی فوجوں پر جو آسائی سنگ باری نہوں تھی، اس کی یادگار سمجھے، ہر حال پر لکریاں مارنا اللہ کے دشمنوں پر لعنت اور سُبْکاری کی ایک عظیم یادگار ہے اور ائمہ و رسول نے اس یادگار کو حج کے مناسک میں اسی لیے محفوظ کر دیا ہے تاکہ حج، مسلمانوں کی روح بہاد کو بھی زندہ اور تابدہ رکھے۔

حج کی یہی خصوصیت ہے جس کے بعد سے یہ عورتوں کے لیے حقیقی جہاد کی حیثیت رکھتا ہے پختانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جہاد کی الحج (تمہارا بھار حج ہے)۔

حج انسان پر ہر راہ سے اثر انداز ہوتا ہے جو کی جائیت کا درس اپنے ہونے کے حقنے راستے بھی ہیں یہ ان تمام راستوں سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، آدمی کو سمع، بصر اور قواد کی جو صلاحیتیں اور قابلیتیں بھی قدرت کی طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ ان سب کو بیدار کر دینے کے لیے اس کے اندر بیتر سے بہتر اسباب و محرکات جو کرنے گئے ہیں جو مخنوی اور روحانی تحقیقیں انسانی کے ساتھ انسان کی عقول کی گرفت میں نہیں آتی ہیں، ان کو حج میں شعائر کی صورت میں محسوس و مشود کر دیا گیا ہے تاکہ وہ انسان کے حواس کی گرفت میں آسکیں۔ حج کے مناسک سے کیے بعد دیکھو گزتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی پڑی تاریخ اپنے تمام آثار و نشانات کے ساتھ آدمی کی آنکھوں کے ساتھ پھر جاتی ہے یہ گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دھرست اکمل نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ یہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نازیں پڑھیں یہ پھر اسی ہے جس کے دامن میں باپنے اپنے محبوب بیٹے کے قربانی کی۔ یہ میدان میں جہاں ائمہ نے دعوت الی اشہد کے نعلے دیے انہیں کلہنگا ہاتھوں کے ساتھ سے بھی آجاتی ہیں۔ جن چیزوں کے ذکر تک فر ہوئی ریتوں پر انہوں نے دعائیں اور مناجاتیں کیں۔ یہ ساری چیزوں ایک ایک کر کے صرف حافظہ ہی میں نہیں تازہ ہو جاتی ہیں بلکہ لگانگا ہاتھوں کے ساتھ سے بھی آجاتی ہیں۔ جن چیزوں کے ذکر تک فر بزرگوں کی زبانی ہی سنتے ہتھ، یا صرف کتابوں کے صفات ہی میں پڑھتے ہتھے، ان کو آنکھوں سے بھی دیکھ دیتے ہیں۔ اس وقت فی الواقع آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ "شنیدہ کے بود مانند دیدہ" اس نے کتنی سمجھی بات کہی ہے۔

بس اوقات ان مقامات و مناسک سے گزتے ہوئے جب آدمی کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ کیا عجب کہ جہاں وہ اس وقت بھڑا ہے عین اسی جگہ کبھی حضرت ابراہیم و اکمل علیہ السلام بھی سکھ رہے ہوئے ہوں یا جس جگہ وہ سجدہ کر رہا ہے اسی جگہ کو ان کے سجدوں کی تقدیس بھی حاصل ہوئی ہو تو اس وقت کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ قیام کیا چیز ہے اور سجدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پھر اس سے زیادہ موثر ہمارے لیے بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار و مقامات ہوتے ہیں۔ آدمی چیز پر چیز پر ان کے نشانات اور ان کے کارناموں کو ثابت

ویجھتا ہے جب شر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں کل گھنیوں اور جس کے کوچول میں آپ دعوت حق نے کہ پھرے اس کے حرم میں آپ نے غازیں ڈھینیں، جس کی پشاڑیوں میں آپ کے مٹوں کی اضافی گونجیں، جمال آپ نے اللہ کے دین کی خاطر طرح طرح کی تخلیقیں حصیلیں، جس مجبوب شر کو اللہ کے لیے آپ نے چھوڑا اور پھر جس شر کو آپ نے اپنی دعوت کا مرکز بنایا، جن بیدانوں اور پشاڑوں میں آپ نے اپنی دعوت کا مرکز بنایا، جن بیدانوں اور پشاڑوں میں آپ کے صحابہ نے اعلاءٰ نے حق کے لیے جگیں کیم، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے جب انسان کی لگا ہوں کے سامنے آتی ہیں تو اسلام کی پوری تاریخ اس طرح اس کے سامنے مشہود ہو جاتی ہے گویا اس کے اور اسلام کے دور اول کے دریں زمان و مکان کا کوئی پردہ اب سر سے سے حاصل ہی نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عبادت کا ان پروجائز پڑتا ہے وہ کسی بھی دوسری عبادت کا نہیں پڑتا اور پھر بالکل اسی کے برابر کی دوسری تحقیقت یہ ہے کہ جو شخص حج سے مخدوم ہوتا ہے پھر اس کی اصلاح کسی بھی دوسری چیز سے نہیں ہوتی۔ اسلام میں اس کی چیختیت روشنی امر امن کے آخری علاج کی ہے جس کو اس سے فائدہ نہیں ہوا اس کے لیے کوئی دو باہمی نافع نہیں ہوگی۔

یہاں پہلے ہم حج کی برکتیں بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کی آفات اور ان کے علاج سے بحث کریں گے۔

# حج کی برکتیں

**رُوحانی کایاکلپ** | جس طرح بسمی امراض کے علاج کی قسموں میں علاج کی ایک قسم وہ ہے جس کو کایاکلپ سمجھتے ہیں، اسی طرح روحانی امراض کے علاج کے لیے صحیح ہے۔ یہ علاج کا ایک ایسا کورس ہے جس کو اگر اس کے تمام شرائط کے ساتھ کوئی شخص آخر تک نباهے جائے تو وہ تمام روحانی بیماریوں سے صحت یاب ہو کر بھیک اس فطرة اشدر پر پسچ جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور جس پر وہ چاہتا ہے کہ یہ مرے۔ یہ حقیقت متعدد حدیثوں سے واضح ہوتی ہے لیکن ہم انقصار کے خیال سے حرف ایک حدیث کا توجہ یہاں دیتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے:

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے حج کیا اور اس دوران میں نہ اس نے کوئی شہوت کی بات کی اور نہ خدا کی کسی نافرمان کا ارتکاب کیا وہ تمام گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو گیا جس طرح وہ اُس دن تھا جس در اُس کی ماں نے اُس کو جانا تھا۔“

**بُحْرَةٌ كَيْ حَمَانَتْ** | جو چونکہ اسلام اور بھرت کی طرح اُدمی کے تمام گناہوں کو فنا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس شخص کے لیے جس کو حج میرور کی سعادت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف کی بُحْرَةٌ کی حمانت ہے:

”بُحْرَةٌ إِبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کے بعد اُدمی اگر دوسرا عمرہ کرے تو یہ عمرہ درمیان کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اور حج میرور کا حصلہ تو بُحْرَةٌ سے کچھ کم ہے، ہی نہیں بلکہ

(متقى علیہ)

حج میرور سے مراد وہ حج ہے جو ائمہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کی آنکھی سے پاک ہو، اس حج کے سعلن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بُحْرَةٌ بُحْرَةٌ سے کم کچھ ہے ہی نہیں ।“

**بُحْرَةٌ عَمَّا شَدَّ** | حج کے ذریعے بندہ ائمہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عمد کا زبر نو استوار کر لیتا ہے جو ایک مسلم کی حیثیت سے اس نے اپنے رہے کیا ہے۔ یہ تجدید عمد اگرچہ ہر توپ و استغفار سے ہوتی ہے لیکن اس تجدید عمد کا جو عزم دار اداہ حج میں ظاہر ہوتا ہے وہ عام توپ و استغفار میں نہ ظاہر ہوتا ہے اور نہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اُدمی اس تجدید عمد ہی کے لیے رخت سفر باندھتا ہے اور ایک طویل سفر کی صورتیں بروائش کر کے اپنے رہے دروازے پر حاضری دیتا ہے۔ یہ بھر سے نکلن اور اس مقصد کے لیے سفر کرنا ہی بجا ہے خود ایک بہت بڑی پیروزی ہے۔ یہ بندے کے اخلاص اور اس کی صدقہ طلبی کا ایک نمائش واضح نشان ہے اور اس سے خدا کی رحمت اس کے لیے جوش میں آتی ہے۔

پھر جب وہ جو اس وہی پوسرہ دیتا ہے یا اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو گویا خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عمد بندگی و اطاعت کی تجدید کرتا ہے۔

اسی طرح بُحْرَةٌ علیہ السلام کی قربانی کی جگہ پر پیغام بران کی قربانی کی سنت کو تمازہ کرنا درحقیقت اپنی زندگی کو از سرخدا کی نذر کرنا ہے کیوں کہ قربانی کی اصلی حقیقت اپنے آپ کو خدا کی حاگی اور پروردگر میں دیتا ہے اور یہی حقیقت اسلام کی بھی ہے۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو خدا کے پروردگر دینے کے میں یعنی خدا کی مرضی اور اس کی پستہ کے آگے اُدمی کی

اپنی کوئی مرہنی اور راضی کرنے پر نہ باتی عورتہ جائے۔ آدمی اپنی مجبوب سے مجبوب اور عزیز نے سے عزیز نہ بھیز  
بھی خدا کے لیے ہر وقت قربان کر دیتے کے لیے تیار رہے۔ اس حقیقت کو واقعہ کی شکل میں اور اس  
فلسفہ کو عمل کے جامزوں پر کی تاریخ انسانی میں جس نے پیش کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی  
انہوں نے اپنے مجبوب پیشے حضرت امیل علیہ السلام کو خدا کے لیے قربان کر دیتے کا عزم باجزہ  
ظاہر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ فی الواقع انہوں نے اپنا سب کچھ بغیر کسی استثناء اور تحفظ کے خدا  
کے حوالے کر دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اقدام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے  
ان کو مسلم کے لقب سے نوازا اور جس پیٹے کو انہوں نے قربان کیا اس کی نسل سے ایک امت  
مسلم پاک خاص خصوصیت یہ تھی کہ وہ دین اسلام کی حامل پسندے اور اس اسلام کی اصل حقیقت  
کو اپنے اندر پر ابراز نہ کرنا اور تابندہ رکھنے کے لیے اس اپنے اپنی قربانی کی یادگاری کرتے ہیں اور  
ان کی طرف سے ان کے اس عمل سے اس بات کا اظہار بھی میں شامل کیا گیا ہے جو اثر کے بندے  
اس مقدس قربان گاہ تک پہنچ پاتے ہیں وہ وہاں پہنچ کر اس قربانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں  
جو مشکلات اور موانع کے بعد سے وہاں نہیں پہنچ پاتے وہاپنی اپنی بستیوں ہی میں اس قربانی کی  
یادگاری کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر اسلام کی اصل حقیقت کا شور بھی زندہ رہے اور ان کی طرف  
ان کے اس عمل سے اس بات کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ وہ اصل قربان گاہ پر پہنچ کر اس قربانی کی سعادت  
حاصل کرنے کی تاریخ ہے۔

اس قربانی کی اصل حقیقت خدا کی راہ میں جان کی قربانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے  
فضل اور اپنی صربانی سے ہیں اس کا موقع دیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی جاگہ کی قربانی کر کے اپنی جا  
کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی رعایت ہے  
اور اس نے جو جاگہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں جب وہ خدا کی راہ میں ہمارے بدل کی  
یہیں سے قربان ہوتے ہیں تو یہ سبکے بڑی خدمت ہے جو ہماری وہ انجام دیتے ہیں اور یہ سب  
سے زیادہ اشرف مقصد ہے جس میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں جو لوگ ہر چیز کو صرف معاشی پہلو  
سے ناپتے ہیں وہاں چیزوں کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، اس وجہ سے ان پر طرح طرح کے انفراداں  
کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھیڑوں بکریوں کی قدر و قیمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے

زیادہ ہے۔

غرضِ حج کے موقع پر ان میں سے ایک ایک پھر زمینے بندہ اپنے آپ کا اس جمیعت میں پیش کرتا ہے کہ گویا وہ ایک مفرد غلام تھا اور اب پھر وہ اپنے مالک و اُنقار کے دروازے پر از خود حاضر ہوا ہے تاکہ اس کے ساتھ اپنے عمدہ غلامی کو از سر زد استوار کرے اور ہمیشہ اس کی فرمان برداری اور اطاعت کرتے رہنے کا اقرار کرے۔

**امتن کی وحدت کا مظاہرہ** اور پہم نے حج کی جو رکتبیں بیان کی ہیں۔ یہ افراد کو ان امتن کی وحدت کا مظاہرہ کل انفرادی جمیعت میں حاصل ہوتی ہیں لیکن حج کے اندر بعض نسبت اہم اختلافی رکتبیں بھی ہیں مثلاً یہ کہ صرف حج ہی کا ایک موقع ایسا موقع ہے جس میں یہ حقیقت موجود ہے جبی زیادہ روشن ہو کہ ہر شخص کے ساتھ آجائی ہے کہ اس امتن کے مختلف اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والی اور ان کو بناں ہر صورت بنانے والی پیزو را صل کیا ہے؛ زبانیں مختلف، قومیتیں اور خلیفیتیں مختلف، امصار و بلاد مختلف، ذوق اور طبائع مختلف، بیاس مختلف، عدیہ ہے کہ نمازیں ادا کرنے کے طریقے بھی بعض ظواہر میں ایک دوسرے سے مختلف لیکن بیک بیک کی صد اسپ کی زبانوں پر، احرام کی چادریں رجکے جھونپڑ، بیت اللہ پر شار اسپ پردازہ وار، ایک ہی امام کی اقتداء میں بیت اللہ کے ارد گرد اسپ مصروف رکوع و سجدہ۔ اختلاف کے اندر وحدت کا اور گونا گونی دلوں قلنی کے ساتھ ہم اُنگلی و ہمرازگلی کا جو مظاہر حج میں ہوتا ہے وہ صرف حج کے ساتھ مخصوص ہے جس کو حج کی سعادت حاصل نہ ہوئی ہو وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

## آفاتِ حج اور ان کا علاج

لیکن حج کی رکتبیں جیس طرح نہایت غلیظ الشان ہیں اسی طرح اسی کے لیے آفیں بھی نہایت خطرناک ہیں۔ جو شخص اس کی رکتوں سے بہرہ درہونا چاہے ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان آفتوں سے اچھی طرح مافقہ ہو اور ان سے اپنے حج کو محفوظ رکھنے کی پوری پوری کوشش کرے۔ جو شخص اپنے حج کو ان آفتوں سے محفوظ رکھ سکے اس کا حج کی رکتوں سے بہرہ مند ہونا تو درکنار، اکثر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی و اخلاقی انبار سے پہنچ سے بھی زیادہ صریح ہو جاتا ہے اور چونکہ حج کی حیثیت میں کہ اور پر بیان ہو چکا ہے، آخری علاج کی ہے، اس وجہ سے اس علاج کے ناکام ہو جائے کے بعد ایسے شخص کو دوسرا علاج منفرد بھی مشکل ہی ہے ہوتا ہے۔

ہم یہاں اختصار کے ساتھ حج کی آفتوں اور ان کے علاج پر بھی روشنی ڈالیں گے۔

**شواں باعیں** قرآن مجید میں جہاں حج کی آفات کا ذکر ہوا ہے وہاں سب سے پہلے شواں باعیں مذکور ہیں کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے:

فَمَنْ فَرَضَ فِي هُنَّ الْحَجَّ  
پس جو حج کے میں میں میں اپنے اور پر حج کو  
فَلَأَسْرَافَتْ وَلَا فَسْوَقَ وَلَا  
داحب کرے زاس کے لیے حج کے

## ِچدَالَ فِي الْحَجَّةِ -

دوران میں شوائیں، خدا کی نافرمانی کی

(باقیں اور لڑنا بھگ دنا جائز نہیں ہے۔ ۱۹۷-بقرہ)

قرآن نے یہاں حج کی تین آنکھیں کا ذکر کیا ہے اور ان میں رفت یعنی شوائیں باقیں کو مقدم رکھا ہے اس ذہر سے ہم بھی رسپے پہلے اسی پر گفتگو کریں گے۔

قرآن مجید نے اس خطہ سے رسپے پہلے غالباً اس وجہ سے آگاہ کیا ہے کہ سفر حج و حج میں شلوان قلعوں میں پڑھانے کے ادمی کے لیے بہت سے محکمات جمع ہو جاتے ہیں۔ اول تو سفر میں ہوتے کے وجہ سے ادمی کی طبیعت کا وہ اختلال باقی نہیں رہتا جو اسے حضرتی زندگی میں حاصل ہوتا ہے۔ ثانیًا عسی پیغمبر سے ادمی کو روک دیا جائے۔ ادمی کی طبیعت کے اندر اس پیغمبر کے لیے اکاہٹ بڑھ جاتی ہے اور شیطان ادمی کی طبیعت کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کو شتش کرتا ہے۔ ثالثاً سفر کی وجہ سے اور اس سے زیادہ احرام کی وجہ سے عورتوں کے پردے کا وہ رکھ رکھا و قائم نہیں رہتا جو عام حالات میں قائم رکھا جاتا ہے۔ رابعًا بسوں میں، راستوں میں، نشکنے اور داخل ہونے کے دروازوں میں، مطافت میں، سعی میں، حرم میں، زیارت پر، غریب کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی ہے جہاں سخت اڑو حرام اور کشکش کی حالت میں غیر حرم عورتوں سے تصادم نہ ہونا ہو۔ خامسًا اس زمانہ میں تقریباً اکثر ملاک میں مسلمان عورتوں پر دے کی قیود سے آزاد ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے حرام ہی کی حالت میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی ہر سن و سال کی عورتیں ہر بچوں پہنچتی پھرتی نظر آتی ہیں اور بعض حالات میں صرف پرنسے ہی کے حدود نہیں بلکہ شرم و ہیا کے عدو دبھی توڑتاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ان حالات کے اندر اگر کوئی شخص پوری طرح متینہ اور ہوشیار رہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اور کچھ نہیں تو قدم قدم پر اپنی نکاح کو ضرور آکو دہ کر سکتا ہے، اور جب نکاح آکو دہ ہو گئی تو دہ اپنے دل کو آکو دہ ہونے سے کس طرح بچا سکتا ہے؟

اس آنکھ سے اپنے اپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ادمی جب سفر حج پر نکلے تو جس مقدار میں مادی زاد را کا انتظام کرے اس سے زیادہ مقدار میں روhani زاد را یعنی تقویٰ کا اہتمام کرے۔ ادمی کھر سے بی عنز بایخزم کر کے اٹھئے کہ اس پر سفر میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہرجوئی بڑی حد کی پائندی کرنی ہے۔ اس عنز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم کریے اور کسی

وقت جبی اس سے غافل نہ ہوتا کہ شیدھان کو اس کے انداز پنی و سورہ انداز یوں کے لیے رکھنے کا کوئی وقت نہ ملے۔ اپنی بحکاہ حصی الامکان خیپ رکھنے کی کوشش کرے اس لیے کہ بحکاہ ہی دل میں اترنے کا راستہ ہے۔ اگر آدمی اس دروازے کو چوپٹ کھلانہ چھوڑے تو کچھ تو بست سی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد آدمی کو یار بار اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کہ یہ اشد کاشش ہے یہ اشد کا حرم ہے اور یہ محترم میمنہ ہے، ان میں ہر چیز کی حرمت کا تقاضا ہے کہ نہ دل بھکر، نہ بحکاہ اور اگر خوسں کرے کہ طبیعت پر قابو نہیں پا رہا ہے تو اس پر روزے کا بھی اضافہ کرے تاکہ فاسد رجمانات کا زور ڈالے اور طبیعت پر تبتل اور میلان الی اللہ عالیٰ جائے۔ عرفات میں میدانِ حشر کا تصریح غالب رہنا چاہیے جس طرح میدانِ حشر کے متعلق احادیث میں وارد ہے کہ لوگ بُنگ اٹھیں گے لیکن حالت ایسی ہرگی کہ کسی کی طرف متوجہ ہوتے کی فرستت نہیں ہوگی۔ اس طرح عرفات، مزوالفہ اور منی میں اس طرح اپنے آپ کو دھا اور مذاجات میں مشغول رکھنا چاہیے کہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کی آدمی کو فرصت ہی نہ ملے۔

اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ عالمِ احرام میں عورتوں کو چھرے کھلنے کا جو عمل ہے وہ حج اور ایامِ حج کے سماں سے ہے جو اس کافی الواقع ہونا چاہیے۔ حج کا تحقیقی مزاج درویشی اور زندگانی کی کوشش کرے، بناو سنگار، تهدو نماکش اور دسر دل پر اثر کو بھی حج کے مزاج کے مقابلے بنانے کی کوشش کرے، بناو سنگار، تهدو نماکش اور دسر دل پر اثر انداز ہرنے کی ہر خواہش اور ہر کوشش سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ عورتوں کو باحضور اس چیز کا خالص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کا کوئی غلط انداز صرف اتنی کے حج کو نہیں بلکہ دسر دل کے حج کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔

جو م الواقع تصادم اور کش مکش کے ہیں شلا جھرا سود پر یا مطافت میں، یا قبر بُری پر یا می عمرہ کے وقت وہاں ہر مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ تصادم سے بچائے اور اس تصادم سے بچنے کے لیے اگر اولیٰ کو چھوڑ کر وہ شرعیت کے ادنیٰ پر عمل کرے تو ان شاء اللہ اس کو فتنہ اور تصادم سے بچنے کی کوشش کی وجہ سے اولیٰ کا ہی ثواب ملے گا۔ مردوں کے مقابل میں اس بات کا خیال و اہتمام عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ عورتوں کے سینے پر بھر

یہ ہے کہ ان تمام مواقع پر حاضری کے لیے وہ اوقات منتخب کریں جن میں وہ مردوں کے ساتھ تصادم سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اگر کسی محرومی کے بعد سے اس تصادم سے سایقہ پیش آہی جائے تو انہیں ان خصوصی سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو عورتوں کے لیے شریعت میں ہیں۔ بہت سے لوگ جن میں مردوں کی طرح عورتیں بھی شامل ہیں، شریعت کے اول و افضل پیغام کرنے کے جوش میں دھکم پیل کر بھی ایک نیکی کا کام بھروسہ ہے، میں اور اس نیکی کے کامنے کے شوق میں بہت سی دوسری نیکیوں کو رپا دکر کے رکھ دیتے ہیں۔

**حدود اشد اور شعائر الہی کی بے حرمتی** حج کے سلسلہ کی دوسری افت حدود اشد  
ہم اشدہ کہ کچے ہیں کہ ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی میں شریعت کی جو پابندیاں ہیں جس ان پر مزیدیت سے اضافے کر دیتا ہے۔ حج کا ہمینہ محترم، حج کے مقامات محترم، حالتِ احرام کی پابندیاں محترم، حدیہ ہے کہ حالتِ احرام میں آپ اپنے بال اور ناخون بھی اگر ترشادیں تو اس سے بھی حج کی حرمت کو پڑھ لگاتا ہے جس عبادت کی نہ اکتوں کا یہ عال ہو، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں دین کے لئے احکام و اداب کا اہتمام کس درجہ مطلوب ہو گا۔ میکن واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں شریعت کے احکام و اداب پابندی کے عادی نہیں ہوتے، وہ حج کے موقع پر کچھ اور زیادہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں اور تدمیر قدم پر ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو اس فسوق کے تحت آتی ہیں جس سے قرآن نے حج کے سلسلہ کی دوسری افت قرار دیا ہے۔

بہت سے لوگ بات بات پر لڑتے جگہ ہتھیں، از ادھی کھساتھ کام گوچ کرتے ہیں۔ میں دین میں بد معاملیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو نقضان پنچاتے ہیں۔

بہت سے لوگ شرم و چیا کے تمام حدود والائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ عین حرم کے پاس ہزاروں گزر نے والوں کے سامنے ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں۔ نہ انہیں حرم کی پرواہوتی سے، نہ اسے جانتے والوں کی بعض لوگ جن میں خلائق بھی شامل ہیں، اخترام بست انتہا اور چیا کے احساس سے اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ زرم کی ٹوپیوں کے نیچے نگکے ہو کر نہاتے ہیں۔ بہت سے لوگ حرم کے ہر حصہ میں لاس بے تکلفی کے ساتھ تھوکتے اور ناک صفات کرتے ہیں۔

کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں حرم اور غیر حرم میں سفر سے کوئی امتیاز ہی نہیں ہے، باخصوصی جن خواتین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں وہ تو حرم کے احترام کے معاملہ میں بالکل ہی بے پرواہوتی ہیں۔ اس طرح کل باتیں زیادہ تر دوپتیوں کا تisper ہیں؛ ایک ناداقفینت کا، دوسرا تھہدید تربیت سے محرومی کا۔

ان دونوں پتیزوں میں سے جماں تک علم و اقفینت کی کمی کا تعلق ہے، یہ سلسلہ کچھ بہت زیادہ شکلی نہیں ہے۔ تقریباً تمام مسلمان مالک بیس حج کے سرکاری ادارے موجود ہیں۔ اگر یہ ادارے اپنے سامنے جمایج کو آداب حج اور آداب حرمین شریفین سے واقف کرنا بھی رکھ لیں اور سعودی حکومت بھی اپنے تمام متعلق شعبوں کے ساتھ دوران حج میں اس کے لیے مستعد ہو جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہر طبقہ اور ہر درجے کے جمایج کو ساری ضروری باتوں سے رافقت کیا جاسکتا ہے۔

پاکستان کی حکومت اگر اس امر کا اہتمام کرے کہ جس وقت سے کوئی پاکستانی حج کے لیے درخواست دیتا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب تک وہ پاکستان کے ساحل کو چھپوڑتا ہے، اب اپنے کسی تو نویت کے ان باتوں سے واقف ہوتا ہے جو باتیں اس کے لیے نظر مقدم کے لیے ضروری ہیں تو یہ اہتمام ایک اسلامی حکومت کے پیلوں سے اپنے جمایج کے لیے اس پر ضروری بھی ہے اور اس کا اہتمام بغیر کسی خاص زحمت اور بغیر کسی خاص بڑے خرچ کے وہ کریمی سنت ہے جن مختلف شکلیں ایسی اختیار کی جاسکتی ہیں جن سے عائزین حج کے کافی اور ان کی نکاح ہوں سے وہ ساری پتیزیوں گذرا جائیں جن کا اہتمام عادیں حج کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے پنکٹ بھی چھاپے جاسکتے ہیں جنکے دفتروں سے لے کر حاجی کمپ اور کشمکش ہر جگہ دیواروں اور تختیوں پر ضروری ہدایات بھی لکھی جاسکتی ہیں، حاجی کمپ میں مددگار انجمنوں کے تعاون سے آداب حج سے متعلق تقریبہ کا بھی اہتمام کیا جاسکتا ہے۔ حج کے زمانے میں ریڈیو سے حج اور شعائر حج کے مقاصد اور ان کے آداب و احکام پر علاوہ سے تقریبی بھی نشر کرائی جاسکتی ہیں اور بڑی آسانی سے کم از کم حاجی کمپ میں پھرنے والے جمایج کے لیے ایک ریڈیو لکھا کر ان تقریبوں کے سنبھلنے کی آہان بھی بہم پہنچاؤ جاسکتی ہے۔ جمازوں پر ایسا ایرجی مقرر کرنے کا وسنوں موجود ہی ہے۔ یہ وسنوں بھی نہایت اچھا ہے البتہ اس امر کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہر جمازو کے لیے ایرجی ایسا منتخب کیا جائے جو وی علم برادر

اں کے لیے وہ ضروری سولتیں حکومت اور جہازی کمپنیوں کی طرف سے بہم پہنچائی جائیں جو جہان کے دوران سفر میں عازیزین حج کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سوویں سولتیں بہم پہنچائیں سے اس مقصد کے لیے نوزوں اشخاص میرا سکتے ہیں۔

یہ کام جس طرح حکومت کے کرنے کے ہیں۔ اسی طرح دینی و مذہبی انجمنوں کے ہمی کرنے کے لیے ہیں۔ ان انجمنوں کو کم از کم حج کے میتوں میں اس بات کے لیے فکر نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بھائی سفر حج کی صوبیں برداشت کرتے ہیں اور اس کے لیے کثیر مصادف کا بوجہداٹھاتے ہیں، ان کا یہ سفر ہر سپور سے تجویز خیز اور پابرجکت ہوا وہ اپنی بے عملی اور عدم تربیت کے بعد سے اپنی اس تعلیم و مفت کو ضائع نہ کر سکیں۔ اگر ہمارے ملک کی انجمنیں اس کی حقیقی اہمیت حکومت کریں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح وہ اپنے ملک کے عوام کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں بڑی مفید خدمت انجام دے سکتی ہیں اور اس کا ان کو اخراج میں بڑا اجر ملے گا۔

اس سلسلے میں رہبے بڑی ذرداری سعودی حکومت کی ہے لیکن میں نے ذاتی تجربہ سے جو ہو کیا ہے کہ سعودی حکومت کی ساری سرگرمیاں ججاج کے حل و تقلیل تک محدود ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے معاملے سے یا تو وہ کوئی خاص و پچیسی رکھتی ہی نہیں یا ایام حج میں اس کے اوپر انتظامی معاملات کا اتنا بوجہدا اڈپتا ہے کہ وہ اس پہلو کی طرف کوئی توجہ نہ سکتی۔ حالانکہ اگر وہ اس پہلو کی طرف تو یہ صے تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اس کے پاس معلمین کا وسیع نظام ہے۔ یہ معلمین جس طرح مناسک حج کی ادائیگی میں ججاج کی راہنمائی کرتے ہیں، دوسری ضروری یا توں کی تعلیم کے لیے بھی فریغہ بن سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کا شعبہ امر بالمعروف و نبی عن المنکر بھی اگر مستعد ہو کر کام کرے تو بڑی مفید خدمت انجام دے سکتا ہے۔ روزانہ حرم میں لاڈو پسیکر سے ضروری ہدایات نشریہ کی جا سکتی ہیں جنہیں زبانوں میں پرچلت چاپ کر بھی قیمتی کیے جا سکتے ہیں اور حرم کے تمام دروازوں پر پڑے ہے بیانہ بورڈوں پر ضروری یا تین مختلف زبانوں میں لکھی جا سکتی ہیں۔

اگر اپنے اپنے ملکوں سے لے کر حج کے تمام مقامات و مناسک تک ججاج کے سامنے سے ضروری ہدایت گزرتی رہیں تو یہ بے اثر نہیں رہ سکتی۔ ان سے صرف وقتی ہی فائدہ نہیں ہو گا بلکہ کم و میش تین میتوں کے اندر اندر (جو ایک حاجی اس سفر میں گزارتا ہے) اس کو اس سے گزر کر ایک

حاجی وہ ساری باتیں سیکھے سکتا ہے جن کا سیکھنا ضروری ہے۔

رہنمائی تربیت کا معاملہ تو یہ معاملہ بہت مشکل ہے جس کے موقع پر فی الواقع صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے مسلم معاشرہ کا تندیب و تعلق، تربیت اور اخلاق و آداب کے بحاظ سے کیا حال ہے؟ اس پہلو سے تقریباً تمام مسلم مالک کا حال یکساں ہی معلوم ہوتا ہے اگر فرقہ ہو گا تو اس پچھے درجے اور وُگری کافر قہوگا رصاف نظر آتا ہے کہ مسلم معاشرے کے ذمہ داروں نے خواہ وہ حکمرانوں کے قبضہ سے تعلق رکھتے ہوں یا عام علاعہ و مصلیین کے طبقہ سے، اپنے اپنے ملکوں کے عوام کو اسلامی مفہوم میں مدد و نفع بنانے میں بہت کم حصہ لیا ہے۔ حالانکہ یہ ذمہ داری کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹبری ٹبری باتوں سے لے کر آدابِ طہارت و استنباتیہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو بتاییں اور عربوں چیزیں اکھڑ لوگوں کو تندیب و شاستریگی کا نمونہ بنادیا۔ حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو شاششہ اور مذہب زنانے میں بوجھتہ رہا ہے۔ اس کی دادا بیرافی سپہ سالار رحمن نے ان لفظوں میں روی بھی کہ امکل عمر حکیمی یعنی علماء عمر برائیکیجو کھا گیا کہ اس نے وحشیوں کو تندیب کیا۔

**الملاب الاداب**

وآداب کا نمونہ بنادیا۔

انہی حضرت عمرؓ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کو تصریم پر مشکل کرتے دیکھ لیا تو وہی اس کو تنبیہ فرمائی۔ کاش ہمارے حکمران، ہمارے تاؤین اور ہمارے علماء اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ عام اس سے کرو ہ جماز، شام، مصر، عراق، ٹرکی، ایران اور افغانستان کے ہوں یا پاکستان کے۔

**جنگ و جدال** یہ سفر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بروم اور اثر و حرام کے بعد سے ایک کام مفاد و درسے کے مقام سے قدم قدم پر ٹکراتا ہے۔ کچھ مالک کی گرم آب و ہرا کا لوگوں کے مزاجوں خاص طور پر باہر سے آئے والوں کے مزاجوں، پر اثر پڑتا ہے اور سب سے زیادہ دخل اس میں شیطان کی دسویہ اندازیوں اور فتنہ ایگزیزوں کا ہوتا ہے۔ کیونکہ عزیزات کا دن شیطان کی سب سے زیادہ ذلت درسوائی کا دن ہے۔ اس وجہ سے اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دہ آدمی کے اس سفر کے درران میں اس کو قدم قدم پر ٹھوکریں کھدا نے اور اپنی کامیابی اور سخردی پکے زیادہ

سے زیادہ مراقب پیدا کرے۔ چنانچہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سفر میں لوگ جدال کے فتنے میں بہت بستا ہوتے ہیں۔ صرف گاڑیوں اور بسوں میں سوار ہوتے وقت ہی نہیں بلکہ حرم میں، طواف میں جگہ اس پر، ذریم پر ہر جگہ اس فتنے میں بستا ہو جاتے ہیں بلکہ سچے نسایت افسوس اور صدمے کے سانحہ ریبات کمی پڑتی ہے کہ میں نے میں بہت اشد کے دروازے کے اندر اور روپتہ تمدنی کی جایوں کے راستے لوگوں کو لادتے ہو چکتے اور پھتے چلاتے دیکھا ہے۔

اس آفت کا عام علاج تو اپر بیان ہو چکا ہے لیکن ایک خاص چیز جو ہر عازم حج کو ہر قدم پیش نظر رکھتی چاہیے اور جو اس فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جس وقت اس سفر کے لیے محض سے قدم نکالے، اسی وقت کے دل میں یہ ٹھانے کے کراس سفر کا اصل فرماج ترکِ دنیا اور دویشی ہے اپنی شان اور اپنے وقار و احترام کا خیال بالکل دل سے نکال دے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن شیئ کرے کہ اس راہ میں اس کو جو ذات اور تسلیعت بھی پیش آئے گی اور جس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گی، اپنے لیے آرام حاصل کرنے کی کوشش کی بجائے حتی الامکان دوسرے دن کو آرام پہنچانے کی فکر کرے۔ ہر وقت ذکر الہی میں مشعری سہے اور شیطان کے فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا رہے۔ جن مراقب پر اس کو تھادم اور بیگ و جدل کا اندیشه ہوان سے حتی الامکان دور رہے۔ بیان تک کہ اگر اس بیگ و جدل سے بچنے کے لیے اس کو شریعت کے افضل سے خود میں کراؤں اپنی عبادت کرنی پڑتے تو اس ارتے پر قناعت کر لیں لیکن شیطان کو اپنے اور قابو پانے کے راہ نہ رہے۔

**فزاد نیت** فزاد نیت کا فتنہ جس طرح ہر کام کے ساتھ لگا ہوا ہے اسی طرح بلکہ دوسرے کاموں کی نسبت کمیں زیادہ وہ اس عبادت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ ہیزابی ہے کہ اس کی چھوٹت جہاں بھی پائی گئی یہ آدمی کی ساری عبادت کو چوپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اس طور پر فزاد نیت سے متعلق لوگوں کے سامنے صرف یہ ہیزاب ہے کہ آدمی حج کے لیے اس ارادے سے بخل کر لوگ اس کو حاجی کہیں یا یہ کہ لوگ اس پر اس پتو سے تکرہ چینی ذکریں کہ اس نے مالدار ہو کر یا ایک لیڈر اور مذہبی پیشووا ہوتے ہوئے حج کا فریقہ ادا نہیں کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر کوئی شخص بعض اس طرح کے مختار تھے تھیت حج کے لیے بخل کریں کہ اس کا یہ بخنا حج کے لیے نہیں ہو سکا بلکہ

جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ لکل امری مانوی اس کا جو اسی مقصد کے سے ہے تو گاہی پر مقصود کے لیے وہ گھر سے مکلا ہے لیکن اس زمانے میں چوں کہ کسی شخص کا حاجی ہونا لوگوں کی نگاہوں میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے اس محک کی بھی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہی۔ اس زمانے میں بعض دوسری چیزوں اس سے زیادہ قابلِ نحاظ ہیں۔ مثلاً یہ کہ:

بُرَبِّكَ لَوْلَجِ عَرَبِ حَدَّاجَةٍ مَّا نَعْلَمُ  
یہیں، اسی طرح درگاہوں اور مزاروں پر مختلف قسم کی متین اور مرادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ کسی کو اولاد کی تناہی ہے، کسی کو کسی پر فتح پانے کی آرزو ہے، کسی کو کسی خاص رشتے کی تناہی ہے بالخصوص عورتوں کے طبقہ میں تو ایک بڑی تعداد ایسی ہی خواہیں کی ہوتی ہے جن کے لیے بیت اللہ اور مسجد ہ بخوبی کی اگر کوئی اہمیت ہے تو اسی پہلو سے ہے کہ وہاں وہ اپنی مخصوص قسم کی مرادیں پوری ہونے کی توقع رکھتی ہیں۔

اس بات سے کوئی شخص اکار نہیں کر سکتا کہ یہ مقدس مقامات ہر قسم کی جائز دعا کے لیے ثابت باہر کت مقامات ہیں۔ لیکن یہ افرق ہے اس بات میں کہ کوئی شخص اسی طرح کی مرادیں ول میں لے کر کچھ کے لیے جائے اور اس بات میں کہ ایک شخص نکلے ذریح کے مقصد سے لیکن وہاں وہ اخروی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے جائز دینی اغراض کے لیے بھی دعائیں کرے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ہر لوگ حج کے لیے محض اپنے مخصوص قسم کے دینی مقاصد ہی کے لیے نکلتے ہیں، امشد تعلیم کے ہال ان کے حج کی قدر و قیمت نہیں ہے۔

اسی طرح بہت سے لوگ اس زمانے میں حج مخفی کاروباری مقصد کے کرتے ہیں۔ جماز میں چونکہ باہر سے آنے والی چیزوں پر ٹوٹی نہیں ہے اس وجہ سے بہت سی چیزوں بالخصوص تندی چیزوں پر ٹوٹ کر بازاروں کی بیت سے وہاں کے بازاروں میں بہت سستی ملتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جماز کا سفر تو فی الحقیقت وہاں کی اس ارزانی سے نفع کانے کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کے لیے حج کو ایک بہانہ بناتے ہیں۔ جن لوگوں کے پیش نظر اس طرح کا مقصد ہو وہ اس زمانے میں بھبھ کر زر مبادله، کشم اور سکنگ کی روک تھام کے قوانین کی گوناگون پابندیاں ہیں۔ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ خدام کے بہت سے قوانین کی بھی نافرمانیاں کریں اور اپنی حکومت اور جماز کی حکومت کے

بہت سے قوانین کو بھی توڑیں۔ علاوه ازیں اس طرح کے لوگ اپنے ناجائز مقاصد کے خصول کے لیے بہت سے دوسرے حاجیوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس طرح ان کے فتنہ کا دائرہ صرف انہی تک یا ان کے ایجنٹوں تک ہی محدود نہیں رہ جاتا بلکہ وہ اپنی ہوشیاری سے بہت سے دوسرے بیگناو لوگوں کو بھی اپنے دام میں پھنسایتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جو لوگ اس قسم کے اغراض کے تحت حج کے لیے بخلتے ہیں ان کا حج اچح نہیں بلکہ محض ایک تجارت پر اپنے آپ کو ملٹھن کرنے کے لیے پہنچتے ہیں کہ قرآن نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ سفر حج کے دوران میں آدمی کو کمی تجارت کر سکتا ہے۔ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کی اجازت دی ہے لیکن اسماں وزمیں کافر قہقہے اس تجارت میں جمیں کہ قرآن نے اجازت دی ہے اور اس اسمگنگ میں جس کے لیے بہت سے لوگوں کے حج کو ایک بہانہ بنالیا ہے۔

اسی سے ملتا جلتا فتنہ حج بدال کا فتنہ بھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے حج بدال کو بھی ایک کاروبار بنا کر کھا ہے جو اہل ثروت خود سفر حج کی مشقت نہیں اٹھانا چاہتے اور درینداری کے تقدیم کے تحت حج کے ثواب کے بھی مخفی ہیں وہ کسی دوسرے شخص کو حج کے معادوفت میں کر اپنے قائم مقام کی حیثیت سے نیچ ہیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کی طرف سے روپے لے جاتے ہیں اور مگر معلمہ میں وہ کسی معلمہ کے حوالہ کر دیتے ہیں کہ وہ یا تو خداون کے قائم مقام کی حیثیت کے حج کر دے یا اپنے کسی آدمی سے کراوے اور عرفات کے دن وہ ان میں سے ہر ایک کو ملٹھن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ احرام جو انہوں نے باندھ رکھا ہے، انہی کے عزیز کی طرف سے بہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ شریعت میں بعض حالات میں حج بدال کی اجازت ہے لیکن وہ حج بدال بالکل متفہمت ہیز ہے۔ اس کاروبار سے جو آج کل حج بدال کے نام سے ہو رہا ہے شوارکی حقیقت سے بے خبری پر لوگوں کو حج کے شوار اور مناسک کی روح اور حقیقت سے باکل ہے جسرا ہے، میں لوگ عقیدت کے خذبے کے ساتھ جاتے ہیں اور معلم حضرات ان سے جو


رسوم ادا کر دیتے ہیں، آنکھ بند کر کے ان کو ادا کر کے چلے آتے ہیں روح اور طواں کی حقیقت کا پتہ نہ جبراً کو دکھانے کا مدعا کسی پر واضح، نہ یہ عدم کہ کسی کیمول کی جاتی ہے، قربانی کی اصلی روح کیا ہے۔ رسمی مجرمات سے ہمارے اندر کسی روح کو زندہ اور بیدار رکھنا مقصود ہے۔ اجتماعی عرفات کی تحقیقت ہے۔ الغرض جتنے بھی شعائر ہیں، عامہ طور پر لوگ ان کو مخفی رسوم کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ نہ ان کی معنویت کا کسی کو کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ اس چیز سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا کوئی معمول انتظام و اہتمام ہے اور نہ لظاہر اس چیز کے سے لوگوں کے اندر کوئی حلیب ہی پائی جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ تبر عبادت مخفی رسوم کی خانہ پری بنا کر رہ جائے گی وہ روحی اور دلوں پر کیا اثر انداز ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے حج کا تحقیقی فائدہ بست کر لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے۔

ہمارے اہل علم کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن مجید اور احادیث میں حج کے شعائر کے بیان کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ لفظ ہی اس حقیقت پر گراہ ہے کہ ان شعائر سے مقصود اصل وہ معانی اور رحمائی ہیں جو ان شعائر کے ذریعے سے ہمیں سجدتے گئے ہیں شعرہ اس چیز کے ساتھ میں جو کسی معنوی اور روحانی حقیقت کو محسوس کرانے اور یاد دلانے کے بیان کی گئی ہے۔ حج کے سلسلہ کی ہر چیز کسی نہ کسی معنوی حقیقت کی ایک محسوس تغیر ہے۔ اس وجہ سے اس کی حقیقی برکت اسی صورت میں ادمی کو حاصل ہو سکتی ہے جب کسی شعرہ کی ادائیگی کے وقت ادمی اس معنویت کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرے جو اس کے اندر رضہ ہے۔

افسرد ہے کہ اب تک حاج کو حج کی حقیقت سمجھاتے کے سلسلہ میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا ہے، عامہ طور پر حج پر جو رسانی لکھے گئے ہیں، ان میں بھی مناسکِ حج کے طریقے اور ان کے احکام بیان کر دیے گئے ہیں کہ طواں کس طرح کرنا چاہیے اور سی کا کیا طریقہ ہے؟ ان مناسک کی حکمت اور ان کے فلسفہ سے کوئی تعریف نہیں کیا گیا۔ حرم میں حج سے متعلق جو تقریبیں ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ ترجیح کے ظاہری احکام و آداب ہی سے متعلق ہوتی ہیں۔ ان احکام کی روح اور ان کی غایت سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ مزدودت ہے کہ اہل علم اس شدید کی کا احساس کریں اور حج کے اسرار و فلسفہ پر ایسی تکالیف کیمیں جو لوگوں کو حج کے باطن کی طرف متوجہ کر سکیں۔ اس چیز کی غدت

یہیں تو تہیش رہی ہے اور ہمیشہ شہر سے گئی میکن اس زمانے میں اس چیز کی اہمیت خاص طور پر اس بحث سے بہت بڑھ گئی ہے کہ یہ دور غفلت کا دور ہے۔ موجودہ زمانہ کے تعلیم یافتہ لوگ اول ترین کی طرف مائل ہی بہت کم ہوتے ہیں اور اگر مائل ہوتے ہیں تو قدر ان طور پر ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دین کے پر حکم کی عدالت اور فلسہ کو بھیں۔ دین کے خادموں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی اس تشنج کو دور کرنے کا سامان کریں۔



# لکان فروزنگتائیں

**حیات امام ابو حنیفہ**

از ابو زہرہ مصری

ترجمہ پروفیسر حمزی قیمت روپے

**حیات امام احمد بن حنبل**

از ابو زہرہ مصری

ترجمہ سید رئیس احمد جعفری۔ قیمت روپے

**اسلامی مذاہب**

از ابو زہرہ مصری

ترجمہ پروفیسر حمزی قیمت روپے

**ترکیب لفظ**

از مفتخر قرآن مولانا امینت احسن صلاحی۔

قیمت روپے

**دکشنری تاجران کتب کارخانہ بازار فصل آباد**

فونٹ ۲۴۳۷۵